

اٹھو دگر و حشر نہ ہوگا پھر کبھی ☆ دو ڈونمانہ چال قیامت کی چل گیا
(علامہ اقبال)

آخری صلیبی جنگ

(حصہ دوم)



از
عبدالرشید ارشد

فون: 0454-720401

(رجسٹرڈ)

جوہر پریس بلڈنگ جوہر آباد

لنور پریس

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to the high contrast and noise of the scan.

مرکزی دہلی سرکاری جامعہ پنجاب
فسوی گفٹ
عطیہ النور ٹرسٹ رجسٹرڈ
لیجوہریس بلنگک جوہر آباد
720401 722130



22-02-05

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَدَنی سَنَدِی
مَدَنی سَنَدِی
مَدَنی سَنَدِی

DATA ENTERED

۲۹۷۶۹

۱۳۵۱

حقوق ہر مسلمان کے نام محفوظ

65715
(حصہ 2)

GIFT BOOK

ACC. G. 14. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Date... 11. 11. 05. 05. 05.

P.U. LIBRARY L.H.K.

”آخری صلیبی جنگ“ (حصہ دوم)

عبدالرشید ارشد

قاسم حمید حامد (BRVO) جوہر آباد

میاں عبداللطیف جوہر پریس جوہر آباد 41200

فون نمبر: 0454-722130

دی سوسائٹی انورٹرسٹ (رجسٹرڈ) جوہر آباد (RP/65-91)

فون نمبر: 0454-720401

125 روپے

1000

☆.....☆.....☆

انتساب

صدیقہ حیات کے نام
 جس نے 38 سال کے دوران حق رفاقت
 ادا کرتے میرے بہت سے
 کام اپنے ذمہ لے کر
 مجھے لکھنے کی فرصت مہیا کی۔

اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی
 اور دین کی خدمت کی توفیق
 نصیب رکھے۔ آمین یا رب العالمین

عبدالرشید ارشد

اے روحِ محمد!

شیرازہ ہوا ملتِ مرحوم کا ابتر!
 اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے!
 وہ لذتِ آشوب نہیں بحرِ عرب میں
 پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوقان کدھر جائے!
 ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد
 اس کوہ بیاباں سے حدی خوان کدھر جائے!
 اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمد!
 آیاتِ الہی کا نگہبان کدھر جائے!

☆.....☆ ☆

آئینہ

صفحہ	مضامین	بر شمار
13	ابتدائیہ	.1
15	تقریب	.2
17	تجرے و تاثرات	.3
29	ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف خشکی کے آکٹوپس	.4
47	افغانستان پر پابندیاں اور ملت مسلمہ	.5
55	صرف جھوٹ کی اشاعت ہوگی	.6
67	ٹیلی ویژن اور قومی کردار کی تباہی	.7
71	قوم کے کردار و اخلاق کے محافظو..... ایک نظر ادھر بھی!	.8
74	عصر حاضر میں میڈیا کا محاذ..... علماء کے لئے لمحہ فکریہ!	.9
80	کرپشن کے متلاشیو..... ایک نظر ادھر بھی	.10
94	زراعت: قدم قدم بحران	.11
107	اسلامی جمہوریہ پاکستان کے استحکام کا ضامن..... نظام عدل	.12
115	اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حقیقی ضرورت..... علم یا تعلیم!	.13

- 126 14. عیسائیت کے کچھار..... تعلیمی ادارے اور ہسپتال
- 142 15. تیل کا ہتھیار..... فیصل شہید سے یہود تک
- 153 16. ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات
- 161 17. بھیڑ کا احتجاج بھیڑیے کی فطرت نہیں بدل سکتا
- 167 18. ضمیرہ ”فری میسنری“ پر تبصرہ
- 172 19. خالق نے مخلوق کے لئے سود حرام کیوں کیا؟
- 188 20. خاندانی منصوبہ بندی اور تحریف قرآن
- 202 21. خاندانی منصوبہ بندی اور قدرت اللہ شہاب، جعفر شاہ پھلواری
- 225 22. خاندانی منصوبہ بندی، بڑھتی آبادی، گھٹتے وسائل، سچ کیا ہے؟
- 244 23. خاندانی منصوبہ بندی کے فتوے کی حقیقت
- 270 24. خاندانی منصوبہ بندی پر ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام خط
- 272 25. لمحہ فکریہ..... مسیحی NGOs کی اسلام بیزار سرگرمیوں کا جائزہ

آزادی و حقوق نسواں

سماجی اداروں کے روپ میں اسلام دشمنی

1. عورت کی نصف گواہی خراب ہے

2. عورت کی نصف گواہی قرآن و حدیث میں

3. عورت کی آدمی گواہی اور طب

عورت کا حقیقی مقام

جبر قرآن کی روح کے خلاف

پرہیز کیلئے عورت پر جبر

پرہیز اور معاشرتی زندگی

گمراہ کن سرخیاں

سرخیوں کا مختصر جائزہ

قائد اعظم کا پاکستان

آئین پاکستان (تعارف، بنیادی حقوق، پالیسی کے اصول)
 قرار داد مقاصد، شریعت ملی کاستن، شریعت ایکٹ
 سیسی، مسلمان عورت کے حقوق کیسے؟
 مسلمان خواتین کے حقوق کی بحکمر دار تنظیمیں
 حقوق نسواں کے لئے پاکستان میں تنظیموں کا مشترکہ ایکشن
 قانونی اصلاحات کے لئے لکیشن کارروائی
 مذہب کا تسخر

321

2. محاکمہ..... بائبل کورسز کے حوال اور عیسائیت کا پھیلاؤ
 تورات شریف و انجیل شریف کی صحت و حقانیت
 توراہ و انجیل انسائیکلو پیڈیا میں
 بائبل تدوین توراہ
 مصنف کے دلائل کا تجزیہ "اللہ تعالیٰ کی وصیت
 تورات کے اندرونی تضادات اور عمدہ عتیق کے تین ادوار
 حضرت نوح بھی سچائی اور راستبازی سے بھرپور تھے
 اللہ کی باتوں کو کبھی زدواں نہیں ہے
 اتصال و تواتر۔ بائبل کی گمشدگی اور بازیابی
 بائبل کی دوسری سے پہلی گمشدگی اور بازیابی
 قدیم نسخے اور بحر مردار کے مخطوطات
 تورات و انجیل میں تحریف کب ہوئی
 تورات و انجیل کی قرآن سے تصدیق کی حقیقت

☆.....☆.....☆

انہار کے انکار و تخیل کی گدائی!
 کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟

ابتدائیہ

بارگاہ رب العزت میں شکر و سپاس کا جو ہدیہ بھی پیش کروں کم ہے کہ میری علمی کم مائیگی اور تہی دستی کے باوجود اس نے اپنے خصوصی فضل و احسان سے نواز کر مجھ سے ایسا علمی و تحقیقی کام کروایا جسے اہل علم نے میری ہر توقع سے بڑھ کر سراہا۔ میرا یہ کام ”آخری صلیبی جنگ“ (حصہ اول) اور وثائق یہودیت کا اردو ترجمہ ہے۔ یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ صرف میرے رب کی رحمت کا کمال ہے۔

مجھے اس پہلو سے بھی خوشی ملی اور جذبات تشکر میں اضافہ ہوا کہ میرے اس کام کی بنیاد پر پوسٹ گریجویٹیشن کی تکمیل کے لئے تھیسس مکمل ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

”آخری صلیبی جنگ“ کے چوتھے حصہ اول میں رہ گئے تھے ان کو حصہ دوم کی صورت میں آپ سے متعارف کرایا جا رہا ہے اور اب بھی فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے کہ میری اس محنت کی حیثیت کیا ہے۔ پسند آئے تو دعا فرمائیے۔ غلطی کی نشاندہی کریں گے تو میری اصلاح ہوگی۔ آپ میرے محسن ہونگے۔

اس حصے کی تیاری میں میرے ”ان دیکھے“ محسن حسین صحرائی صاحب بہ بہت حصہ ہے جنہوں نے لائحہ عمل میری حوصلہ افزائی فرمائی۔

محترم حسین صحرائی صاحب نے ”آخری صلیبی جنگ“ کے پہلے حصے سے سندھی زبان میں ترجمہ کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے جب کہ پشتو اور فارسی زبان میں ترجمہ افغانستان کے سوہ پلجیا کے ڈائریکٹر اطلاعات و نشریات اور سپریم کمانڈر مولوی محمد امیر احمدی صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ دونوں حضرات کے فی سبیل اللہ تعاون کے لئے ممنون احسان ہوں۔

عبدالرشید ارشد

جوہر آباد

15 اپریل 2001ء

☆.....☆.....☆

تقریظ

(از لیفٹیننٹ جنرل (ر) حمید گل)

عبدالرشید ارشد صاحب کی سابقہ دو کتابیں ”وثنائق یہودیت“ اور ”آخری صلیبی جنگ“ میری نظر سے گزری ہیں۔ ان کی موجودہ کاوش اسی سلسلے کی کڑی ہے۔

وہ عالم اسلام بالخصوص پاکستان کے خلاف صیہونی سازشوں کے بارے میں قوم کو بیدار کر کے ایک بڑی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ مکار دشمن کے عزائم سے باخبر کرنا بھی جہاد کا حصہ ہے جس کے لئے میں مصنف کی کاوشوں کو قابل تحسین اور صد ستائش سمجھتا ہوں۔ اگرچہ یہودیوں کی سازشوں سے ہمیں چودہ سو برس پہلے مطلع کر دیا گیا تھا۔ خود قرآن نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہم ان تمام تاریخی حقائق اور بنیادی تعصبات کو فراموش کر چکے ہیں جو یہود کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ اس مقام پر ہے کہ مٹھی بھر یہودی سازشی عالم اسلام کی ڈیڑھ ارب آبادی اور ستاون مسلم ممالک کو انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ یہود ہمیشہ اپنے دور کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ الحاق کر کے مسلمانوں کو زک پہنچاتے رہے ہیں۔ خود رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں اسلامی ریاست مدینہ کے خلاف انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر پے در پے سازشیں کیں۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو نقصان پہنچایا۔ اندلس میں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر اپنے لئے جگہ بنالی۔ لیکن جب وہاں سے نکالے گئے تو عثمانی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ کر ان کی خلافت کو ختم کر کے ترک قوم پرستی کی بنیاد رکھی۔

گذشتہ صدی میں یہود نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اعلان بالفور کے ذریعے ایک صیہونی ریاست کی جدوجہد کا آغاز کیا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک صیہونی

ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ فلسطین کی سرزمین غصب کر لی، روسی ریاست کے ذریعے افغانستان پر حملہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ روس کی افغانستان سے پسپائی کے بعد خلیج کی جنگ کا آغاز کیا۔ جس کے نتیجے میں مغرب کی افواج مسلمانوں کے قلب اور مقدس ترین مقامات پر اپنے اڈے قائم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔

اب جب ان کو یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں امریکی عوام ان کی تاریخی ریشہ دوانیوں سے باخبر نہ ہو جائیں اور ان کی حمایت میں کمی نہ ہو جائے تو انہوں نے برہمن کی سوچ کو پڑھتے ہوئے امریکی حمایت کے ذریعے ہندوستان سے تعلقات کو استوار کر لیا ہے تاکہ اگر کہیں مغرب سے ان کی حمایت میں کمی ہو تو اسے پورا کیا جاسکے۔

دنیا کے تمام بین الاقوامی ادارے امریکہ کی مدد سے یہود کے کنٹرول میں آ گئے اور انہوں نے این جی اوز کا جال بچھا لیا ہے۔ ریاستی نظام اور خاندانی نظام کو عقیدے کی بنیاد پر جڑ سے اکھاڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ غربت اور افلاس کے باوجود لوگ قرآن اور عشق رسول سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں بلکہ اس کے لئے اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔

مصنف نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے حقائق کو پیش کیا۔ سوال یہ نہیں کہ یہود کیا کر رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے حکمران ان سازشوں سے بے خبر ہیں یا خود ان کے آلہ کار بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کے لئے کسی سیاسی تحریک کی نہیں (سیاسی تحریک تقسیم کرتی ہے) بلکہ ایک سماجی تحریک کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد میں ایک ایسے پریشگر گروپ کا حامی رہا ہوں جو اخلاص کے ساتھ اقتدار سے ماورا لوگوں کو یکجا کر کے اتحاد اور ایمان کی قوت کے ساتھ ان تمام سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کرے بلکہ ریاست مدینہ کے طرز پر تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورے کرے۔

دیباچہ

(از ڈاکٹر محمد امین پی۔ ایچ ڈی)

صیہونیت کے بڑھتے چڑھتے سائے آج کے گلوبل ویلج کی گلوبل فیملی پر جس رح چھائے ہیں اور لمحہ بہ لمحہ ان کی گھمبیرتا میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ کس بھی باشعور انسان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ امریکہ و روس ہو یا دیگر یورپی ممالک یہ صیہونیت کے مفتوح علاقے ہیں مثلاً برطانیہ کا شاہی خاندان صیہونیت کا سرپرست اعلیٰ ہے اور اسی کی محنت سے ارضِ فلسطین میں اسرائیلی پودہ کاشت ہوا انہی دونوں کی محنت سے ترکی ملافت کا خاتمہ ہوا اور کمال اتاترک جیسے مہرے کے ذریعے اسلامی اقدار کے بنجے دھڑے گئے جس کے بدترین اثرات آج تک ترک افواج کی شکل میں ترکی پر مسلط ہیں۔ امریکہ کے آج تک کے صدور میں سے 17 صدر باضابطہ صیہونی فری میسن تحریک کے رکن رہے اور آج بھی صدارتی کامیابی کے لئے صیہونی سرپرستی امریکی امیدوار صدارت کے لئے ضروری ہے۔

صیہونیت کا اصل مد مقابل اسلام ہے اور مسیحیت کو بھی یہی یقین دلا دیا گیا ہے کہ تمہارا حقیقی دشمن اسلام ہے۔ جس کا برملا اظہار افغانستان میں روس کی شکست کے بعد ایک امریکی صدر کر چکے ہیں۔ جب ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی خالصتاً نظریاتی اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام دشمن قوتوں کو ہر لمحہ کھٹکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بد نصیب پاکستانی قوم نصف صدی میں اسلام کی حقیقی روح سے فیضیاب ہونے میں ناکام رہی۔

عالمی صیہونیت اگرچہ بلا تفریق پنجے گاڑ چکی ہے مگر اسلامی بلاک خصوصاً اسلامی

جمہوریہ پاکستان اس کی زد میں ہے اور خالص سائیکلک انداز میں، آخری صلیبی جنگ جیتنے کے لئے مختلف محاذوں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ بتدریج یہ دباؤ بڑھ رہا ہے بلکہ نت نئے محاذوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔

آخری صلیبی جنگ کے حصہ اول کی اشاعت پر جو محنت مصنف نے کی اس کی ملک کے گوشے گوشے میں توقع سے بڑھ کر پذیرائی ہوئی۔ مصنف نے دلائل و دستاویزی شواہد سے قوم کے سامنے یہود و نصاریٰ کا کچا چٹھارکھ دیا اور یہ فیصلہ قوم کے ذمہ ٹھہرا کہ وہ خوابِ غفلت سے جاگنے کے لئے تیار ہے یا نہیں۔

زیر نظر کتاب آخری صلیبی جنگ کا دوسرا حصہ ہے اور پہلے سے کم و بیش دینی ضخامت کا ہے۔ فاضل مصنف نے اس حصے میں اپنی بات کا آغاز صیہونیت کے سب سے موثر ہتھیار مالیاتی اداروں کی قلعی کھولنے سے کیا ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف، خشکی کے آکٹوپس، ایک چشم کشا مضمون ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دکھوں کی وجوہ کو جو کوئی بھی سمجھنا چاہے اس میں اس کے لئے ہر تفصیل دلائل کے ساتھ موجود ہے۔

اسلامی ممالک کے خلاف عملی جارحیت کی خاطر، جس طرح ماضی میں ایران و عراق و لیبیا اور سوڈان ٹارگٹ تھے بلکہ اب بھی ہیں، اسی طرح افغانستان پر پابندیوں کے بہانے اب افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لئے امریکہ اور اس کے حواری پرتول رہے ہیں، سامنے بظاہر اسامہ بن لادن ہے مگر اصل نشانہ دونوں اسلامی ممالک ہیں۔ ماضی کے میزائل اس بات پر گواہ ہیں کہ فائر افغانستان پر کئے گئے مگر ”کچھ راستہ بھول کر“ پاکستان کی سرزمین پر آ گئے تھے۔

فاضل مصنف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر ذی شعور کے سامنے آخری صلیبی جنگ کے ایک ایک محاذ کو تجزیہ رکھ دیا ہے۔ بالیقین یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مستقبل کا مورخ یہ تسلیم نہ کریگا کہ اس قوم کو کسی خرددار کرنیوالے نے خرد دار نہ کیا تھا۔ اسکو خوابِ غفلت سے جگانے کی بھرپور کوشش نہ کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔

آخری صلیبی جنگ (حصہ اول) پر تبصرے

۹۹ اسلام دشمن قوتوں پر گہری نظر رکھنے والے عبدالرشید ارشد نے ”آخری صلیبی جنگ“ لکھ کر امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ امت اتنی گہری نیند سو چکی ہے کہ کوئی دھماکہ ہی سے اٹھائے تو اٹھائے۔ انہوں نے بیسیوں کتابیں اور سینکڑوں مضامین لکھے لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی پر اثر نہ ہوا۔ وہ اس کتاب کے اقتساب میں لکھتے ہیں:

”کٹھن راستے کے سبب اپنا پرایا کوئی بھی میرے کارواں میں شامل ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔“

ایک اور مضمون میں اپنی اولاد سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کی اولاد کی طرح میری اولاد نے اس معاملہ میں میرا ساتھ نہ دیا..... لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو صرف کوشش کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ بات کانوں میں ڈالی جاسکتی ہے الفاظ آنکھوں سے پڑھوائے جاسکتے ہیں مگر کسی کا دل چیر کر اس میں اپنی بات بھرنا تو پیغمبروں کے بس کی بھی بات نہیں تھی۔ کتنے ہی نیا ایسے بھی آئے کہ ان کی مسلسل تبلیغ ایک شخص کو بھی تبدیل نہ کر سکی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نیا ناکام ہوئے بلکہ وہ امت ناکام ہوئی جس نے نبیوں کی بات نہ مانی۔ عبدالرشید ارشد اس لحاظ سے کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی اپنی ادھیڑ عمری اور بلاآخر بڑھاپا بھی اس مشن کی تکمیل میں لگا دیا۔ ان کا یہ احساس کہ ”کوئی میری بات نہیں سنتا“ اگر صحیح بھی ہو تو ان کے قارئین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو عملی طور پر ان کے ساتھ نہیں لیکن علمی طور پر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں

ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے عبدالرشید ارشد کی کتب سے تیاری کر کے اپنے تھیس مکمل کئے جنہوں نے اپنے مضامین کے لئے ان سے مواد حاصل کیا، اپنی تقریروں کے لئے ان کے اقتباسات سنائے اور اپنی مجلسوں میں اس صورت حال پر پشیمانی کا اظہار کیا۔

عیسائی حصار

”آخری صلیبی جنگ“ کے آغاز میں ایک نواب کا قصہ درج ہے جو ایک انگریز فوجی افسر سے دوستی کے باعث برطانیہ گئے وہاں دیکھا کہ عربی لباس میں ملبوس نوجوان قرآن حدیث اور فقہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب یہودی اور عیسائی ہیں اور مسلمانوں کے علوم اس لئے سیکھ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر سکیں اور یہود و نصاریٰ کا کام سہل ہو جائے تو وہ پریشان ہو کر واپس لوٹے۔ پاکستان کی بے شمار دینی اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں بھی ان کا خیال یہی ہے کہ ان کے پیچھے نادیدہ قوت پاکستان کو کمزور کرنے کا باعث بن رہی ہے۔

کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”برطانیہ کا حکمران خاندان یہود کی فری مین تحریک کا سرپرست ہے۔ اسرائیلی پودا فلسطین میں برطانیہ نے لگوایا۔ دنیا میں ڈالر ہی واحد کرنسی ہے جس پر یہود کا ٹریڈ مارک اور نگران آنکھ کا بدنام زمانہ نشان ثبت ہے۔“

آگے جا کر لکھتے ہیں ”مسلمانوں کے خلاف آخری صلیبی جنگ کے لئے صف آرا بظاہر نصرانی ہے مگر اس مہرے کی پشت پناہی اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والے یہود ہیں۔ میمنہ اور میسرہ میں کسی جگہ روس ہے تو کسی جگہ ہندو بنیا۔“

پاکستان میں سازشوں اور سازشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں حریت کی چنگاری زندہ ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لئے 1967ء میں NGOs کو منظم کیا، صحافیوں، ادیبوں، دانشوروں اور ٹی وی آرٹسٹوں سے ضمیر کے سودے کئے، افسر شاہی کے موثر نیٹ ورک میں اپنے زر خرید پالیسی ساز بنائے اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں اپنے من پسند لوگوں کو سیاست دانوں اور علماء کے بہروپ میں داخل کیا۔

ٹیلی ویژن پروگرام ڈرامے موسیقی وغیرہ کو سپانسر کرنے والے یہودی سرمایہ کار ہیں جن میں PEPSI کا نام سرفہرست ہے۔ پیپسی درحقیقت مخفف ہے Pay Each Penny Save Israil (اسرائیل کو بچانے کے لئے آخری پینی بھی ادا کر دو) اور ہم ہیں کہ ایک طرف اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کو بچانے کے لئے پیپسی کی بوتلیں استعمال کرتے ہیں)

اس کتاب میں اسلام دشمنوں کے بے شمار پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ہر جگہ مسلمانوں کو آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ تعلیمی اقدار کا خاتمہ، معاشی، تجارتی و صنعتی اقدار کا خاتمہ، سیاسی اقدار کی تباہی، مذہبی رواداری کی تباہی، صحافت اور میڈیا کی تباہی کی بے شمار مثالیں اس کتاب میں درج ہیں۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بے دین این جی اوز کا کردار بحالی معیشت کے لئے امپورٹڈ سفید ہاتھی، خلی سطح تک اقتدار کی منتقلی، ناکام تجربے کو دہراننا بھی کتاب کے اہم مضامین ہیں۔

کتاب اس قابل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف توجہ سے پڑھا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے اور اسلامی حکومتیں ان سازشوں سے بچنے کا تدارک کریں۔ 6
(تبرہ: عبدالوحید سلیمانی)
بشکریہ بیدار ڈائجسٹ، مارچ 2001ء



”اس وقت ہمارے سامنے ”آخری صلیبی جنگ“ نامی کتاب ہے۔ اس کے مصنف مشہور صاحب قلم عبدالرشید ارشد ہیں۔ انہیں یہودیوں کی فتنہ طرازی اور دیگر ممالک میں اس کو پھیلانے اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے سے خصوصی دلچسپی ہے۔ 194 صفحات کی اس کتاب میں پندرہ مضامین دو خطوط اور پانچ اہم لیکن مختلف حضرات کے تحریر

کردہ مضامین کتاب کی زینت ہیں۔

کتاب کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل مصنف کے خیال میں وطن عزیز کی موجودہ صورت حل میں یہودی ذہن، سرمائے اور ان کے کارندوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ فاضل حضرات نے کوئی بات بلاوجہ اور بغیر تحقیق یا حوالے کے بغیر نہیں لکھی بلکہ پورے وثوق اور حوالے کے ساتھ قلم بند کی ہے۔

انتساب میں وہ لکھتے ہیں ”کٹھن راستے کے سبب اپنا پرایا کوئی بھی میرے کارواں میں شامل ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر بے حسی اور بے حمیت کی گھمبیرتا کو چیرتا ہو کر ب آگے بڑھا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ یقین دلایا کہ وہ لحد تک میرا ساتھ دے گا۔“

میاں عبداللطیف دریچہ کے عنوان سے کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں ”آخری صلیبی جنگ“ لکھنے والے نے جنگ کے جارح کی منصوبہ بندی سے اہل وطن کو آگاہ کیا ہے۔ ایک ایک محاذ پر حملوں کے انداز کا اور جارح کے حملیوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ قوم کروٹ بدل لے حکمران اپنا پرایا پہچان لیں اور تائید باری اس قوم کا مقدر بن جائے۔ (ص ۹)

ڈاکٹر محمد امین Phd تقدیم میں رقم طراز ہیں ”مولف نے ”آخری صلیبی جنگ“ کے جارح منصوبہ سازوں کے خلاف اپنا مقدمہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشعور عوام کی عدالت میں سنجیدہ انداز اور بھرپور وزنی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میرٹھ پر مقدمہ ہارنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ بہر حال یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ مولف کی بات میں کس قدر وزن ہے۔ کیوں کہ عوام سے بہتر کوئی جج نہیں ہے۔“ (ص ۱۲)

تاثرات میں حسین صحرائی لکھتے ہیں ”زیر نظر تصنیف ”آخری صلیبی جنگ“ میں فاضل مصنف نے یہودی منصوبہ بہ موسوم ”پروٹوکولز“ سے حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ یہودی پوری دنیا پر اپنا تسلط و اقتدار قائم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ اس کی مختلف

شکلیں کیا ہیں؟ وطن عزیز میں نام نہاد NGOs یہودیت کے آلہ کار کے طور پر خدمت کی آڑ میں کیا کارنامے سرانجام دے رہی ہیں۔ وہ کسی ملک کے نظریاتی تشخص اور اسلامی تعلیمات کا تمسخر اڑا رہی ہیں۔ یہ قوتیں جو اقلیت میں ہیں، وطن عزیز میں مادر پدر آزاد اور مغربی تہذیب کا احیاء چاہتی ہیں۔“ (ص ۱۳ تا ۱۶)

ملک احمد سرور مدیر بیدار ڈائجسٹ دعا گو ہیں ”کاش مسلم دنیا کے حکمران سیاستدان اور دانشور بھی اس آواز کو سن اور سمجھ سکیں۔“ (ص ۱۰)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آواز کو سمجھنے کے لئے کتاب کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ پہلا مضمون جس کا عنوان ہے ”آخری صلیبی جنگ“ (ص ۲۰ تا ۳۸) اس میں مصنف نے تفصیل کے ساتھ یہودی طریقہ واردات حوالے کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ وہ کس طرح ہماری ملی، سماجی، تعلیمی، معاشی مذہبی اقدار اور رواداری کو صحافت، میڈیا، اخبارات کے ذریعے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ UNO کو مسلم امہ پر ناروا پابندیوں اور نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔

دوسرا باب بعنوان ”اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بے دین این جی اوز کا کردار“ (ص ۳۹ تا ۵۲) میں پاکستان میں کام کرنے والی نام نہاد NGOs تنظیموں کے کردار کے اہداف خصوصاً قصاص، دیت اور قانون شہادت ان کے زیر اہتمام شائع ہونے والے رسائل کا جائزہ کہ وہ کس کس انداز سے ایک نظریاتی ملک میں اس کے بنیادی نظریہ دینی اقدار قرآن و سنت کے قوانین کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور ہر قسم کے احتساب سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔

تیسرے باب کا عنوان ہے ”بحالی معیشت کے لئے امپورٹڈ سفید ہاتھی“ (ص ۵۳ تا ۵۶) اس میں ملک کے معاشی بحران پیدا کرنے والے افراد اور اداروں کی نشان دہی کی گئی ہے۔

چوتھے باب کا موضوع ہے ”مچلی سطح تک اقتدار کی منتقلی، ناکام تجربے کو دہرانے“

(ص ۶۳ تا ۵۷) اس باب میں اقتدار کی چلی سطح تک منتقلی کے مضمرات کا جائزہ لیا گیا ہے ساتھ ہی خواتین کی نمائندگی سے جو خرابیاں جنم لیں گی اور NGOs کو جو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی عوامی نمائندوں اور انتظامیہ کے درمیان کشمکش کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پانچویں باب کا عنوان ”قوانین و ضوابط جی ایس ٹی ہو یا زرعی ٹیکس“ (ص ۶۳ تا ۷۱) اس میں ٹیکس کے نفاذ سے غریب عوام اور مہنگائی پر کیسے اثرات بد پڑتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔

ملٹی نیشنل کمپنیز کا رول ”پاکستان فروخت نہ کریں ٹھیکہ پر دے دیں“ (ص ۷۲ تا ۷۴) یہ عنوان چھٹے باب کا۔ نجکاری کے نتیجے میں حکومت کے کنٹرول سے جس طرح حق ملکیت اس ہاتھ سے نکل کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اس سے بڑے ہی درد مندانہ انداز میں قوم کو متنبہ کیا گیا ہے۔

ساتویں باب میں ”میڈیا (پرنٹ و الیکٹرانک) اور یہود“ (ص ۷۵ تا ۸۵) اخبارات، ملکی و غیر ملکی ٹی وی، کیبل چینلز اور ان کے ذریعے پھیلائی جانے والی فحاشی، عریانیت اور اس کے خطرناک نتائج کا جائزہ لیا گیا ہے۔

آٹھویں باب ”افواج پاکستان اور نادیدہ ہاتھوں کے کرشمے“ (ص ۸۳ تا ۹۱) افواج پاکستان سے مسلمانان پاک ہمیشہ والہانہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ ہماری افواج کا ماٹو رہا ہے۔ لیکن کچھ قوتیں اسے تبدیل کر کے عام افواج میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قوت کون سی ہے یہ مضمون اسے بے نقاب کرتا ہے۔

نواں باب ”معاشی بحران اور یہودی منصوبہ ساز“ (ص ۹۲ تا ۱۰۱) پاکستان کے معاشی بحران اسباب و کردار کی نقاب کشائی کرتا ہے۔

دسواں باب ”پاکستان کے ذمہ غیر مسلم ممالک کے قرضے“ (ص ۱۰۲ تا ۱۰۵) کی تفصیلات لئے ہوئے ہے۔

گیارہواں باب ”اسامہ..... یہود و نصاریٰ کے حلق کی پھانس“ (ص ۱۰۶ تا ۱۰۹) جہاد کے حوالے سے بیسویں صدی میں اسامہ بن لادن نے لازوال شہرت حاصل

کی۔ یہودی میڈیا ہر جرم کے پیچھے اسامہ کا ہاتھ تلاش کر لیتا ہے۔ اس باب میں امریکہ اسرائیل کے جھوٹ کی قلعی کھولی گئی ہے۔

بارہواں باب ”قضیہ عراق‘ پس منظر و پیش منظر“ (ص ۱۱۰ تا ۱۱۸) عراق و ایران کی فوجی قوت جو اسرائیل کے لئے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی تھی اس سے نمٹنے کے لئے عراق و ایران جنگ عراق کویت تنازعہ اور اس کے نتیجے میں عراق اور اس کے عوام کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں عربوں کی دولت سمیٹنے اور شاہ فیصل کے بصیرت افروز کردار پر ناقدانہ گفتگو ہے۔

تیرہواں باب ”ہم وطنوں کے نام“ (ص ۱۱۹ تا ۱۳۶) اس میں پاکستان کی آزادی و سلطنت کے درپے ہنود و یہود کے طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہوئے اہل وطن کو خبردار کیا گیا ہے۔

کتاب میں ”خطوط انگریزی زبان میں چھ دیگر مضامین بیجنگ پلس فائیو کانفرنس، گلوبلائزیشن اور لوکلائزیشن کے پس پردہ عزائم، ضلعی حکومتوں کا عالمی استعماری منصوبہ، ضلعی حکومتیں، پاکستانی ریاست کے خلاف خطرناک سازش، اقوام متحدہ کے مقاصد اور چارٹر پر ایک نظر اور سامراجی خطرات شامل ہیں۔ یہ تمام مضامین حالانکہ مختلف حضرات نے تحریر کیے لیکن چونکہ موضوع سے مناسبت رکھتے تھے اس لئے شکر یہ کے ساتھ کتاب کی زینت بنائے گئے ہیں۔

آخری صلیبی جنگ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل مصنف نے کہیں بھی اعتدال سے تجاوز نہیں کیا۔ کتاب میں جگہ جگہ پروٹوکولز سے اقتباس دیکر ثابت کیا ہے کہ یہود کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ حوالہ جات نے کتاب کی افادیت بڑھادی ہے۔ اس سے پہلے عبدالرشید ارشد و ثائق یہودیت کے نام سے یہودی دستاویز کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔

(تبرہ: حسین صحرائی)

شکر یہ ”عمیرہ نمز“ فیصل آباد مارچ 2001ء

☆.....☆.....☆

تاثرات

”آپ کی نئی تخلیق ”آخری صلیبی جنگ“ موصول ہوئی۔ پا کر بہت خوشی ہوئی چونکہ کتاب معنوی اور صوری ہر لحاظ سے خوب ہے۔ آپ نے وثائق یہودیت کی روشنی میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ بہت اہم اور قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بیداری اور منظم جہد و جہد کا مفید ذریعہ بنائے آمین۔ ایسی اعلیٰ قیمتی دستاویز شائع کرنے پر آپ کو دلی مبارکباد قبول ہو۔“

پروفیسر محمد اکرام قریشی
ایم اے سیالکوٹ



”آپ کی کتاب ”آخری صلیبی جنگ“ مجھے منصور الزماں صدیقی صاحب نے دی۔ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اہم موضوعات پر سیر حاصل تحقیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین۔“

عبداللہ شمس
صدیقی ٹرسٹ، کراچی



”میرے ساتھ ہمارے فیکٹری منیجر جو کراچی سے آئے تھے اور صاحب ادب و ذوق کے سلسلے تمغہ حسن کارکردگی بھی اغلباً حاصل کر چکے ہیں، حالت سفر میں ان کو آپ کی

”آخری صلیبی جنگ“ دی۔ چالیس پچاس صفحات پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ کسی
”جے“ نے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے لکھا ہے۔“

میاں عزیز احمد

123-P گلبرگ III لاہور



”آخری صلیبی جنگ“ کو پہلی فرصت میں ختم کر ڈالا۔ ماشاء اللہ بہترین کتاب
لہ تعالیٰ اس کو موثر فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قوت بیان میں اور اضافہ فرمائیں۔

اس میں این جی اوز کے متعلق احقر کو اپنی خاصی دلچسپی کا سامان ملا۔“

حمید اللہ شاہ

مدرسہ مظہر العلوم بنوں



”آپ کی تازہ کتاب ”آخری صلیبی جنگ“ موصول ہوئی۔ اس گرانقدر تحفے
لئے تہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ واقعی آپ نے بڑے ہی اہم موضوع پر
کی ہے۔ کاش پاکستان کے ارباب اختیار اس کا مطالعہ کریں اور اس کتاب میں جن
مدہ خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے قوم کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔“

ڈاکٹر میاں عبدالغنی فاروق

ایم اے۔ پی ایچ ڈی/ڈی ایچ ایم ایس

ایسوسی ایٹ پروفیسر و صدر شعبہ اردو

گورنمنٹ کالج آف سائنس و صحت روڈ لاہور



”آپ کی کتاب ”آخری صلیبی جنگ“ آئی پی ایس لائبریری میں نظر آئی ہے

ابھی تفصیل سے مطالعہ کا موقع تو نہیں ملا ہے البتہ مضامین کی فہرست اور عنوانات سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس حساس موضوع پر قلم اٹھانے اور معلومات فراہم کرنے پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔“

راشد بخاری

انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز، اسلام آباد



”آپ جو یہودیت اور یہودی سازشوں کو آشکارا کر رہے ہیں ایک قابل رشک کام ہے۔ یہودی وثائق کا اردو ترجمہ کر کے آپ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ مجھے یہ سب کتابیں بہت مفید معلوم ہوتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ان باتوں کو سمجھیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے دھوکے سے بچ جائیں۔ میرا یہ کہنا اس لئے ہے کہ ہمارے بڑے اور موجودہ نام نہاد دانشور اور حکومتی عہدیداروں میں بے شمار یہود کے دانستہ یا نادانستہ آلہ کار بن چکے ہیں اور افسوس کہ وہاں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے میری پکار نوجوانوں کو ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور مومن کی فراست کے ساتھ پنجہ یہود اور ان کے آلہ کاروں کے ناپاک ہاتھوں سے اپنا مستقبل بچالیں۔ آپ کا اس قدر عمدہ کام کرنے کی مبارک ہو۔“

سلطان بشیر الدین محمود
نامور ایٹمی سائنسدان



راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ
جلوۂ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ



وہ آج ملت اسلامیہ جن ہولناک مسائل میں گرفتار ہے ان پر ہر حساس دل کا مضطرب ہونا اور حل تلاش کرنا فطری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو جانا پہچانا جائے۔ فاضل مولف نے اپنی کتاب میں یہ پہلو پیش کیا ہے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے زیادہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہودی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں سے عیسائیوں اور ہندوؤں کو لڑوا رہے ہیں۔

فاضل مصنف نے مسکت دلائل دیئے ہیں اور انہیں پڑھ کر قائل ہونا پڑتا ہے کہ ہمارا اصل دشمن یہودی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال سے اسلام اور یہودیت ایک دوسرے کے مقابل ہیں اگرچہ ہر دور میں طریق جنگ مختلف رہا ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر یہود و ہنود کی چالوں کو سمجھے۔

(بشکریہ: اردو ڈائجسٹ مارچ 2001ء)

☆.....☆.....☆

غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد
کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد
مگہ ہے مجھ کو زمانے کی کور زوقی سے
بھتا ہے میری محنت کو محنت فرہاد

☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ڈاکٹر شیر محمد زمان
ایم اے (نائب) لٹریچر (ادب)
چیرمین

۱/ ایس ایس سی / ۲۰۰۱ - سی این
اسلامی نظریات کو
حکومت پاکستان

اسلام آباد ۲۲ فروری

فاضلہ معتمدہ جناب ازبوس حبیبہ

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

عزیزو سردار احمد پیرزادہ کی وساطت سے آپ کا بیش قیمت تحفہ موصول ہو چکا ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کے اعلیٰ کے لئے منتوں و مشکز ہوں۔ کہ (چار) اور کتابچہ (۱۶) لائبریری میں ریکارڈ اور محققین و فلاح کے استفادہ کے لئے بھجوا دیئے گئے ہیں۔ کونسل کی طرف سے بھی ہدیہ شکر قبول فرمادے۔ آپ جوہر آباد حبیبی عکہ میں تصنیف و تالیف و تحقیق کی محدود سہولتوں کے باوجود کام کر رہے ہیں، اس کے لئے بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ رب کریم آپ کو ماجور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم و ادب کی خدمت کی ہمت و توفیق ارزانی فرمائے۔

آپ کے ارسال کردہ تعارف کے بارے میں نسبتاً تفصیل سے پھر لکھوں گا آپ سے ملاقات کا اشتیاق و انتظار رہے گا۔ رب کریم جلد ہی موقع پیدا فرمائے

والسلام

دعا گو و طالب دعا

(Handwritten signature)

(ایس ایم زمان)

محترم جناب عبدالرشید ارشد صاحب
جوہر پریس، جوہر آباد -

ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف..... خشکی کے آکٹوپس

عالمی سطح پر اقوام و ملل کے محسن مالیاتی اداروں کو آکٹوپس سے تشبیہ دینا بہت بڑی جسارت قرار پائے گا مگر ان کی تخلیق کے پہلے روز سے آج تک کا عملی کردار ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ان اداروں کو ہم آپ سے اسی نام سے متعارف کرائیں۔ نہ ہم طنز پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی الزام و بہتان تراشی پر ہم کوئی بنیاد استوار کرنے کے حق میں ہیں۔

۱) آکٹوپس پانی کی مخلوق ہے اور پانی ہی سے اپنا شکار قابو کرتی ہے اور سمندری حیات ہو یا دریائی جہاں کہیں اس کا گھر ہے، کبھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ جو ایک بار اس کی لپیٹ میں آیا زندگی ہار گیا۔ تعریف ملاحظہ فرمائیے:

”آکٹوپس (Octopus) سیپ کی قسم کا ایک سمندری جانور جس کے منہ میں سوڈ جیسے آٹھ ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں وہ ان سے کیلڑے اور جھینگے پکڑ کر کھاتا ہے اور انہی کی مدد سے تیرتا ہے۔ آکٹوپس بڑے بڑے پتھروں میں مل جل کر مورچے بنا لیتے ہیں۔ خطرے کے وقت چٹانوں کے نیچے کونوں کھدروں میں چھپ جاتے ہیں یا اپنی تھیلی میں سے کالی سیاہی پانی میں چھوڑ کر اسے دھواں دار (Smoke Screen) بنا دیتے ہیں۔ ماحول اور طبیعت کے مطابق اپنا رنگ بدل سکتے ہیں۔ بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس میں دس دس فٹ لمبے آکٹوپس ملتے ہیں۔ بحر الکاہل کے آکٹوپس کی موٹائی تیس فٹ سے زائد ہوتی ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں آکٹوپس

بطور غذا استعمال ہوتا ہے۔“ (اردو انسائیکلو پیڈیا، صفحہ 23، فیروز سنز

(لاہور)

"Oc-to-pus: a marine cephalopod
mollusk of fam.

Octopus has eight arms equipped with
Suckers, and a large head including
highly developed eyes and a strong
beak.". (Larousse Illustrated
International Encyclopedia and
Dictionery)

آکٹوپس پر علمی آرا کو توجہ سے پڑھیے اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش
کیجئے کہ ابھی آپ کو مماثلت کے مرحلہ سے گذرنا ہے۔ مثلاً اس کے آٹھ ہاتھ پاؤں
ہوتے ہیں یہ مل جل کر بڑے پتھروں کے نیچے مورچے بنا لیتے ہیں یہ خطرے کے وقت
سیاہی مائل مواد منہ سے نکال کر اپنے گرد Smoke Screen بنا لیتے ہیں، ضرورت
کے مطابق رنگ بدل لیتے ہیں، آکٹوپس کے بازو Sucker (یعنی چوسنے) کا کام
دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلاشبہ آکٹوپس کے قابو آیا شکار بچتے آج تک ن نے دیکھا نہ
ہوگا۔

2 (اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فوجی چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف صاحب
کے ایک اخباری بیان کو پڑھ کر ہمیں تعجب ہوا، ان کی سادگی پر ترس بھی آیا کہ وہ ایک ملک
کے ذمہ دار سربراہ ہیں اور حقائق سے کس قدر بے خبر ہیں کہ فرماتے ہیں:

”آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جلد نجات مل جائے گی“

(مشرف)“ (بحوالہ اوصاف، 24 فروری 2001ء)

حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ وہ خود اور ان کے ملک کا مقدر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے 'ہشت پا' آکٹوپس کے بازوؤں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ بازو جو Sucker بھی ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف بھی ہیں اور این جی او مافیا بھی ہے۔ جس کا انہیں کھل ادراک بھی ہے اور جان چھڑانے کی "بے بسی" بھی انہی کا مقدر ہے۔ خون چوس بازوؤں میں دبئی بے بسی کی یہ حالت لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے جس پر خود قوم گواہ ہے

مندرجہ ذیل سطور میں ہم آپ کے سامنے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے چہرہ کو ان کے حقیقی کردار کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے "دیرینہ محسنوں" کو شناخت کر لیں۔ جو صرف آپ ہی کے "محسن" نہیں ہیں اقوام عالم کو ان "محسنوں" کے "احسان" پر "فخر" ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ آج ان کے اپنے پرانے "احسان کا جوا" کندھوں سے اتار پھینکنے کے لئے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لندن اور نیویارک کی سڑکیں بھی اس پر گواہ ہیں اور یہ محسن آکٹوپس کی سیاہی مائل Smoke Screen کی طرح یو این او کے دیگر ذیلی اداروں کی سموک سکرین اور انگلینڈ امریکہ اور فرانس کی حکومتوں کے بھاری پتھروں کے نیچے محفوظ و مامون اپنا کام جاری رکھے

ہوئے ہیں۔

(3)

(ان عالمی مالیاتی اداروں کی تشکیل کے مراحل کا آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب بنی اسرائیل کے روئے زمین پر بکھری معصوب قوم کے چند بڑے مل بیٹھے تھے اور مستقبل کی نسل کو ایک ملک دینے کی سوچ کے ساتھ عالمی اقتدار پر قبضہ کے لئے طویل المدت منصوبہ بندی کی گئی تھی جسے "ہر دور کے بڑے" کمال مہارت کے ساتھ زمانے کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کے لئے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے رہے۔ جس منصوبہ بندی کا آغاز 829 قبل مسیح میں ہوا اور آج جو پروٹوکولز (Protocols) کی شکل میں بطور شخص موجود ہے اور جس کی تعبیر و تشریح آج بھی صرف یہود کے چند (33) ڈگری کے) بڑوں تک محدود ہے۔

جرمنی میں آباد ایک یہودی سٹار اٹل موزر بیٹز کے پانچ بیٹوں میں سے ناٹھن

نے دولت کی بنیاد پر اقتدار پر قابض ہونے کی سوچ کو فرینکفورٹ میں مدعو چند یہودی بڑوں کے سامنے پیش کیا تو سب سے اس کی تجویز کو سراہا۔ یہ 1773ء کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اسی سوچ کے نتیجے میں انہوں نے 1694ء میں قائم بینک آف انگلینڈ پر اپنے بچے گاڑے اور بتدریج اسے اپنے ڈھب پر منظم کیا۔ اسی کا دوسرا بھائی روتھ شیلڈز تھا جس کی سوچ کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ قرض حکومتوں کو دیا جائے تو اصل زر محفوظ اور قرض کی واپسی بھی یقینی ہوگی، قرض کی مقدار بہت بڑی ہوگی۔ مذکورہ دونوں بھائیوں نے یہ بھی طے کیا کہ یورپ کے بڑے ملکوں کے دارالخلافوں میں اس کام کی بنیاد رکھی جائے۔ یوں پانچوں بھائیوں نے پانچ ملکوں میں کام شروع کیا اور باہم ربط کو کبھی نہ ٹوٹنے دیا کہ اس طرح ایک کی کمزوری کو دوسرا سہارا دیتا رہا۔

سونے کے یہ مالک دن بدن مضبوط و مستحکم ہوتے گئے اور بتدریج ان کا نیٹ ورک پھیلتا گیا اور مختلف شعبوں میں اجارہ داریاں قائم کرنے کی خاطر انہوں نے مختلف صنعتکاروں کو سرمایہ فراہم کیا مگر صرف انہیں جو سرمایہ واپس کرنے کی سکت رکھتے ہوں مثلاً شی بنک سے راک فیلر کو تیل میں اجارہ داری کے لئے رقم دی گئی۔ جیمز روتھ شیلڈ نے پیرس میں صرف 2 لاکھ ڈالر کے اساسی سرمایہ سے 40 کروڑ ڈالر بنائے۔

روتھ شیلڈ کے عروج کو دیکھتے ہوئے ایک شاعر نے یہ تک کہہ دیا کہ ”روپیہ اس زمانے کا خدا ہے اور روتھ شیلڈ اس کا نبی ہے“۔ اسی طرح ایک مبصر نے کہا کہ ”یورپ میں صرف ایک طاقت ہے اور وہ روتھ شیلڈ ہے“۔ 1933ء میں امریکی صدر روز ویلٹ نے اپنے دوست کو خط لکھا جس میں یہ اقرار کیا گیا کہ ”سچ یہ ہے کہ جیکسن کے زمانے سے حکومت ایک بڑے مرکز کے مالیاتی ادارے کے پاس ہے“۔

سونے کے یہ مالک جوں جوں مستحکم ہوتے گئے اپنے 33 ڈگری کے فاضل یہودیوں کی منصوبہ بندی کو آگے بڑھاتے رہے، مثلاً عالمی اقتدار پر قابض ہونے کے لئے ارضِ فلسطین میں ایک آزاد ریاست اور اس ریاست کی بقا و توسیع و استحکام کے لئے محافظین کا ادارہ اور ”دشمن دنیا“ کو زیر نگیں رکھنے کے لئے عالمی سطح پر مستحکم مالیاتی ادارہ

۱۔ مذکورہ مقاصد کے حصول کی خاطر 1905ء میں یہود کے انہی بڑوں نے منصوبہ بنایا

عالمی جنگ چھیڑی جائے

برطانیہ اور ترکی خلافت دونوں لازماً حریف بن کر اس میں ملوث ہوں اور ترکی کو شکست ہو

لیگ آف نیشنز قائم کی جائے

عالمی مالیاتی ادارے کے لئے چارٹر حاصل کیا جائے

ارضِ فلسطین میں برطانیہ کے توسط سے آزاد اسرائیلی حکومت قائم ہوگی لوگوں، مساجد، مقاصد اور

یہود نے نصاریٰ کی مدد سے جس کی بنیاد پر سونے کی قوت تھی کہ یورپ و

ریکہ مالیات کے لئے ان کا غلام بن چکے تھے مذکورہ مقاصد حاصل کر لئے لیگ آف

نیشنز موجودہ یو این اڈ بن گئی عالمی مالیاتی ادارے کا چارٹر مل گیا اور اسرائیل کی آزاد

است بھی معرض وجود میں آ گئی۔ یوں یہود نے زر کے زور پر اپنے مذموم مقاصد کی

پیمیل کے لئے یو این او تشکیل دلوائی اور پھر یو این او کی چھتری تلے عالمی اقتدار کی منزل

کو قریب تر لانے کے لئے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے خشکی کے آکٹوپس بنائے۔

سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ سونے کے مالکان نے جنگ عظیم اول

ور دوم کے تباہ حالوں کو تعمیر نو کی خاطر قرض دے کر اپنا غلام بنا لیا اور پھر غلام سے جو

مطالبہ کیا جائے وہ عمل پر مجبور ہوتا ہے۔ 1800ء میں نیپولین نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ:

”دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ روپے کا کوئی

ملک نہیں ہوتا۔ روپے والوں میں حب الوطنی نہیں ہوتی۔“

لنکن نے جو مالیات کو بہتر سمجھتا تھا یہ کہا کہ:

”حکومت ہی کو کرنسی پیدا کرنی چاہئے اور چلانی چاہئے اور حکومت کو

ہی عام آدمی کی ضرورت پوری کرنی چاہئے اس طرح لوگوں کو سود

کے لئے ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا۔ روپیہ آقا نہیں رہے گا بلکہ
خادم بن جائے گا۔“ (بحوالہ سونے کے مالک، صفحہ 21)

ورلڈ بینک (World Bank) کے نام اور کام کی حقیقت نہ جاننے والے
بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر غریب ممالک کی معیشت کو سہارا دینے والا محسن ادارہ ہے
لیجئے ”محسن“ کا چہرہ ملاحظہ فرمائیے:

”عالمی بینک (World Bank) کے نام سے ایسا لگتا ہے اور
خاص طور سے اس لئے کہ اس کی تشکیل اقوام متحدہ کے ذریعے ہوئی
کہ اس کے قیام کا مقصد دنیا کی اور خاص طور پر غریب ترین ممالک
کی امداد کرنا ہے لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔..... درحقیقت عالمی
بینک دنیا کا سب سے بڑا غیر فرمانروا قرض لینے والا ہے جو تجارتی
شرح سے سود ادا کرتا ہے اور پھر حاصل کردہ رقم مختلف ممالک کو
زیادہ شرح سود پر قرض دے دیتا ہے اور اس طرح سالانہ اربوں
ڈالر کماتا ہے اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہئے کہ آج تیسری
دنیا ایک ہزار ارب ڈالر کی مقروض ہے۔“ (”ہم“ غریب کیوں
ہیں؟ صفحہ 13، نجمہ صادق)

”عالمی بینک دنیا بھر میں اس نظریے کو پھیلانے کا ذمہ دار ہے جسے
”ٹرکل ڈاؤن ڈویلپمنٹ اینڈ ٹاپ ڈاؤن ایروچر“ کہا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاد عامہ کے بڑے بڑے منصوبوں اور
بڑی صنعتوں میں سرمایہ کاری کے ذریعہ اس کے اثرات خود بخود
عام آدمی تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا شاید ہی کبھی
ہوا ہو۔“ (”ہم“ غریب کیوں ہیں؟ عالمی معیشت از نجمہ صادق
صفحہ 14)

”عالمی بینک ترقی پذیر ممالک کے پالیسی سازوں کو مشورہ دینے والا اور انہیں دباؤ میں رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یہ عام طور پر حکومتوں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ قرض لی گئی رقم کو وہ اصل ترقیاتی پراجیکٹس پر خرچ کرنے کی بجائے جیسے چاہیں خرچ کریں اور اس کے بدلے میں وہ (حکومت) فیصلہ سازی میں اسے (ورلڈ بینک کو) بھی کردار ادا کرنے دے۔ اس طرح حکومتیں قرضوں کی رقم تعینات پر لٹاتی ہیں اور ذاتی عیاشیوں پر قوم کی کمائی خرچ کرتی ہیں۔ اسی لئے دنیا بھر میں ایک عام شکایت یہ سنی جاتی ہے کہ تیسری دنیا کے حکمرانوں نے قومی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کو گروی رکھ دیا ہے۔“ (”وہ“ دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں عالمی معیشت از نجمہ صادق، صفحہ 16)

واشنگٹن میں سڑک کے ایک جانب ورلڈ بینک کا مرکزی دفتر ہے تو دوسری جانب آئی ایم ایف کا مرکزی دفتر ہے۔ ورلڈ بینک کی حقیقت آپ دستاویزی شواہد کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ اب آئی۔ ایم۔ ایف (IMF) یعنی عالمی مالیاتی ادارے کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے: (5)

”دوران جنگ پریشانیوں کی وجہ سے 1944ء میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو تسلیم کر لیا گیا اور 1945ء میں لیگ آف نیشنز نے نام یونائیٹڈ نیشنز UNO کے نام سے وجود میں آئی۔ لندن کے بینک آف انٹرنیشنل کی طرح آئی ایم ایف (IMF) کے لئے تسلیم کیا گیا کہ اسے عدالتی کارروائیوں میں نہیں ڈالا جائے گا اس کی جائیداد کی تلاشی یا ضبطی وغیرہ نہیں کی جائے گی اس کے سٹاف کے خلاف مقدمہ بازی نہیں ہوگی۔ اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔“ (سونے کے مالک، صفحہ 33)

”پھر آئی ایم ایف (IMF) کو اپنے نوٹ SDR دنیا بھر میں

چلانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اب تک وہ 30 بلین ڈالر کے SDR جاری کر چکی ہے اور سب قوموں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ انہیں اپنی کرنسی میں تبدیل کر لیں۔“ (بحوالہ سونے کے مالک، صفحہ 33)

” (یہ سونے کے مالکوں) ساروں کا پرانا دھوکہ ہے جو وہ سنٹرل بینک کے ذریعے ایک ملک میں کرتے ہیں اب ورلڈ بینک کے ذریعے تمام دنیا میں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اقتصادی کنٹرول ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے چند بینکروں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر اس گروپ میں ایک آدمی غالب ہوا تو صرف ایک آدمی دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرے گا اور یہ نہایت خطرناک صورت حال ہوگی۔“ (بحوالہ سونے کے مالک، صفحہ 34)

” آئی ایم ایف اور عالمی بینک کسی بھی دوسرے تجارتی بینک کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن انہیں حکومتوں پر حکم چلانے کے اضافی اختیارات حاصل ہیں۔“ (عالمی معیشت از نجمہ صادق، صفحہ 13)

”یہ دونوں ادارے (ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف) عام خیال کے مطابق کسی خاص ملک یا ممالک کی ملکیت نہیں ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی خصوصی ایجنسیوں (Specialised Agencies) کی حیثیت سے رجسٹرڈ ہیں تاہم یہ اقوام متحدہ (UNO) کو بھی جوابدہ نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ سے ان کا تعلق برائے نام ہے اور ان کے بجٹ بھی اقوام متحدہ کی دوسری ایجنسیوں کے بجٹوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ صرف خود مختار ادارے ہیں بلکہ یہ انتہائی آمرانہ اور معاملات کو مخفی (Confidential) رکھنے والے ہیں۔۔۔۔۔“

”عالمی بینک طویل المیعاد قرضے فراہم کرتا ہے تو آئی ایم ایف
گذشتہ قرضوں پر سود اتارنے سمیت مختصر المیعاد مالیاتی مشکلات
رفع کرتا ہے۔ یہ ادارے انتہائی بلند شرح سود پر قرضے دیتے ہیں
جنہیں ادا کرنے کے لئے بڑھتے چڑھے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔“

”سوال یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف (IMF) اور عالمی بینک
(World Bank) کی شرائط اتنی سخت اور تباہ کن ہیں تو پھر
بھی ترقی پذیر ممالک ان سے قرضے کیوں لیتے ہیں اور ان کے
محتاج کیوں بنے رہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس اس
کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ عالمی بینک سے قرضے کی سہولت کے
لئے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کی رکیت حاصل کی جائے اور اس
سے قرض لیا جائے۔ یہ بلیک میلنگ کا صاف ستھرا انداز ہے۔ عالمی
بینک کے دیگر ذرائع (آکٹوپس کے ہاتھ پاؤں مثلاً لندن کلب
پیرس کلب طرز کے ادارے۔ (ارشاد)) سے چار سے سات گنا
کم قرض لیا جاسکتا ہے جو آئی ایم ایف کا قرض اتارنے کے کام
آتا ہے اور اگر آئی ایم ایف سے کچھ نہ لیا جائے تو دیگر ذرائع سے
بھی کچھ نہ ملے گا۔ یہ صورت حال نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن
کے مترادف ہے اور اتنا ہی نہیں قرضے کی منظوری سے قبل
”اسٹریٹجکل ایڈجسٹمنٹ پالیسی ریفارمز“ سے اتفاق کرنا پڑے گا جسے
مختصراً SAP یا سوشل ایکشن پروگرام (انتہائی ٹیٹھی گولی) کہتے
ہیں۔“ (بحوالہ ’وہ دنیا کو کیسے چلاتے ہیں؟ عالمی معیشت‘ از نجمہ
صادق‘ شرکت گاہ لاہور‘ صفحہ 14)

ہم نے اپنی بات کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف
خشکی کے آکٹوپس ہیں اور انسائیکلو پیڈیا سے آکٹوپس کی تعریف یوں نقل کی تھی کہ یہ اپنے

بچوں یا بازوؤں سے خوراک چوستا ہے یعنی اس کے دست و بازو Suckers ہیں۔ اوپر کے اقتباسات سے یہ واضح ہو گیا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف عالمی سطح پر بلیک میلنگ کے ایک ہی سیکے کے دو رخ ہیں اور خشکی کے اس آکٹوپس کے آٹھ بازوؤں میں سے لندن کلب اور پیرس کلب جیسے ادارے ہیں اور خون چوسنے والا Sucker ان کا ”اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام“ (SAP) ہے جسے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر شوگر کوئٹ ”سوشل ایکشن پروگرام“ کا نام دیا گیا ہے۔

ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ہر ملک کے عوام کی خون چوس پالیسی اور طریقہ کار پر مندرجہ ذیل اقتباس روشنی ڈالتا ہے۔ جس کو سمجھنے کے لئے عقل و دانش کی کوئی بڑی مقدار مطلوب نہیں ہے کہ اس کا ہر پہلو کھلی کتاب کی طرح ہمارے گرد و پیش بکھرا پڑا ہے:

”عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ (World Bank and

IMF) بھی دوسری بینکوں کی طرح اپنا قرض دی ہوئی رقم پر سود

سمیت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم دوسرے بینکوں کے برعکس یہ

اپنی بے شمار شرائط بھی منواتے ہیں۔ جن کا مقصد حکومتوں کو دی گئی

رقوم عوام کی جیبوں سے نکلوانا ہوتا ہے۔ اسے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ

پروگرام (Structural Adjustment

Programme) کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں غریب

غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ ان شرائط میں درج ذیل

بعض یا تمام شرائط شامل ہیں:

☆1 پٹرول، بجلی، پانی اور گیس سمیت تمام اشیاء پر بھاری ٹیکس

لگا دیئے جائیں اور تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ ان اقدامات

سے ہر چیز کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں آسمان سے

باتیں کرنے لگتی ہیں جس سے مقرر آمدنی والے طبقات کی زندگی

اجیرن ہو جاتی ہے۔

☆2 غذائی اور زرعی اجناس پر زرتلانی (Sub-Sidy) کو کم یا بالکل ختم کر دیا جائے مقامی تیار کنندگان کے لئے ترغیبات کے خاتمے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقامی اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں اور لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ان اشیاء کی تیاری میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس کا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ (عملاً ہو رہا ہے)

☆3 سرکاری شعبے میں خدمات کو بھی نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے (مثلاً ملک کی موجودہ نجکاری سکیم) حکومت صرف بعض لازمی اشیاء یا خدمات اس قیمت پر فراہم کر سکتی ہے جو غریبوں کے لئے قابل قبول ہوں (مگر) نجکاری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریبوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ (یہ سب کچھ روز روشن کی طرح قوم کے سامنے ہے)۔

☆4 بڑے بڑے کاروباروں پر ٹیکس عائد نہ کیے جائیں اور انہیں مزید رعایتیں دی جائیں اور یہ حرکت صنعتی سرمایہ کے نام پر کی جاتی ہے۔ بعض اوقات امیروں اور نجی شعبے پر ٹیکسوں کے نفاذ میں حقیقتاً کمی کی جاتی ہے۔ (ملک کا سرمایہ دار آج اسی بنیاد پر عیش کرتا ہے)

☆5 مقامی کرنسی کی قدر میں کمی کی جائے (Devaluation) اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر ملکی خریداروں کو اپنی رقم کے عوض زیادہ مال اور مقامی لوگوں کو باہر سے کم مال ملتا ہے۔ (ہر کسی کے سامنے ہو رہا ہے)

(چند نکات بحوالہ ”وہ“ دنیا کو کیسے چلاتے ہیں؟ عالمی معیشت از نجمہ)

صادق، شرکت گاہ، صفحہ 15)

مذکورہ اقتباس اور اس کے تحت شرائط پر نظر ڈالنے سے ہر پڑھنے والے کو شرح صدر نصیب ہو گیا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا آکٹوپس عوام کا خون کیسے چوستا ہے۔ یہ سب کچھ جو اوپر بیان ہوا ہے ہر پاکستانی چہار سو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود حکمران قرض کیوں لیتے ہیں؟ یہ دلچسپ حقیقت بھی انہی آقاؤں کی زبانی سن لیجئے کہ ہم اپنی طرف سے الزام نہیں لگاتے۔

”جب سے ہم نے اپنے زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے (حکومتوں کو) غیر ملکی قرضوں کی چاٹ لگائی ہے، غیر یہود کے تمام تر سرمائے نے ہماری تجوریوں (IMF and World Bank) کی راہ دیکھ لی ہے۔ یوں کہیے کہ یہ غیر یہود کا خراج ہے جو وہ ہمیں باقاعدگی سے ادا کرنے پر مجبور ہیں۔“ (Protocols, 20:32)

یہود کے زر خرید ایجنٹوں کی اصلیت سے بھی آپ واقفیت حاصل کرنا چاہیں گے اسے بھی اسی آئینہ میں ملاحظہ فرمائیے:

” (جہاں ہم اثر و رسوخ بنالیں گے) عوام میں سے جو بھی انتظامیہ ہم منتخب کریں گے، اپنی وفاداریوں کی تکمیل کی صلاحیت کے حوالے سے کریں گے کہ وہ ان حکومتوں کے اپنے تیار کردہ افراد کی طرح تربیت یافتہ نہ ہوں گے بلکہ بچپن سے کرہ ارض پر حکمرانی کے لئے زیر تربیت رکھے گئے وہ لوگ ہوں گے جو مہروں کی طرح ہمارے ”ماہرین“ ”مشیروں“ اور ”دانشوروں“ کے اشارہ ابرو کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔“ (Protocols, 2:2)

یہود کے ان کی اپنی منصوبہ بندی کے مطابق بچپن سے زیر تربیت رکھے گئے زر خرید ایجنٹ جو ان کی کرہ ارض پر حکمرانی کی راہ صاف کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ

پاکستان کے ایوانوں میں اور ملک کے کونوں کھدروں میں ”لال بیگ“ کی طرح اپنی چال اور اپنے رنگ ڈھنگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہر حکومت کی پالیسیوں کو کنٹرول کرتے اور حکمرانوں کو اپنے ڈھب پر لاتے رہے ہیں اور آج قوم جس NGO مانیا کے پیچھے پڑی ہے ان میں بھی وہی چہرے ہیں ہم کسی کا نام لے کر الزام دھرنے کے مجرم بننا نہیں چاہتے۔ ان کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا آکٹوپس کے دوسرے بازوؤں مثلاً WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وغیرہ کی پالیسی کے خلاف عوام میں اعتماد بحال رکھنے کے حوالے سے بیان بھی دیتے رہتے ہیں۔

اپنی مذکورہ بات پنجابی ضرب المثل ”چور وی کہندے چور او چور“ (چور بھی چور چور پکارتے ہیں) کی تائید میں روزنامہ ”خبریں“ لاہور 27 فروری کی ایک شہ سرخی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے آکٹوپس کے ایک بازو WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطالبہ پر رد عمل کے حوالے سے ہے۔ اور جو مسلمان قوم کا خون قرضوں کے سہارے چوتے رہنے سے ایک قدم اور آگے بڑھا کر ایمان چوسنے کی سمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

”شراب اور سور کا گوشت باہر سے نہیں منگوائیں گے! پاکستان کا آئی ایم ایف اور عالمی تجارتی تنظیم (WTO) کو صاف جواب!!“

اسلامی تعلیمات سے متصادم آئیڈیو ویڈیو اشاعتی میٹریل اور حرام جانور درآمد نہیں کر سکتے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکتے۔ (پاکستان)

آئی ایم ایف اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی سخت شرائط سے پاکستانی صنعت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور مقامی اشیاء کی خریداری کا رجحان بھی کم ہوگا پاکستان نے ٹریڈ (تجارت) کو لبرل لائز کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزارت کامرس (تجارت)۔“

مذکورہ پانچ کالمی شہ سرخی میں جہاں ایک طرف عوامی رد عمل کے خوف سے یا عامۃ الناس میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے نقطہ نظر سے شراب اور سؤر کے گوشت کے درآمد نہ کرنے کا عندیہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وہیں IMF اور WTO کو ان کی مرضی و منشا کے مطابق تجارت کو ہر پابندی سے آزادی (Liberalise) کی نوید سنائی گئی ہے۔ ہر عقلمند جانتا ہے کہ آزاد تجارت کے معنی کیا ہیں اگر پابندی کے باوجود باہر سے فحش لٹریچر، ویڈیو فلمیں، شراب اور مخرب اخلاق ہر نوع کا سامان آج ملک میں دستیاب ہے تو آزاد تجارت کی یقین دہانی کے بعد بات کہاں پہنچے گی۔ اہل وطن کے لئے بالعموم اور صاحبان فہم و فراست کے لئے بالخصوص لمحہ فکریہ ہے۔

آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا آکٹوپس جو پہلے بڑے لیول پر اپنا شکار ہڑپ کرتا تھا اب نچلی سطح پر ”جھینگے“ کھانے پر ہر لمحہ مستعد نظر آ رہا ہے۔ اب سمندر سے نکل کر دریاؤں کا رخ کر رہا ہے تو کل دریاؤں سے نہروں میں مورچہ زن ہوگا۔ ہماری مراد عالمی اداروں کے صوبوں کو بلا واسطہ امداد فراہم کرنے کے عندیہ سے ہے جو بعد ازاں ضلعی سطح کے اداروں تک پہنچے گی اور یوں یہ آکٹوپس (Grass Roots) یونین کونسل تک پہنچ کر قوم کو بالکل مفلوج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

”عالمی ادارے صوبوں کو براہ راست امداد دیں گے!۔ 3 سالہ منصوبہ تیار!! بین الاقوامی مالیاتی ادارے (WB) IMF اور ان کے ذیلی ادارے) اپنے فراہم کردہ فنڈز کے بارے میں مطمئن ہوں گے۔ حکومت نے صوبوں کو 2 مارچ تک پالیسی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت نے خود بیرونی امداد نہ لینے کا فیصلہ امداد دینے والی ایجنسیوں کی طرف سے فنڈز بڑھانے اور ملک میں آئندہ 3 برس کے دوران اقتصادی ترقی کی شرح بڑھانے میں ظاہر کی گئی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔“ (روزنامہ خبریں، 27 فروری 5 کالمی سرخی)

اپنی بات کا آغاز ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے اس بیان سے کیا تھا کہ ”آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جلد نجات مل جائے گی۔“ محترم جنرل صاحب کا 24 فروری 2001 کا یہ بیان روزنامہ خبریں 27 فروری کی مذکورہ شہ سرخیوں کی روشنی میں ملاحظہ فرما کر فیصلہ خود کر لیجئے کہ ”من چہ می سرائم و تنبورہ من چہ می سرائند“ یعنی میری سر کیا ہے اور میرے ساز کا آہنگ کیا ہے۔ کیا موجودہ صورت حال میں خشکی کے اس آکٹوپس سے کوئی قوم بچ سکتی ہے۔

یہود کے عالمی اقتدار تک پہنچنے کی سیرمی عالمی مالیات پر قبضہ ہے اور آج بلا مبالغہ کرہ ارض پر بسنے والی دنیا کے پاس صرف ایک تہائی سونا ہے اور یہود کے پاس اپنی عالمی ایجنسیوں کی پالیسیوں کے سبب دنیا کا دو تہائی سونا موجود ہے اور یوں سونے کے مالک ہر ملک کا قانون بناتے ہیں چلاتے ہیں کہ ”زر خرید نیٹ ورک“ ہر جگہ فعال ہے اور رہے عوام تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر ہیں۔ ”نہ جائے ماعدن نہ پائے رفتن“۔
فاعتبروا یا اولی البصار



ملکی معیشت برباد کر نیوالے ہی بحالی کی دہائی دے رہے ہیں: سرکاری ترجمان

موجودہ حکومت کے اقدامات کے سبب ایک سال میں تیل و گیس کے شعبہ میں 700 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی

غربت کے خاتمہ کیلئے ہزاروں سکیموں پر کام کیا جا رہا ہے: بینظیر کے بیان پر رد عمل

نجاری کی آڑ میں پاکستانی حکومت اور بین الاقوامی قرضے

نجاری پروگرام کے ذریعے ملازمین کو تیز رفتاری سے کام کرنے کا اقدام درست نہیں ہے۔ سلسلہ فی الفور بند کیا جائے۔ روزگار کو تیز کرنے کے لئے جہاں مواقع کا انتظام کر لیا۔ حکومت کو ان مواقع سے بھرپور طور پر استفادہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ پاکستان قرضے کے قائل ہے۔ قرضے میں روزگار کا انتظام ہر ماہ کے قرضے کو

جی ایچ کیو میں 150 روزہ نرسنگ سٹریکٹ

2- بھارتی نرسنگ سٹریکٹوں سمیت آری اور بھارت کے نرسنگ سٹریکٹوں کی بد مویشی کے ریکارڈ میں نیچے کرنا قرار دیا گیا ہے۔ کوئی ایچ کیو میں رسائی حاصل کی۔ کیپٹن راجندر کمار کی سربراہی میں تحقیقات شروع ہوئی۔ قرضے کے قائل ہے۔ قرضے میں روزگار کا انتظام ہر ماہ کے قرضے کو

پیرس کلب نے پاکستان کے 1.8 ارب ڈالر کے قرضے ری شیڈول کر دیئے

پاکستان کی اقتصادی حالت کی بہتری کی کوششوں کا یہ مقدمہ، ری شیڈولنگ سے معیشت کو تازہ ہو گا

پیرس کلب نے پاکستان کے لئے 1.8 ارب ڈالر کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کی منظوری دے دی ہے۔ گروپ نے پاکستان کی طرف سے اپنی اقتصادی حالت کی بہتری کی کوششوں کا یہ مقدمہ کیا ہے۔ پاکستان کو یہ سہولت گزشتہ دو سالوں سے مل رہی ہے۔

عالمی بینکاری اداروں کی ڈیکلینیشن پر عمل کرنا مجبوری بن گئی

آئی ایم ایف کی ہدایت پر ڈالر کے نرخ روزانہ مقرر ہوتے ہیں، پالیسی میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ ہمیں معیشت مستحکم کرنا ہے

مقامی بینکاری بنیاد پر قرضوں سے ملنے والی معیشت کو جوتھاننا ہو گا۔ اب تک ازالہ نہیں ہو سکا

عالمی بینک نے اپنی شرائط پر عملدرآمد کے ثبوت مانگ لئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ہدایت پر ڈالر کے نرخ روزانہ مقرر ہوتے ہیں، پالیسی میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ ہمیں معیشت مستحکم کرنا ہے

سڑائی تعلیمات منہ مٹا کر اور دیکھو شامی میسرز اور حرام جاہل اور لادینوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پاکستان

قرضوں کی خاطر ناجائز چیزیں خریدنے کیلئے دباؤ نامنظور

حرام اشیاء اور لادینی نیکو اور سیرک اور شہرت کا پتہ نہیں دیکھو اور لادینوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پاکستان

یہاں شہر اور اسلامی تہذیب کی طرف سے لگائی گئی تھیں اور وہ لادینوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پاکستان

بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے قرضوں کو دھوکے آمیز اور لادینوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پاکستان


غریب کا خاتمہ عالمی ادارے صوبوں کی براہ راست لادینوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پاکستان

دینی حکومت نے غریبوں کو لادینوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پاکستان

صوبوں کی مالی اداروں سے آراہنہ قرضوں کے حاصل کرنے کی پوری پوری کوشش

صوبائی حکومتوں کو حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت 2 مارچ کو بلائک کمیشن کے اجلاس میں صوبائی رپورٹوں کا جائزہ لیا جائیگا

لیٹل بھٹو عالمی اداروں کی دلچسپی دیکھ کر کہا گیا کہ حکومت پاکستان اور پورے قرضوں کے اجلاس سے پہلے ہونے والے قرضوں کے حصول کے لیے



بد تمیز عوام



ایسی ہی ایک من مانی کا قصہ ان دنوں اخبارات میں زیر بحث ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک مغربی ملٹی نیشنل کمپنی نے گورنمنٹ کے طبی استعمال کیلئے تیار کردہ پیدائشی آلہ "ویز" کا اشتہار پی ٹی وی پر چلانا شروع کیا۔ اس اشتہار پر سب سے زیادہ احتجاج گھریلو خواتین نے کیا۔ خود مجھے لاحقہ اور خواتین نے بذریعہ خطوط بتایا کہ جب ان کے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا اشتہار ہے تو ہم لاجواب ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ اشتہار مختلف دباؤ آتا زیادہ بڑھا کہ پی ٹی وی کو اشتہار تبدیل کرنا پڑا۔ اشتہار تبدیل ہوتے ہی وزیر خزانہ شوکت عزیز نے وزارت اطلاعات کو سخت ڈال دیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اس اشتہار کو بغیر کسی تبدیلی کے پی ٹی وی پر جاری رکھا جائے ورنہ عالی مالیاتی ادارے ناراض ہو جائیں

جائے ورنہ عالی مالیاتی ادارے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے پی ٹی وی نے اشتہار تبدیل کیا انہیں دانشمندی سے کئی ٹیلی فون آچکے ہیں کہ اشتہار میں تبدیلی واپس نہ لی گئی تو ہم سے برا کوئی نہ ہو گا۔ شوکت عزیز کو چاہیے تھا کہ دانشمندی والوں کو بھاتے کہ مغربی اور مشرقی تہذیب میں کیا فرق ہے اور لبرل ازم کا مطلب بے حیائی قطعاً نہیں ہیں انہوں نے ایسی کوئی تکلیف گوارا نہیں کی اور مغربی ملٹی نیشنل کمپنی کے اشتہار میں تبدیلی کو واپس لینے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس قسم کے وزیر کسی حکومت کی نیک نامی نہیں بلکہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ کئی سال پہلے کو تو ال ملک علی نے پھانسی سے چند لمحے پہلے ایک باغی نوجوان کی حکمران وقت کے بارے میں جاسوسی مہم کو کھینچا تھا، اگر آج کے کو تو ال پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے کسی بھی گلی کوچے میں کسی راہ جاتے نوجوان سے حکمرانوں کے بارے میں رائے پوچھیں تو اکثر نوجوان وہی کہیں گے جو دلا بھٹی نے کہا تھا۔ فرق صرف یہ ہو گا کہ دلا بھٹی صرف اکبر کو کھینچا تھا جب کہ آج کا نوجوان شوکت عزیزوں، معانت اللہ کے عطیوں اور معین الدین حیدروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بد تمیزوں کو لکھے گا کون اور حکمرانوں کے سامنے رکھے گا کون؟

ادھر اسلام آباد

2001

ملٹی نیشنل
کا اشتہار
بے حیائی
کا

افغانستان پر اقوام متحدہ کی پابندیاں اور امت مسلمہ

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ کے مذکورہ شعر کو یہاں لکھ کر اپنی بات شروع کرنے کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کا جرمِ ضعیفی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ افغان عوام اور ملا محمد عمر کی حریتِ فکر، سرفروشی اور حمیت و جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کا عزم ”سردادنہ داد دست در دست یزید“ والا عزم ہے اور اس عزم کی پشت پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا (وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب (پرورش کے تمام تقاضے پورے کرنے والا) ہے اور پھر اپنی بات پر ایمان کی استقامت کا ثبوت (فراہم کر دیا) ہے اور جب عزم و ایمان کی یہ کیفیت ہو جائے تو فلک سے پیغام آتا ہے اور یہ پیغام مقرب فرشتے لاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الاتخافوا ولا تحزنوا فرشتے ان پر نازل ہو کر کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ رنجیدہ ہو، نحن اولیاء کم فی الحیوۃ الدنیا وفی الآخرہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔

اللہ کا یہ فرمان جدیدیت کے مارے انسان کو سمجھ نہیں آتا مگر یہ اہل حقیقت ہے۔ ایران کے مذہبی راہنما آیت اللہ خمینی صاحب سے عقیدہ کا اختلاف اپنی جگہ مگر ایران واپس پلٹنے پر ان کا یہ تاریخی جملہ کہ ”میں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کسی کو سپر پاور تسلیم نہیں کرتا“ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ پھر گلوبل فیملی نے بہ چشم سردیکھا کہ مبینہ سپر پاور امریکہ نے کئی ماہ تک ریہرسل کر کے سو فی صد نتائج کی تسلی کرنے بعد رات کی تاریکی میں

جب اپنے بندے اغوا کرنے کا مشن ایران بھیجا تو اس وقت پوری ایرانی قوم معہ خمینی صاحب سو رہی تھی مگر خمینی صاحب کی اصل سپر پاور جاگ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر دینی سپر پاور پر اس طرح غالب آئی کہ تباہی کی خبر دینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔

جس جرم ضعیفی کی طرف ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں اور جو آج مسلمہ امرین کرہ کی کے سامنے ہے وہ بقول علامہؒ یہ ہے:

بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے
ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے
منزل دہر سے اونٹوں کے حذی خوان گئے
اپنی بگلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے

یہ اہل حقیقت ہے کہ مسلمان کی حقیقی قوت کا سرچشمہ قرآن ہے اس پر بطور شہادت حضرت عمرؓ کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کی نبوت سے قبل سینہ دھرتی کا بوجھ تھے ہر برائی کے ساتھ ذلیل ترین مخلوق تھے کہ ”ہمارے رب نے ہم پر احسان فرمایا اور حضرت محمد ﷺ کے ذریعے ہمیں قرآن سے نوازا پھر اس کو سینے سے لگانے کی توفیق بخشی تو سینہ دھرتی پر ہر عظمت ہر عزت ہمارا مقدر ٹھہری“ قرآن حکیم خود بھی تو یہی اعلان فرماتا ہے۔ ان هذا القران يهدى للتي هي اقوم و يبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ۝ يعملون الصالحات اور يبشر المومنين کا عملی مشاہدہ خلافت راشدہ کے دور میں جھانک کر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس پر مستزاد اجر آخرت بھی ہے۔

جنہوں نے جس جس دور میں قرآن جس قدر تھا اسی قدر ان کا عروج و استحکام تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے اور اس کے برعکس جہاں جہاں جس قدر کمی اور کمزوری رہی وہاں اسی مناسبت سے زوال و رسوائی مقدر ہونا بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ انسانی تاریخ سے کوئی ایک مثال سامنے نہیں لائی جاسکتی کہ آفاقی تعلیمات (کلام الہی) پر ایمان کے زبانی دعوے اور عملی انحراف کے بعد کوئی امت عروج حاصل کر

ہو یا اپنے عروجِ مستکرم دیکھ سکی ہو البتہ یہ گواہی ہر کسی کے سامنے ہے کہ کافر اگر اپنے
 میں سچا اور کھرا ہے اپنے کفر کے معاملے میں منافق نہیں، تو عروج و استحکام اس کا
 رٹھرا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو منافقت پسند نہیں ہے اور اسی لئے منافق ٹولے کے لئے فرما دیا
 ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار ۵ (منافق گروہ جہنم کے سب سے
 حصہ میں ہوگا)

یہود و نصاریٰ کی لوٹڈی اقوام متحدہ (UNO) نے یہود کے لوٹڈے امریکہ کے
 بنے پر کبھی لیبیا پر پابندیاں عائد کیں تو کبھی عراق کے عوام پر ایسے مکروہ فیصلے کی زد پڑی
 آج افغانستان اس کا شکار ہے۔ بھارت اور اسرائیل جو کچھ کر لیں، یو این او اور اس کی
 ملاستی کونل کی ہر قرار داد کو اس کے منہ پر دے ماریں، تو بھی ان پر کسی پابندی کا حکم صادر
 میں ہو سکتا کہ امریکہ ہو یا روس دونوں ہی بلکہ فرانس و برطانیہ بھی یہود کے لے پالک ہیں
 ریٹو کے ہتھیار سے مسلح ہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہود ہی تو اقوام متحدہ کے خالق ہیں اور
 مخلوق، ”خالق“ کے مقابلے میں آئے یا بعات کرے کیسے ممکن ہے!

بقول علامہ اقبال ”آج افغانستان کے خلاف امریکہ کی شہ پر برطانیہ، فرانس اور
 روس کی تائید کے ساتھ انتقامی کارروائی صرف اسی لئے تو ہو رہی ہے کہ:

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج
 ملّا کو ان کے کوہ و دین سے نکال دو

یہ ملّا خواہ اسامہ بن لادن ہو یا ملّا عمر ہو۔ آج یہ غیرت و حمیت دین کی
 علامت ہیں اور یہی یہود و نصاریٰ کے گلے کی پھانس ہے۔ کفر اسلام سے لرزاں ہے
 ”مسلمان“ سے خوف زدہ نہیں ہے۔ اسے ڈر ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں خالص اسلام نافذ
 ہو گیا اور اقوام عالم نے اس دور میں اس کی عملی زندگی کی برکات کو دیکھ لیا تو ہمارا ریت کا
 گھروندا خود بخود مسمار ہو جائے گا لہذا انتہائی جھلاہٹ کے عالم میں پھیلتی روشنی سے
 خائف وہ دیا (Source of Light) نکل کرنے کے درپہ ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے
 کہ ان کی پھونکوں کے ساتھ ”روشنی کے محافظوں“ کی پھونکیں بھی شامل ہیں۔

پابندیوں کے اعلان کے نفاذ کے ساتھ ہی افغان مجاہد مٹلا عمر کا یہ فرمان
 اخبارات کی زینت بنا کہ امریکہ اور اس کے حواری افغانستان پر ایٹم بم بھی گرا لیں جب
 تک ایک افغان بھی باقی ہے نہ اسامہ کو کسی کے حوالے کریں گے اور نہ ہی کسی کے آگے
 جھکیں گے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے ہیں

افغان باقی! کہاں باقی!
 الحکم للہ! الملک الملک!

اور

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی
 یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی!

گلوبل ویلج کی گلوبل فیملی اس حقیقت پر گواہ ہے کہ مبینہ سپر پاور روس نے اپنے
 زر خرید ضمیر فروش ایجنٹوں کے ذریعے ایک عرصہ تک افغانستان کے عوام کو محکوم بنائے رکھا
 تھا، مگر وہ بھول گیا کہ:

گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو
 تھر تھراتا ہے جہاں چار سو رنگ و بو
 پاک ہوتا ہے ظن و تخمین سے انسان کا ضمیر
 کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو
 وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں
 عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارِ رفو
 ضربتِ پیہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش
 حاکمیت کا بت سنگیں دل و آئینہ رو

روسی استعمار کا بت یوں پاش پاش ہوا کہ روسی حاکمیت کے زیر نگیں تمام ریاستیں
 آزاد ہو گئیں اور کمیونزم کا سورج گہنا گیا۔

اقوام متحدہ کی تشکیل کا مقصد وحید نصاریٰ کے تعاون سے یہود کے مفادات کی

اسپانی اور ان کے دشمنوں کی سرکوبی ہے اور یہود و نصاریٰ کا دشمن نمبر 1 اسلام ہے۔ جس کا برملا اقرار افغانستان میں روسی سحر ٹوٹنے کے بعد امریکی صدر کر چکا ہے۔ لہذا یو این او یا اس کی سلامتی کونسل اور اس کے دیگر ذیلی اداروں کے غیر مسلم کارندوں سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طے شدہ مشن کی تکمیل کے لئے کوشاں ہیں اور جس کا انہیں حق بھی ہے کہ چیونٹی بھی جب خطرہ محسوس کرتی ہے کاٹتی ہے۔ اسلام کے خطرہ سے ”تحفظ“ ان کی بقا کا راز ہے۔

ہم اگر انگشت بدنداں ہیں تو سحر زدہ مسلم حکمرانوں کے رویہ پر جو اقوام متحدہ کی ہر مسلم دشمن قرارداد پر ”ٹنگ ٹنگ ویدم دم نہ کشیدن“ کی تصویر بنے دیکھے جاتے ہیں جیسے یہود و نصاریٰ نے سب کو پینا ٹائز کر دیا ہے ورنہ ایک تہائی قوت جو وسائل سے بھی مالا مال ہے، افرادی قوت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، ایک بلاک کی صورت میں سینہ دھرتی پر اپنا وجود رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مشروط وعدہ بھی اس کا سرمایہ ہے، یوں خاموش رہنے بے بس ہو، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ رویہ شاید اس خوف کے سبب ہے کہ یہود و نصاریٰ کی ”سرپرستی“ پر کامل یقین ہے، اعتماد ہے کہ وہ عراق کے خلاف کویت اور سعودیہ میں چھاؤنی بنا کر ”مستقل تحفظ“ کا یقین دلا چکے ہیں اور (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ انہیں ضمانت نہ دے سکے۔

الحمد للہ ملت مسلمہ، ماسوائے حکمران طبقہ کے، غیرت مند بھی ہے، باحمیت بھی ہے اور اللہ کی نصرت پر ایمان بھی رکھتی ہے، مگر حکمرانوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں جس طرح حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں یو این او اور اس کی سلامتی کونسل نے IMF کی ری سے باندھ رکھے ہیں۔ حکمران طبقہ خارجی آقاؤں کے حکم پر میڈیا کے ذریعے بتدریج مسلمانوں کے دلوں سے اسلام خارج کرنے میں مصروف ہے۔ حکمران بھی اسی میں عافیت جانتے ہیں کہ عوام عیاشی کی طرف مائل ہو جائیں تو ان کے اقتدار کو لاحق ”بیداری“ کا خطرہ ٹل جائے گا۔

لیبیا اور عراق کے عوام بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئے اور ہمارے حکمران

سربراہی کانفرنسوں میں مشغول رہے، آج افغانستان کو دوسرے شعب ابی طالب کا ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے خطے لہو لہو ہیں، عصمتیں تار تار ہیں، قسیموں اور بیواؤں کی تار میں لہو لہو اضافہ ہو رہا ہے، قبرستان آباد ہو رہے ہیں اور آبادیاں ویران ہو رہی ہیں دوسری طرف مسلمان حکمران اسلامی کانفرنسوں کے افتتاح، کروڑوں کی تعداد میں قرآن حکیم کے نسخوں کی طباعت و تقسیم، مساجد اور ہسپتالوں کی تعمیر پر نازاں و مطمئن ہیں اور کو توسیع حرمین الشریفین سے جنت کی ضمانت نظر آتی ہے یا زیادہ سے زیادہ مل بیٹھ کر لوگ اپنی ”شدید ترین تشویش“ پر مطمئن ہیں۔

مذکورہ ہر کام باعثِ اجر ہے، مطلوب بھی ہے، مگر اپنی جگہ پر۔ ہم کسی کے کا نفی نہیں کرتے مگر سرورِ دو عالم حضرت محمد ﷺ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ مسلک ناقابلِ تردید ہے کہ حقوق جن کی پاسداری کے لئے خلیفۃ اللہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، طرح کے ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ معراج کی شب من جملہ امت کے لئے دوسرے انعامات کے، اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللعالمین ﷺ کو جس خصوصی انعام سے نوازا وہ خوشخبری ہے کہ آپ کے ان امتیوں کے، جو حقوق اللہ کی ادائیگی کی مقدور بھرسچی کر رہے مگر پھر بھی کمی رہ گئی، میں غفور الرحیم ہونے کے ناتے اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد صرف بندہ ہی معاف کرے گا۔

حقوق العباد کے لئے ہر کوئی مکلف ہے اور سرحدی حدود و قیود کا بہانہ یہاں نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے امت مسلمہ کو جس واحد قرار دیا، لہذا دنیا کے جس گوشے میں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، ہر کونے میں بسنے والا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور الحمد للہ کہ ہر خطہ کے عوام میں یہ شعور موجود ہے مگر کیا حکمران طبقہ اس شعور کا ساتھ دیتا ہے؟

لہو بھر کے لئے اپنے آپ کو داؤرِ محشر کے سامنے میدانِ حشر میں کھڑا محسوس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان حکمران کا نام لے کر پکارتے ہیں، سب کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک ایک سے فرداً فرداً پوچھتے ہیں کہ تمہیں اقتدار دے کر رکھوالے کا کردار با

تھا جب تمہارے مسلمان بھائی فلسطین، کشمیر، چینا، منڈے ناؤ میں محض مسلمان ہونے کے سبب کٹ رہے تھے تم کیا کر رہے تھے؟ جب یہود و نصاریٰ کی ناروا پابندیوں کے سبب عراقی عوام اور افغانستان کے غیور لوگ ناداری و افلاس کے گہرے گڑھے میں پھینکے جا رہے تھے جب معصوم بچے کیمپوں میں بھوک سے بلکتے اور علاج کو ترستے موت کی وادی میں پہنچ رہے تھے تو تم کہاں تھے؟؟

ہم بھدا ادب و احترام اپنے مقتدر راہنماؤں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جناب پرویز مشرف صاحب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم اندر سے کڑھتے تھے ہمارے دل روتے تھے مگر ہم یو این او کے چارٹر پر دستخطوں کے سبب مجبور تھے کیا خادمِ حرمین الشرفین کا یہ جواب قابلِ لحاظ ہوگا کہ توسیعِ حرمین اور تقسیمِ مصحف کے عظیم الشان کام نے یہ مہلت ہی نہ دی کہ اور کسی طرف توجہ دیتے؟؟؟ اور کیا والی ابو ظہبی کے اس جواب سے قادرِ مطلق کی تشفی ہو جائے گی کہ میں نے ہسپتال و مدرسے بنوائے اور میں یہی کر سکتا تھا۔

ایسے میں اگر شافع محشر رضی اللہ عنہ اپنے اس فرمان کے ساتھ وہاں پیش ہو گئے کہ میں نے اپنی امت کے سامنے یہ بنیادی نقطہ رکھ دیا تھا ”من رای منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم تستطیع فبلسانہ فان لم تستطیع فبقلبہ و ذلک اضعف الایمان“ تم میں سے جو کوئی برائی (ظلم) دیکھے اسے ہاتھ سے (بزور) روک دے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائے (احتجاج کرے) اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے مگر یہ کمزور ایمان کی علامت ہے (منہوم) ہادی برحق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر ہمارے مسلمان کہلوانے والے حکمرانوں کا جواب کیا ہوگا؟ یہ کہ ہمارا ایٹم بم ہمارے میزائل ہمارے عسکری قوت ایمان کی حقیقی قوت سے عاری ہونے کے سبب یہود و نصاریٰ کے مقابلے کی سکت نہ رکھتی تھی لہذا ہمیں دل سے برا بننے والوں کی صف میں رکھیے ہم کمزور ایمان والے ”مسلمہ مسلمان“ ہیں۔

حکمرانی قطعاً عارضی چیز ہے آج آپ حکمران ہیں گذرے کل کوئی اور تھا اور

یقیناً آنے والے کل کوئی اور ہوگا۔ آپ کی مہابت یا یو این . کے خوف کے سبب مسلمان جہاں جہاں مر رہے ہیں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں مسمتیں پامال ہو رہی ہیں ان میں سے کسی ایک نے محشر میں گریبان پکڑ لیا تو چھڑانا محال ہو جائے گا۔ وہاں تقسیم قرآن اس لئے سود مند نہ ہوگا کہ وہی قرآن مدعی بن کر سامنے کھڑا ہوگا کہ مجھے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرتے تو ملتِ مسلمہ عزت و وقار سے رہتی خوشحالی ہوتی اور کفار کو بچے یتیم کر کے عورتوں کو بیوہ کرنے یا عصمتیں پامال کرنے کی جرأت ہی نہ ہوتی کہ ماضی میں حاملین قرآن کی پناہ میں تو خود کفار سکھ محسوس کرتے رہے ہیں۔

غممیں نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا
فرنگیوں کا یہ نسوں ہے قم باذن اللہ

☆.....☆ ☆

۷

امریکہ کی 50 سالہ رشتہ پر مبنیوں پاکستان اور امریکہ کے
بھارت مخالف ہے افغان بپا بندیوں پاکستان اور امریکہ کے

بھارت اس وقت ایک طاقتور ملک ہے امریکہ بھارت کے ساتھ مزید مخالفت کا تحمل نہیں ہو سکتا بھارت سے تعلقات بہتر بنا پڑتے ہیں
افغانستان پر پابندیوں سے ہزاروں افغانی پاکستان آ رہے ہیں امریکہ دنیا سے وابستہ گروہ ختم کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کی تعلیم کی تہاں میں گفتگو

افغان جانچکنگس کوئی پاکستانی فریق نہیں داخلہ

ہمدانی تنظیموں نے اگلی کو ہونے والے انتخابات کی خریداری اور کمانڈوز ٹریننگ کیلئے لگائے گئے چھوٹے کے کیمپ منڈن کے قریب کی روک تمام کیلئے آزاد نہیں بھی جاری کر سکتے ہیں

مالابن سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمدانی تربیت کیلئے آئے وہ اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا کریں اب جہاں شانتی کارڈ نہیں ہیں گے اور بیچ کارڈ کی تقریب سے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو

صرف جھوٹ کی اشاعت ہوگی! دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا!!

عنوان پر پہلی نظر ڈالتے ہی ہر کسی کا شش و پنج میں مبتلا ہونا قطعاً فطری امر ہے کیونکہ اسے بطور اصول تسلیم کر لینا حقیقت کا منہ چڑانا ہے۔ مگر یہ کہنے والے اپنے دعویٰ کی سچائی پر مصر ہیں اور صداقت ثابت کرنے کے لئے وہ ٹھوس شواہد بھی پیش کرتے ہیں۔ ان سطور کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد دعویٰ اور دعوے کی پشت پر ثبوت کا جائزہ ہے۔

”صرف جھوٹ کی اشاعت ہوگی“ یہ دعویٰ ہے عالمی اقتدار پر قابض ہونے کا خواب دیکھنے والے یہود کا۔ یہ عالمی اقتدار تک پہنچنے کی خاطر کی گئی ان کی منصوبہ بندی کا دوسرا بنیادی نقطہ ہے یعنی عالمی سطح پر سونے پر قبضہ کہ وسائل پر کنٹرول قائم رہے اور پریس پر کنٹرول کہ جو ہم چاہیں وہی نمایاں طور پر اشاعت پذیر ہوتا کہ ایک طرف لوگوں کے اذہان و قلوب پر ہم موثر قبضہ کریں تو دوسری طرف اس جھوٹ کو سچ بناتے فریق مخالف کی سرکوبی کا جواز پیدا کریں جس طرح بھیڑیے نے بھیڑ کا بچہ کھانے کے لئے کیا تھا۔

ملاحظہ فرمائیے دعویٰ بحوالہ پریس کا کردار پریس کی قوت:

”حکومتوں کے ہاتھ میں آج رائے عامہ بنانے اور عوام کے ذہنوں کو ایک جہت دینے کے لئے پریس کی زبردست قوت موجود ہے۔
پریس کا کردار یہ ہے کہ وہ ہماری ناگزیر ترجیحات کو موثر انداز میں پھیلائے پریس ہمارے لئے کھرا سونا ہے اگرچہ ہم نے اس تک پہنچنے کے لئے خون پسینے کی قربانی دی ہے.....“

(Protocols, 2:15)

”ہم نے انہیں جن امور کو سائنسی قواعد کے طور پر تسلیم کر لینے کی ترغیب دی ہے اس پر انہیں جمارہنے دو۔ یہی مقصد تو ہے جس پر ان کی ایمان کی حد تک پختگی کے لئے ہمارے اخبارات و جرائد ہر لمحہ کوشاں ہیں۔ غیر یہود کے دانشور ہمارے مطلوبہ سمت میں اپنی قوم کو لے جانے کی خاطر خود ہی سائنسی معلومات و حقائق کو جنہیں ہمارے ماہرین نے تیار کیا ہے خوش نما بنا کر اپنی قوم کو مہیا کریں گے۔“ (Protocols, 2:2)

”..... اور لوگوں کی اکثریت دراصل یہ جانتی ہی نہیں کہ پریس حقیقتاً کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم اس سرکش اور بے لگام کو لگام دیں گے.....“ (Protocols, 12:3)

مذکورہ اقتباسات کو بالخصوص خط کشیدہ جملوں کو ایک بار توجہ سے پڑھیں اور پھر مغربی پریس اور مغربی پریس کے حوالے سے اپنے پریس میں اشاعت پذیر مواد خصوصاً انگریزی اخبارات و جرائد پر نگاہ دوڑائیے تو ان اقتباسات میں بیان کردہ حقیقت آپ کے سامنے نگلی ناچتی نظر آئے گی۔ مغربی پریس اپنے ”پس پشت آقاؤں“ کے اشارہ ابرو پر خبریں تراشتا ہے اور ہمارا پریس (الامشا اللہ) اسی کا خوشہ چین ہے۔ ہمارے قلمکار اسی کی بنیاد پر یہاں ”عمار تیں استوار کر لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور رہی رائے عامہ تو حقائق تک رسائی نہ ہونے کے سبب انہی ”حقائق“ کو تسلیم کر لیتی ہے۔

6) مغربی پریس پر آج یہود کا مکمل کنٹرول ہے اور نصاریٰ اسلام دشمنی کے حوالے سے ان کے معاون و مددگار ہیں لہذا اسلام کا مورچہ فتح کرنے کے لئے وہ اسلام پر بالواسطہ اور بلاواسطہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ کبھی اسلامی اقدار و طرز معاشرت ان کے حملوں کی زد میں دیکھے جاتے ہیں تو کبھی افراد و اقوام نشانے کی زد میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً

خبریات و جرائد کے صفحات ہوں یا انٹرنیٹ کی ویب سائٹ اسلام کے متعلق بے بنیاد 'معلومات' کی بھرمار ہے اور بڑے تسلسل کے ساتھ کہ یہی تسلسل مکمل جھوٹ کو سچ کے ریب لے آتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے گرد و پیش بکھری پڑی ہیں۔

افراد و اقوام کے خلاف جو "معلومات" جو "دلائل" و "شواہد" بڑی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کر کے مغربی پریس کے سپرد کئے جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے پریس کے صفحات کی زینت بنتے ہیں جو کسی ہوشمند کی نظر سے اوجھل نہیں ہیں۔ ہم اپنی بات کے ثبوت پر واضح گواہی امریکہ و یورپ کے لیبیا، سوڈان، عراق، افغانستان اور خود پاکستان پر قاتل و قاتلات کو پیش کرتے ہیں اور رہے افراد تو 'لاکربی' حادثہ کے مبینہ ملزمان ہوں یا اسامہ بن لادن ہر حملے کی زد میں دیکھے گئے ہیں۔

ہم نے جو کچھ کہا اسے صرف تین اخبارات روزنامہ "دن" لاہور، روزنامہ "انصاف" لاہور اور روزنامہ "اوصاف" اسلام آباد کے صفحات میں دیکھئے:

"اسامہ نے حکم دیا" امریکہ سانپ سے کچل دو (3 کالمی سرخی)

(روزنامہ اوصاف، 8 فروری 2001ء) بن لادن نے 90 کی دہائی میں متعدد احکامات جاری کیے جس میں امریکہ سانپ کے خلاف مسلمانوں کو جنگ پر اکسایا۔ خلیجی جنگ میں اسامہ نے فتویٰ دیا: مقدس مقامات پر امریکیوں کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے۔ (گواہ کا بیان) نیویارک۔ سعودی نژاد اسامہ بن لادن نے امریکہ کو سانپ سے تشبیہ دیتے ہوئے کچلنے کے احکامات جاری کئے تھے۔ اسامہ کے بقول امریکی سانپوں کی مانند ہیں جنہیں لگام دینے کے لئے کچلنا ضروری ہے....."

"اسامہ نے ایٹم بم خریدنے کے لئے ڈیڑھ ملین ڈالر مختص کر

دیئے" (3 کالمی سرخی) (روزنامہ اوصاف، 10 فروری 2001ء)

دس سال قبل ایٹم بم بنانے کے لئے بلیک مارکیٹ سے یورینیم کی خریداری کے لئے بھاری رقم مختص کی۔ (سرکاری گواہ) اسامہ بن لادن کے خلاف نیویارک کی عدالت میں سماعت کے دوران امریکی حکومت نے اپنا سرکاری گواہ جمال القادر پیش کیا جس نے عدالت کو بتایا کہ اسامہ بن لادن نے دس سال قبل ایٹم بم بنانے کے لئے یورینیم خریدنے کی کوشش کی تھی۔ سرکاری گواہ نے کہا کہ اسامہ نے بلیک مارکیٹ سے یورینیم خریدنے کے لئے ڈیڑھ ملین ڈالر مختص کئے تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مغربی اخبارات اسامہ بن لادن پر وسط ایشیائی ریاستوں سے کیمیائی ہتھیار خریدنے کا الزام لگا چکے ہیں

”اسامہ بن لادن نے سازشیوں کے خلاف خاموشی توڑنے کا فیصلہ کر لیا“ (3 کالمی سرخی) (روزنامہ اوصاف، 14 فروری 2001ء) اسامہ جلد اپنے خلاف جاری سازشوں پر تفصیلی بات کریں گے۔ بعض پاکستانی عہدیداروں سمیت سازش کرنے والے تمام افراد کے کردار سامنے لائیں گے۔

”اسامہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ سی آئی اے (2 کالمی سرخی) (روزنامہ انصاف، 14 فروری 2001ء) اسامہ کے پہاڑی سے گرنے کی خبر ملے تو خوشی ہوگی (امریکی اٹلی جنس حکام) نیویارک۔ امریکی اٹلی جنس حکام نے القائدہ تنظیم کو قومی سلامتی کے لئے خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسامہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے.....“

”سفارت خانوں پر حملے“ اسامہ نے امریکیوں کو قتل کرنے کی عالمی سازش کی۔ امریکہ (2 کالمی سرخی) (روزنامہ اوصاف، 8 فروری

2001ء) اسامہ نے اگست 96ء میں امریکیوں کے قتل کا فتویٰ دیا اور 98 میں حملے ہوئے۔ قتل کے احکامات کی پیروی کرنے والوں کے بجائے فیصلہ سازوں کو سزا دی جائے۔ استغاثہ کے دلائل۔ نیویارک۔ اسامہ بن لادن کے چار ساتھیوں کے خلاف امریکی سفارتخانوں پر حملہ کے مقدمہ کی سماعت کے دوران استغاثے نے کہا کہ امریکی سفارتخانوں میں بم دھماکے بن لادن کی امریکیوں کو قتل کرنے کی عالمی سازش کا حصہ تھا.....“

یہ ہے نمونہ مشے از خردارے۔ خبروں کی خبریت پر معمولی عقل و شعور رکھنے والا شخص بھی ذرا توجہ دے تو ہر خبر بھیڑیے کے بھیڑ کے بچے کو کھانے سے پہلے دی گئی چارج شیٹ سے مماثلت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ عقل و شعور کا ماتم کرتے ہی بنتی ہے کہ عقل کل کے دعوے دار 10 سال پرانے واقعات کو بطور دلیل آج پیش کرتے یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کرتے کہ دس سال کا طویل عرصہ ان کے کسی الزام کا عملی ثبوت پیش نہیں کرتا مثلاً ایٹم بم خریدنا یا بلیک مارکیٹ سے یورینیم کا حصول وغیرہ۔ جب الزام ثابت نہیں تو جرم ثابت کیے ہے۔

کرنل قذافی ہو یا اسامہ بن لادن حقیقی جرم صرف یہ ہے کہ یہ گردن امریکہ کے سامنے جھکانے کے لئے تیار نہیں تھے اور آج بھی جرم افغانستان کا ہے اور اسی جرم کا ارتکاب کرنے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام تلے بیٹھے ہیں۔ اسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو کویت، سعودیہ اور دیگر عرب امارات نے یا مصر ہے اور وہ چہیتے ہیں۔ امریکہ و یورپ کو کوئی گلہ نہیں ہے ان ممالک سے عمان سے کہ یہ اپنوں کی طرح ہر اشارہ ابرو کو سمجھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن اگرچہ سعودی ہے مگر گستاخ ہے کہ اپنے رسول ﷺ کے فرمان اخرجوا الیہود و النصارى من جزيرة العرب (اوکما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر عمل دیکھنے کا متمنی اور داعی ہے۔ اور امریکہ و یورپ کی ”غیرت“ اسے برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ صرف اسامہ ہی امریکہ کو سانپ نہیں سمجھتا ہر باشعور

مسلمان اسے اڑوھا جانتا ہے۔

اخبارات و جرائد کو ہم کنٹرول کرتے ہیں:

”ہماری مرضی و منشا کے بغیر عوام تک کوئی ایک خبر یا اعلان نہ پہنچ

سکے گا۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے سے ملنے والی خبروں کی ترتیب

و تدوین میں حصہ لینے والی ایجنسیاں ہماری نظر میں ہیں اور پھر یہ

مکمل طور پر ہمارے قبضہ قدرت میں ہوں گی کہ انہیں جو کچھ ہم

ڈکلیٹ کرائیں گے وہی کریں گی اور کاملاً ہمارے اشارہ ابرو پر کام

کریں گی۔“ (Protocols, 12:4)

”آج ہم غیر یہود جہلا (گوئم) کے ذہنوں پر اس قدر حاوی ہو چکے

ہیں کہ وہ اپنے قلب و نظر کو ایک طرف رکھ کر ہمارے ”فراہم کردہ“

مخصوص رنگین چشموں سے گرد و پیش دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے

ہیں.....“ (Protocols, 12:5)

مذکورہ دونوں نکات کو عملی شکل میں دیکھنے کے لئے صرف چند مثالیں پیش کیے

دیتے ہیں۔ پہلی مثال انہی پروٹوکولز کے اردو ترجمہ کی اشاعت ہے۔ کراچی کے ایک مفت

روزہ نے قسط وار یہ ترجمہ چھاپنا شروع کیا مگر نامعلوم وجوہ کی بنا پر آٹھویں وٹھے کی

طباعت سے آگے بات نہ بڑھ سکی۔ اسی طرح اسلام آباد کے ایک روزنامے نے پروٹوکولز

کو اردو میں دانش و حکمت کے کالم میں قسط وار شائع کرنا شروع کیا تو بھی اشاعت دسویں

وٹھے کی اشاعت پر رک گئی۔ یہودیت پر بہت ہی قلیل لٹریچر مارکیٹ میں ہمیشہ سے

دستیاب رہا ہے۔

جہاں تک دوسرے اقتباس کی حقیقت کا تعلق ہے روزمرہ اخبارات میں ایسی

پہلچھڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں زبان گوئم (غیر یہود جہلا) کی ہوتی ہے اور بات یہود کی

منہ سے نکلتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے چند اخباری خبریں:

”جہادی سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ‘ نوٹیفیکیشن چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ (روزنامہ انصاف، لاہور 14 فروری) (5 کالمی سرخی)
حکومت جہادی تنظیموں سے محاذ آرائی نہیں چاہتی مگر سرعام کمانڈو ٹریننگ اسلحہ کی خریداری اور چند جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ (وزیر داخلہ کا بیان) گلی کوچوں اور مساجد کے باہر کمپ بند کرانے کے لئے آرڈیننس لایا جا سکتا ہے۔ جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں سے دنیا میں پاکستان کے متعلق شکوک و شبہات پھیل رہے ہیں.....“

”افغان خانہ جنگی میں کوئی پاکستانی فریق نہ بنے۔ وزیر داخلہ (روزنامہ اوصاف، 14 فروری) (5 کالمی سرخی) جہادی تنظیموں نے گلی کوچوں میں کلاشنکوف کی خریداری اور کمانڈو ٹریننگ کے لئے چندہ کے کمپ بند نہ کیے تو اس کی روک تھام کے لئے آرڈیننس بھی جاری کر سکتے ہیں.....“

خود ساختہ چارج شیٹ جاری کر کے اپنے مخصوص لوگوں سے اپنے مطلب کے بیان دلوا کر اپنے مقاصد کی تکمیل کروا کر اپنے چہیتوں سے آزاد ممالک کے اندرونی معاملات پر ڈکٹیشن دی جاتی ہے کبھی انداز نامحمانہ ہوتا ہے تو کبھی حاکمانہ و جارحانہ۔ ایک جھلک دیکھتے جائیے کہ امریکی سفیر سفارت کے مسلمہ آداب کو پس پشت ڈالتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں:

”امریکہ کی بھارت سے 50 سال سے مخالفت ہے۔ افغانستان پر پابندیوں سے پاکستان متاثر ہوگا۔ (امریکی سفیر) بھارت اس وقت ایک طاقتور ملک ہے امریکہ بھارت کے ساتھ مزید مخالفت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھارت سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں.....“
(امریکی سفیر ولیم بی مایلم، بحوالہ روزنامہ ”دن“ لاہور 7 فروری 3

(کالمی سرخی)

سفارتی آداب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے ملک اور جس ملک میں تعیناتی ہے کے تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے اور بتدریج مستحکم کیا جائے۔ مگر جب امریکی سفیر پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اذلی دشمن بھارت کے طاقتور ہونے کی "توید" سنا گا اور بھارت کی طرف امریکہ کے جھکاؤ کو ناگزیر بتائے گا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا استحکام کس معیار پر ہوگا، آپ خود تعین کر لیجئے۔

بات شروع ہوئی تھی کہ "صرف جھوٹ کی اشاعت ہوگی" جو بڑھتے بڑھتے امریکی سفیر کے جھوٹ تک جا پہنچی۔ دراصل مرحوم جرمن "ماہر جھوٹ گوئبلز" جس کی جھوٹ کے حوالے سے اکثر مثال دی جاتی ہے کی روح کا رشتہ یہود و نصاریٰ سے بہت قریبی ہے اور پنجہ یہود میں بے بس نصرانی پریس وہی راگ الاپنے پر مجبور ہے جس کی سُر ال کے آقاؤں نے تیار کی ہو۔ ملاحظہ فرمائیے ایک نمونہ:

"اسامہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے" ٹائمز کی رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ طالبان (روزنامہ دن 7 فروری) عرب مجاہد کے مسئلہ پر طالبان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی....."

طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کا مذکورہ بیان روزنامہ "ٹائمز" لندن میں شائع ہونے والی ایک بے بنیاد رپورٹ کا رد ہے جس میں ٹائمز نے طالبان حکومت سے یہ بات منسوب کی تھی کہ "اگر امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے تو اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا" طالبان کے وزیر خارجہ وکیل احمد متوکل نے اس ہرزہ سرائی کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔

اگر طالبان حکومت کے وزیر خارجہ یہ تردید نہ بھی کرتے تو افغان قوم کی معاشرت سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی افغان غیرت و حمیت سے اسے فروتر سمجھے گا کہ مہمان کو دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ افغان جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے مہمان یا

پنی پناہ میں لئے گئے کسی انسان کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا، بشرطیکہ وہ احمد شاہ مسعود نہ ہو جو افغان بھیس میں کچھ اور ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جھوٹ پھیلانے والوں کی محنت دیدنی ہے، خصوصاً انگریزی پریس میں کہ انگریزی دان طبقہ جو اسلام اور نظریہ پاکستان کا نہ کھل اور اک رکھتا ہے اور نہ ہی ذہنی طور پر ادراک کے لئے تیار ہے، ہر طرح کے خارجی اثرات کو باسانی قبول کر لیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام بیزاروں یا مغرب کی طرز معاشرتی کے دلدادگان کی کثیر تعداد اسی طبقہ سے ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسلام کی سچائی کو انگریزی میں بیان کرنے والے خال خال ملتے ہیں۔ انگلش میڈیم اور مشنری کانونٹ سکولوں کے تعلیم یافتہ جس نہج پر تیار کئے گئے ہیں لامحالہ وہ اسی نہج کی ترجمانی کریں گے اور انگریزی وغیرہ ”ہمارے ہاں“ تو حرام ہے۔

امریکی سفیر مائیلیم کے مذکورہ ”ناصحانہ رویے“ کے بعد ”حاکمانہ جلالی انتباہ“ پر بھی نظر ڈال لیجئے کہ امریکی چہرے کے کئی رخ ہیں۔ امریکہ افغانستان پر بڑے اہتمام سے یو۔ این۔ او کے ذریعے پابندیاں بھی لگواتا ہے اور انسانی ”ہمدردی“ کی بنیاد پر قحط زدگان کے لئے امداد بھی بھیجتا ہے۔ اسرائیل سے دفاعی معاہدہ بھی کرتا ہے اور عربوں کا سرپرست و غمخوار محافظ بن کر کویت و سعودیہ میں چھاؤنی ڈالے بیٹھا ہے۔ اسی امریکی سفیر کا فرمان ہے اس ملک میں بیٹھ کر جس کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام میں جہاد کا کیا مقام ہے، ہر مسلمان اور کافر بخوبی جانتا ہے۔

”پاکستان کو جہادی تنظیموں سے نبٹنا ہوگا۔ امریکی سفیر (بحوالہ اوصاف، 10 فروری، 6 کالمی سرخی) ہم اسلام کے خلاف نہیں، طالبان سے رابطے جاری ہیں۔ تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ اسامہ کو افغانستان سے نکلوانے اور قانون کے حوالے کرنے کے لئے امریکہ فوجی ایکشن سمیت تمام راستے اپنائے گا“

امریکہ ماضی میں اگرچہ ایک ”انجوائی محفوظ“ فوجی ایکشن ایران سے اپنے امریکی اغوا کرنے کے لئے انجوائے کر چکا ہے۔ خمینی صاحب نے برملا یہ کہا تھا کہ امریکہ شیطان ہے اور سپر پاور اس کائنات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں کسی اور کو سپر پاور تسلیم نہیں کرتا۔ ایرانی قوم سو رہی تھی اور حقیقی سپر پاور جاگ رہی تھی جب کئی مہینوں تک ریہرسل کرنے والے امریکی جہاز اور ہیلی کاپٹر اپنے بندے نکالنے ایرانی حدود میں چوروں کی طرح رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھائے داخل ہوئے جنہیں سپر پاور نے لمحوں میں تہس نہس کر دیا کہ پیچھے اطلاع دینے والا بھی نہ بچا۔

افغان قیادت اور افغان عوام مکمل شعور کے ساتھ اسی سپر پاور پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ایمان افروز استقلال کی بے شمار داستانیں ماضی کی تاریخ کا درخشندہ باب ہیں۔ مومنانہ بصیرت ان کا مقدر ہے اور جب یقین محکم، عمل پیہم ہو تو عرش سے فرشتوں کے ذریعے پیغام آتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الاتخافوا ولا تحزنوا والبشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ نحن اولیاکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة 0 جب آفاقی قوتیں سرپرست و ولی ہوں تو خوف کا کیا مقام ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بالخصوص اور ملت مسلمہ کو بالعموم جھوٹ چھاپنے کے ان دعویداروں کی ہر پہلو سے سرکوبی کرنی چاہئے اور میڈیا کے چہرے کو ہر داغ ہر دھبے سے پاک رکھنا چاہئے، خواہ یہ داغ دھبے کلچر و ثقافت کے نام پر ہوں یا جدید دور کے تقاضوں کے نام پر۔ جھوٹ شائع کرنے کا دعویٰ کرنے والے تو اپنے آغاز سے ہی مغضوب ہیں اور اہل ایمان کے لئے ان کے خالق نے اپنی کتاب میں فرما دیا کہ لعنة اللہ علی الکاذبین یعنی جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔

میڈیا کے ذریعے کو اپنے ان مذموم مقاصد کے لئے استعمال کرنا ”آخری صلیبی جنگ“ کا ایک موثر محاذ ہے جس پر صلیبی ہر پہلو سے مکمل جارحیت کے ساتھ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس دباؤ کا مکمل شعور و ادراک سے دفاع کرنا آج ملت مسلمہ کی ضرورت

پہلے جھوٹے الزامات بنتے ہیں، چھتے ہیں اور پھر ان کو بنیاد بنا کر یو این او اور سلامتی کونسل کے باولے کتے اس طرح پیچھے لگتے ہیں کہ ”پتھر باندھ دیئے جاتے ہیں“ یہ لیبیا، عراق کے بعد افغانستان پر بیت ربی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان زد میں ہے اور یقین کیجئے کہ باولا پن صرف اس ’باغی مسلمان‘ کی شناخت کرتا ہے جنہیں یہ مشترکہ لیبی باغی قرار دے دیں۔ بے ضرر مسلمان محفوظ و مامون ہیں۔

☆.....☆.....☆

پہلے حکم دیا گیا ہے کہ چل دو

مقدمے کے پہلے
سرکاری گواہ
کامیاب

بنیادوں نے نوے کی دہائی میں متعدد احکامات جاری کئے جس میں امریکہ سائب مخالف مسلمانوں کو جگ کرنے کیلئے اکسا گیا

ٹیلی ویژن میں اساتذہ نے فتویٰ دیا مقدس زمین پر امریکیوں کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے اور وہ جہاں آتے خود کو اتار دیا اور کھینچا گیا

اساتذہ کرام خریدنے کیلئے دیر میں داخلہ کر دیے

دس سال قبل ایٹم بم بنانے کیلئے ایک ادارہ کیسے خریدی اور اس کیلئے ہماری رقم حصص کی سرکاری گواہ جمال القاسم کامیاب

فرانس میں بھی وہ مسلم شدت پسندوں مخالف مقدمہ شروع کیا اساتذہ کا ساتھی ہونے افغانستان اور وہ شیائے نوٹ لہرانے کا اور نام لیا گیا

لیبر سٹریٹ کے خزانے کیلئے پورے ملک کی پورے حصے کا بیان

ہر ایک کے مسئلہ پر طالبان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اساتذہ خود چاہیں تو افغانستان سے جاسکتے ہیں لیکن ہم نہیں نکالیں گے ماننا روز بروز

اساتذہ کو قریبوں کی طرف سے پانچ لاکھ روپے کی رقم کے ساتھ ساتھ تمام مالیاتی امور میں بھی ان کی سربراہی کا اہم حصہ ہے اور اس کی

پاکستان اور جمہوریہ پاکستان کے درمیان

ہر اساتذہ مخالف پالیسی میں جاری ہیں تعلیمات میں تمام امور کو ان کے ہاتھ میں رکھنے کے لئے امریکہ کوئی کام نہیں سمجھتا اور اسے اس کے

اساتذہ کو ان کے خلاف کسی قسم سے شک میں نہیں لگے صرف امریکہ میں مقیم ہیں پاکستان اور جمہوریہ پاکستان میں رابطے کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ یہ امریکہ سے کشمیر

پاکستان ٹیلی ویژن اور قومی کردار کی تباہی

میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک اس کا کام ملکی و ملی نظریہ سے ہم آہنگ قومی سطح پر اخلاق و کردار کی تعمیر و تشکیل اور مثبت اقدار کی ترویج و استحکام ہے۔ منفی اقدار اور ملک و ملت کے خلاف منفی پراپیگنڈے کا توڑ بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس کسوٹی پر اگر نصف صدی میں میڈیا کے کردار کو پرکھنے کی کوئی بھی غیر جانبدارانہ کوشش کی جائے تو مایوسی مقدر بنتی ہے۔

53 سال کے نرم گرم تجربات کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں میڈیا کو غیر ملکی آقاؤں کے اشارہ ابرو پر ناپتے دیکھتے ہیں۔ اخبارات کے رنگین ایڈیشن ہوں تجزیاتی کالم ہوں یا ریڈیو ٹی وی کے پروگرام دین کے نام پر گنتی کے چند پروگرام چھوڑ کر جو آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے اور جن کا اثر ان کے فوراً بعد پیش کیے جانے والے پروگرام دھو ڈالتے ہیں خارجی سرمایہ پر پلنے والے NGO مافیاء کے پروگراموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ انگریزی اخبارات زیادہ ذمہ دار ہیں۔

اپنی مذکورہ بات کی صحت پر ہم بطور شہادت 2 اکتوبر 11 بجے پی ٹی وی پر نعیم بخاری صاحب کا پیش کردہ پروگرام 'بلسلسلہ مخلوط تعلیم کی اہمیت' ایک مجلس مذاکرہ کو پیش کرتے ہیں جس کے شرکاء میں کانٹونٹ درسگاہوں یا اسی قبیل کے لوگوں کی شمولیت کو کافی سمجھ لیا گیا تھا۔ اسلام اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے تعلیم پر یقین رکھنے والوں پر یہ دروازہ بند رکھا گیا۔ پون گھنٹے کے اس پروگرام میں مخلوط تعلیم کے ذریعے معاشی سماجی اور معاشرتی فوائد کے 'فیوض و برکات' گنوائے گئے۔

ہر بالغ انسان کے نزدیک یہ ایک طرفہ تماشا تھا اور ڈگڈگی انہی ہاتھوں میں تھی۔ قیام پاکستان سے آج تک اس ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی جمہوریہ کے اساسی تقاضوں سے دور سے دور تر کرنے کے مجرم ہیں۔ سوال و جواب کے وقفے میں میڈیکل کالج ایک پروفیسر صاحب نے جب اس ایک طرفہ ٹانگ اور اس کے عملی پہلوؤں کے ضمن سوال اٹھایا تو اسے ہوا میں اڑا دیا گیا۔

پی ٹی وی پر Gender Watch کے عنوان سے ایک اور 30 Sponsered پروگرام آتا ہے اس کے ذریعے خواتین میں بیداری کم اور بے زاری زیادہ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام بیجنگ پلس فائو یا یو این او میں ہونے والی حالیہ کانفرنس کے ایجنڈے کا حصہ ہے جسے یو این او کے پلیٹ فارم سے نافذ کرانے میں یہ نصابی کے پروردہ NGOs ناکام رہے۔ پاکستان میں یہ این جی اوز مافیا مسلمان عورتوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔

اہم واقعہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آبادی کا ستر پچھتر فیصد حصہ معاشرہ ہے اور 25، 30 فیصد شہروں میں رہتا ہے۔ شہروں میں آباد لوگوں میں کثیر غریب مزدوروں، کاروباری لوگوں کی ہے اور قلیل تعداد امراء کی ہے۔ ان امراء میں صرف 5 یا 7 فیصد مغرب زدہ ترقی پسند اور اخلاق و کردار سے عاری ہوں گے۔ بقیہ آج تو پاپی پیٹ کے چکر سے ہی نکل نہیں پاتی اور یہ شہری اکثریت دین کے حوالے سے عمل ہو تو بات مانی جاسکتی ہے مگر دین بے زار نہیں ہے کہ جب بھی دین کے حوالے سے ملک کے کسی گوشے سے اسے پکارا گیا، لوگوں نے تن من دھن دین کے نام پر نچھاور دیا۔

وہی معاشرے کی اکثریت ماسوائے اقلیتوں کے اب بھی اقدار و روایات چھٹی ہوئی ہے۔ یہاں بھی اگرچہ بے عملی قدم قدم پر ہے مگر اس کے باوجود دین و ابستگی کے مظاہر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر کوئی غور کر کے انہیں پاسکتا ہے۔ معاشرے میں کسان ہیں، مزدور ہیں یا چھوٹے موٹے دوکاندار یا پھر مختلف نیم پڑنے

پڑھے لکھے ملازمین خصوصاً محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے۔ یہ سب لوگ کولہو کے ہیل کی طرح اپنے اپنے دائرہ کار میں صبح سے شام تک مصروف رہ کر اپنے گھروں میں اطمینان بخش پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ رہے اکا دکا واقعات و حادثات تو یہ آخر کس معاشرے میں نہیں ہیں؟ کیا یورپ و امریکہ ان سے بری ہے۔

پی ٹی وی اگر 5 سے 7 فیصد لوگوں کے لئے بلکہ اس سے بھی کم اس لئے کہ اگر ان میں سے 10 سال سے کم اور بوڑھے نکال لیے جائیں جنہیں ”جنڈر و ایچ“ یا مخلوط تعلیم یا پاپ پروگراموں سے نہ شعوری خواہش ہے نہ وابستگی تو پی ٹی وی کے کارفرماؤں سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایسے پروگرام کن کی خواہشات کی تکمیل و تسکین کے لئے پیش کرتے ہیں۔ کسی گاؤں اور دیہی بستی میں وہ معاشرہ ہے جس کی عکاسی پی ٹی وی کے پروگرام کرتے ہیں؟ یہ اسلام آباد یا دوسرے بڑے شہروں کی پوش آبادیوں کی اقلیت کا یا NGO مافیا کے خارجی سرپرستوں کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے لیکن بھکر، مظفر گڑھ، خوشاب، حسن ابدال، لکی مروت، شکار پور، ٹنڈو محمد خان کا معاشرہ یقیناً نہیں ہے جسے ایسے پروگراموں کی طلب ہو۔

فوجی قیادت اگر عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اگرچہ جوابدہی کا احساس ہونا چاہئے تو یقیناً داور محشر کے سامنے جوابدہ ہے۔ یہ اقتدار بھی عارضی ہے اور زندگی اس تو اقتدار سے بھی زیادہ عارضی ہے۔

☆.....☆.....☆

اس میں کیا شک ہے کہ محکمہ ہے یہ ابلسی نظام
پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام

☆

پس رسولوا لکم من الذمیر



ڈاکٹر شیر محمد زمان
ایم اے (تجربہ) ایم اے (ادبیات)
چیئرمین



اسلامی نظریاتی کونسل
حکومت پاکستان

ایس ایس سی / ۲۰۰۱ - سی آئی آئی /
اسلام آباد ۷ مارچ ۲۰۰۱ء

جناب محترم

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

جواب میں کچھ تاخیر ہوئی ، معذرت خواہ ہوں - الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا

کے کردار کا صحیح تعین ، اس کی اطلاع اور اس سے استفادہ - ایسے موقوم ہیں ، جن سے کونسل کو ہمیشہ دلچسپی رہی ہے اور ہم ملحدور پھر اس سطحے میں حکومت وقت کی توجہ منقطع کراتے رہے ہیں - آپ کا گرامی نامہ اور آپ کے منسلکہ مقامین میں نے جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ آزاد ، ڈائریکٹر جنرل (ریسرچ) کے پاس بھیج دیئے ہیں تاکہ وہ ہمارے کام میں ان سے استفادہ کر سکیں - مذاکرے کا انعقاد شاید کونسل کے دائرہ کار سے باہر ہے مگر ہمارے بستوری فرائض میں ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں - آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ وب کیریوم ہماری صحیح راہنمائی فرمائے اور ان فرائض کی بجا آوری میں سرگھوٹی عطا کرے - والسلام

طالب دعا

(ایس ایم زمان)

جناب فید الرشید ارشد صاحب
جوہر پریس ، جوہر آباد -

گ-۵/۵ اسلام آباد - فون ۴۶۴۶۰ - فکس ۵۱۶۲۸۱ - (پاکش) ۸۲۶۵۵۸

قوم کے کردار اور اخلاق کے محافظو! ایک پہلو یہ بھی ہے

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے ابتدائیہ میں قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہی مقصد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پیش نظر تھا، گویا قوم کی عملی زندگی کا ہر انفرادی اور اجتماعی پہلو معاشی ہو یا سیاسی، تعلیم ہو یا معاشرتی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا حکومت کی ذمہ داری تھی اور آج بھی آئین بحال ہے تو یہ ذمہ داری برقرار ہے اس سے انحراف قومی جرم ہے۔

مسلمہ حقیقت کے طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ دولت لٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں کہ ہاتھ کی میل ہے، صحت برباد ہو تو قابل توجہ نقصان ہے لیکن اگر کردار لٹ جائے تو بچتا کچھ نہیں اور پھر اس حقیقت کو بھی ہر عقلمند تسلیم کرتا ہے کہ اگر ایک مرد کردار کی تباہی سے دوچار ہوتا ہے تو بہت حد تک ایک فرد کا نقصان ہے لیکن خدانخواستہ ایک عورت کا کردار داؤ پر لگتا ہے تو ایک خاندان کا کردار برباد ہوتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ خاندان ہی مل کر سماج و معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔

مذکورہ حقائق ہم سے زیادہ ہمارا دشمن جانتا ہے کہ جس نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہمیں اربوں روپے کا تحفہ بصورت خاندانی منصوبہ بندی دیا اور پھر ہماری حوصلہ افزائی کے لئے سال بہ سال اس تحفے کی مالیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ مسلمان ممالک کے عوام کی صحت کے لئے فکر مند امریکہ و یورپ نے خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی کی خاطر ایسی نادار ادویات کے تحفے بھی دیئے جو مرد و زن کو ”بیچیدہ امراض کے تحفے“ دینے

لگیں، یعنی نفسیاتی امراض سے لے کر کینسر تک کا انعام۔

جسمانی عوارض کے سبب ”چھٹکارا“ کا ایک پہلو یہ بھی پیش نظر تھا کہ جو وسائل یہ غریب برباد کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے اور امریکہ و یورپ کے کام آئیں گے (بحوالہ امریکن رپورٹ S-200) یہ ترقی پذیر مسلمان ترقی یافتگان کے راستے کا روڑہ کیوں ہیں؟ اسی بہبود آبادی کے تیر سے دوسرا شکار اوباش مرد و زن کو ”کچھ نہ ہونے“ کا تحفظ فراہم کرنا اور نئی نسل کو اس کی چاٹ لگانا تھا۔ بہبود آبادی کی سرکاری چھتری تلے یہ مقاصد ہمارے سیانے دشمن نے بطریق احسن حاصل کر لئے (آبادی تو نہ رکی فحاشی بہر حال

ایس جی ادز کا دل

یومی۔
(7)

جب اس پر بھی سینہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کرنے والی حکومت کے ذریعے دشمن نے عالمی مالیاتی اداروں کا دباؤ استعمال کرتے ہوئے اپنی ”امداد“ کے پردے میں عوامی صحت کے نام پر گاؤں کی سطح پر ہیلتھ ورکر پروگرام متعارف کرایا۔ دیہات میں معمولی تعلیم یافتہ شادی شدہ کنواری نوجوان لڑکیوں کو لیڈی ہیلتھ ورکر بھرتی کر کے ملک سے ”بے روزگاری کا خاتمہ“ کیا گیا تو دوسری طرف این جی او مافیا کا دل ٹھنڈا ہوا کہ خواتین کو گھر کی پابندیوں سے ”آزادی“ اور حقوق میں سے ایک حق مل گیا۔ گلے میں بیگ لٹکا کر لڑکی کا سر بھی فخر سے اونچا ہوا۔

پاکستانی معاشرہ شہری ہو یا دیہی ابھی اخلاق و کردار کے مکمل دیوالیہ پن کا شکار نہیں ہو ہے۔ ان شادی شدہ اور کنواری لڑکیوں کو لیڈی ہیلتھ ورکر کی تربیت کے دوران خاندانی منصوبہ بندی کے سامان سے مکمل آگاہی دینے والے بالعموم مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ (راقم الحروف کے پاس شواہد ہیں) مرد ڈاکٹر سامنے بیٹھی دوشیزاؤں کے سامنے (ادھیڑ عمر کی اکاڈ کا ہوتی ہے) مرد و زن کے جنسی اعضاء کی تشریح کرتے ہیں، چھلے اور کنڈوم کی برکات سے مستفید کرنے کے طریق استعمال کی تشریح سے نوازتے ہیں تو شرم و حیاء منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ان دوشیزاؤں سے مطلوب یہ ہے کہ گھر گھر جا کر مرد و زن کو ان کے فوائد گنوا کر قائل کیا جائے اور طریقہ استعمال سکھایا جائے۔ بد نصیبی کہ پندرہ سو یا دو

عصر حاضر میں میڈیا کا محاذ..... موسیقی اور تصویر، علماء کے لئے لمحہ فکریہ!

عالمی سطح پر میڈیا کے محاذ پر اپنی فتوحات کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے یہود نے نصرانی پریس کو یورپ، امریکہ اور روس میں سونے کی قوت کے بل بوتے پر شہمات دے دی اور اب ساری قوت مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تیسری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کے خلاف صرف کی جا رہی ہے تمام ممکنہ وسائل اس محاذ پر لگائے جا رہے ہیں۔ یورپ و امریکہ کے بارے میں ہم نے جو عرض کیا ہے وہ ذیل کے اقتباس میں ملاحظہ فرمائیے:

”امریکہ میں انڈیپنڈنٹ میڈیا (پریس) نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ شائع نہیں ہوگی۔ مجھے ہر ہفتے 15 ڈالر اس لئے ملتے ہیں کہ میں اپنے اخبار میں اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار نہ کروں۔ آپ سب کا یہی حال ہے۔ اگر میں اپنے پرچے میں اس کی اجازت دے دوں تو 24 گھنٹوں سے پہلے میری ملازمت ختم ہو جائے۔ ایسا بے وقوف آدمی بہت جلد سڑکوں پر دوسرا کام تلاش کرتا نظر آئے گا۔ نیویارک کے جرنلسٹ کا فرض ہے کہ جھوٹ بولے خبروں کو مسخ کرنے بدزبانی کرنے قارئین کی چاپلوسی کرے اور اپنی قوم کو ملک کو روٹی کی خاطر بیچ دے اور غلام بن کر رہے۔“

ہم پس منظر میں رہنے والے امراء کے غلام ہیں، کٹھ پتلیاں ہیں کہ
 وہ تار کھینچتے ہیں، ہم ناچتے ہیں، ہمارا وقت، ہمارا ہنر، ہماری زندگی اور
 ہماری اہلیت ان لوگوں کی پر اپرٹی ہے اور ہم ذہنی طوائفیں ہیں۔“
 (ایڈیٹر جان سوئٹن، بحوالہ ”سونے کے مالک“ از ڈاکٹر محمد ایوب،
 صفحہ 6)

یہ گذشتہ صدی کے آغاز کی بات ہے اب میڈیا پھیل چکا ہے، پرنٹ میڈیا کے
 ساتھ ساتھ اب الیکٹرانک میڈیا کی برق ہر لمحہ گرتی ہے اور ہر عمر کے لوگ اس کی زد میں
 ہوتے ہیں اور پس پشت میڈیا مینجمنٹ کا تمام تر زور اس بات پر ہے کہ چونکہ اقدار کا
 سرمایہ کسی ملت کو کسی ملک کو استحکام بخشتا ہے اور اقدار کو جنم دینے، جلا بخشنے والی بنیاد مذہب
 اور عقیدہ ہے لہذا اگر ضرب مذہب اور عقیدہ پر لگائی جائے تو تکمیل اہداف سہل بن جاتی
 ہے۔ مذہب و عقیدہ پر موثر حملہ تین اطراف سے ہو تو کامیابی یقینی بن جاتی ہے پہلا محاذ
 مال کی محبت یا سونے کی چمک ہے تو دوسرا موسیقی و فنون لطیفہ ہے جب کہ تیسرا محاذ مذہب
 میں ملاوٹ ہے جس کا آغاز یہود نے عیسائیوں کے عقائد میں ملاوٹ سے کیا اور جس کا
 تسلسل عبداللہ بن سبا کے ذریعے اسماعیلیت، بہائیت وغیرہ کے عقائد سے قائم رہا۔

ہم اگر یہ عرض کر دیں کہ یہود قرآن کو برحق تسلیم کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں
 کو تعجب ہوگا مگر امر واقع یہی ہے۔ ایمان کے اقرار نہ کرنے میں صرف ہٹ دھرمی ہے کہ
 آخری نبی حضرت محمد ﷺ ہم میں سے نہیں قریش میں سے ہیں۔ ہم قرآن پر ان کے
 یقین کے حوالے سے دو مثالیں آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ مثال 67ء کی جنگ میں مصر
 سے صحرائے سینا چھیننے کے بعد صحرا سے پانی حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ مصر نے صحرا سینا
 سے کبھی پانی نکالنے کا سوچا تک نہ تھا۔ جنگ کے بعد جب اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو یہود
 نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مار کر پانی کے
 بارہ چشمے چلائے تھے۔ قرآن غلط نہیں کہتا یہاں زیر زمین پانی ہے۔ انہوں نے یہاں
 ڈرننگ کی اور کامیاب ہوئے کہ وافر پانی ان کا مقدر بنا۔

قرآن پاک کی حقانیت اور راہنمائی کے ضمن میں دوسری مثال جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ سورۃ لقمان کی اس آیت سے راہنمائی ہے 'ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله O' "لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو لہو لعب کا سامان خرید کر (عوام کو) اللہ کے راستے سے دور لے جانا چاہتے ہیں"۔ قرآن میں یہ واقعہ اسلام کا راستہ روکنے کی خاطر عراق سے گانے بجانے والیاں اور الف لیلیٰ کی داستانیں لانے کے نصر بن حارث کے منصوبہ سے متعلق ہے۔ یہود نے اپنے مولویت اور تصویرِ خدا ختم کرنے کے عندیہ کی تکمیل کے لئے اسی کا سہارا لیتے ہوئے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اقدار پر یلغار کی ہے۔

"..... یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ گوئم (غیر یہود) کے تصورِ خدا کی روح کی دھجیاں بکھیر کر اس کی جگہ مادی فوائد اور حسابی قاعدے لے آئیں۔" (Protocols, 4:3)

"طویل عرصہ سے ہم نے یہ محنت کی ہے کہ غیر یہود میں ہم مولویت کو بے وقار بنا دیں اور سینہ دھرتی پر ان کے مشن تباہ و برباد کر دیں جو ہمارے راستے کا سنگ گراں ہیں۔ دن بدن مولویت کی قدر و منزلت کم ہو رہی ہے۔ آزادی ضمیر کے نعرے کی طرف ہم نے عوام کو دھکیل کر مولویت کو بدنام کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ رہا مسئلہ دوسرے ادیان عالم کا تو ہمیں مقابلتاً کم مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ ہم مولویت کو بندگی تک محدود کر دیں گے۔"

(Protocols, 17:2)

"جونہی مولویت کو برباد کرنے کا طے شدہ لمحہ آئے گا ایک نادریدہ ہاتھ ہر قوم کی طرف بڑھ کر اسے ہمارے قدموں میں دھکیل دے گا....." (Protocols, 17:3)

یہ نادیدہ ہاتھ آج پاکستان میں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے اور عقل و شعور انگشت بدنداں ہیں۔

موجودہ دور کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا مکمل طور پر تصویر اور موسیقی پر انحصار کر رہا ہے۔ میڈیا اسلام دشمنوں کا اہم ترین محاذ ہے۔ اسلام میں تصویر اور موسیقی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو کیا موجودہ صورت حال میں اسلامی تعلیمات پر عمل کے نام پر اسلام دشمن میڈیا کو کھل کھلنے کے لئے آزادی دے دینی چاہئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے علماء کرام اور فکر اسلامی کے حامل دانشوروں کے لئے یہ عصر حاضر کا بہت بڑا چیلنج ہے اور گذرتے لمحات چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہیں کہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہر لمحہ اقدار کا قاتل ہے اور ہم مکلف ہیں۔

ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین کا ورد کرتے ہر شیطانی قوت کو ٹھکانے لگا دیں کہ ہادی برحق ﷺ کا فرمان ہے ”من رآی منکم منکراً فلینیرہ بیدہ فان لم تستطیع فبلسانہ فان لم تستطیع فبقلبہ“ اسی فرمان کا دوسرا پہلو زبان سے احتجاج ہے تو تیسری صورت دل سے برا جاننے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ تینوں اقدام اس ملی سطح کے حقیقی مسئلے کا حل ہیں یا یہ برحق فرمان رسول ﷺ انفرادی عمل کے پہلوؤں کو اجاگر کرتا اور راہنمائی دیتا ہے یا اسے دور رفتن کہہ کر خاموش ہو جائیں۔

خدا نخواستہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ علماء اجتہاد کے ذریعے قرآن و سنت کے حرام کو حلال قرار دے دیں مگر سکوت سے جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اور دن بدن جن میں اضافہ ہو رہا ہے ان کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اصل حل تو طالبان کے افغانستان میں تصویر اور موسیقی پر مکمل پابندی والا ہے مگر کیا یہ حل افغانستان کی اسلامی ریاست کے لئے مستقبل میں مثبت نتائج سامنے لائے گا۔ ہمارا جواب نفی میں ہے کہ آج کے دور میں قوم کی پرورش بندخول کے اندر ممکن نہیں۔ آپ محدود مدت تک پابندی لگا سکتے ہیں قوم وقتی طور پر اس پر عمل بھی کر لے گی مگر مستقبل کی نسل بے بغاوت کرے گی تو

سارے کئے ڈھرے پر پانی پھر جائے گا کہ گرد و پیش پھیلی خرابی اثر دکھاتی ہے۔

سعودی عرب اسلامی مملکت ہے شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے۔ حرمین الشریفین تقدس بھی ہے مگر نوجوان نسل جنسی تسکین کے لئے بنگاک اور شراب کی لذت کے لئے ایک انڈر پریس کی طرف قطار اندر قطار رواں دیکھی جاسکتی ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو ہر جوان و پیر کو ملک سے باہر بھی جانا ہوگا وہاں رہنے کے دوران کان اور آنکھ جس لذت سے آشنا ہوں گے جب وہ اپنے دیس میں میسر نہ آئے گی تو رد عمل فطری ہے۔

فوٹو گرافی دفاعی ضرورت ہے طبی ضرورت ہے اور میڈیا کی ضرورت ہے بلکہ یہ تعلیمی ضرورت بھی ہے۔ نظریہ ضرورت یا اضطرار کے حوالے سے اس کی حدود و قیود کا تعین کر کے قوم کو آگاہ کرنا علماء کا فرض ہے کہ اس پیشہ سے متعلق لوگوں کو شرح صدر نصیب ہو شرح صدر ان کو جو حدود و قیود کے پابند رہنا پسند کرتے ہیں اور شرح صدر ان کو بھی جو حدود و قیود توڑ کر مادر پدر آزاد رہنے پر بھند دیکھے جاتے ہیں۔

موسیقی کا مسئلہ بھی کم اہم نہیں۔ موسیقی پر ایمان رکھنے والے اسے روح کی غذا ثابت کرتے ہیں بلکہ اس سے مختلف بیماریوں کے علاج پر بھی مصر ہیں جب کہ اسلام اسے روح مارنے کا آسان نسخہ قرار دیتا ہے۔ شریعت کی بالادستی کے دعویداروں نے اب قرآنی آیات اسمائے ربانی اور نعتوں کو بھی آلات موسیقی کی سروں سے ہم آہنگ کر لیا ہے۔ قوالی کا جواب تو پہلے ہی اولیا اللہ کا نام لے کر پیدا کیا جا چکا تھا۔

فوجی پریڈ ہو یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگرام موسیقی ہر جگہ موجود ہے۔ فوجی بینڈ نوجوانوں کی پریڈ میں ردھم کے ساتھ ساتھ جوش و جذبہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر یہ انفرادی ضرورت نہیں اجتماعی ضرورت کے زمرے میں آتا ہے۔ استعمال محدود مواقع پر ہوتا ہے۔ موسیقی کی ہر دوسری صورت ضرورت نہیں "تفریح" ہے کیا ایسی تفریح نظریہ ضرورت کے تحت حلال ہو جاتی ہے؟ کیا اس کا کوئی بہتر متبادل قوم کو دیا جاسکتا ہے؟ کیا اس کو اپنی موجودہ حالت میں اسی طرح برداشت کرنے کی گنجائش ہے کہ یہ دورِ فتن ہے۔

کیا یہ کہہ کر علماء امت بری الذمہ ہو سکتے ہیں کہ یہ افراد کے کرنے کا کام ہے یا حکومت کے کرنے کا، کوئی اور شخص کچھ نہیں کر سکتا۔

اسلام دشمنوں کے اس موثر محاذ پر ان کی سرکوبی اگرچہ ہر باشعور پاکستانی کی ذمہ داری ہے مگر علماء و صلحا امت اور درد دل رکھنے والے دانشوروں کے کندھوں پر اس کا بوجھ زیادہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں لا ینکف اللہ نفس الا وسعہا کا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہم نے یہ سطور بڑی درد مندی کے ساتھ اسی لئے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ قوم راہنمائی کے لئے آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ میڈیا آپ سے آپ کی مستقبل کی امین نسل سے اقدار کا قیمتی سرمایہ چھیننے لئے جا رہا ہے بچا سکتے ہیں تو بچا لیجئے۔

میڈیا میں اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر اپنے تیار کردہ ضمیر فروش قلمکاروں کے بھیس میں بٹھائے ہیں تو ریڈیو اور ٹی وی آرٹسٹوں اور سپانسروں کے روپ میں پلاٹ کئے ہیں اور ہر ایک کے ضمیر کی قیمت لگی ہوئی ہے جس طرح امریکی ایڈیٹر کو ہر ماہ پندرہ ڈالر ملتے تھے اسی طرح یہاں بھی لفافے چلتے ہیں جس کا برملا اعتراف چیف ایگزیکٹو صاحب بھی کر چکے ہیں بے شمار ماہوار جرائد جس طرح فحاشی پر مبنی دلچسپ کہانیاں اور اسلامی تاریخی کہانیوں کے نام پر بزرگان دین کا نام لے کر قوم میں پھیلا رہے ہیں یہ بھی میڈیا کی اسلام دشمن پالیسی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ 67ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد پاکستان کو دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہوئے اس پر جس ثقافتی یلغار کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ عین اسی منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی تصدیق جو بھی چاہے کر دیکھے ڈائٹے وہیں ملیں گے۔

☆.....☆.....☆
 کہا اقبال نے شیخ حرم سے
 تہہ محراب مسجد سو گیا کون؟
 ندا مسجد کی دیواروں سے آئی
 فرشتی بتلےت میں کھو گیا کون؟

کرپشن کے متلاشیو! اک نظر ادھر بھی!!

فوجی حکومت کے ایجنڈے میں اہم نکتہ ملک کو ہر طرح کی کرپشن سے پاک کرنا ہے۔ عوام اس نکتے کو نعمت سمجھتے ہیں اور ہر دور میں یاس و حسرت کے ساتھ نکتے کو پھیل کر اس کا بڑھتا پھلتا مینار بنتا بھی دیکھنے کے عادی ہیں۔

ہر دور کے حکمران نے کرپشن کو پٹواری، کلرک یا کانسٹیبل میں تلاش کیا اور بڑا تیر مارا تو گرد اور تھانیدار کو پکڑ کر کرپشن کی ”ماں ماردی“ مگر جن کے لئے یہ چارہ بنے ان پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکا حتیٰ کہ وہ ریٹائر ہوئے اور پھر مجرم گردانے گئے۔ سرکاری دفاتر سے ہٹ کر کسی کو کرپشن پکڑنے کا یا اس کرپشن کی شدت جاننے کے لئے اس کے اندر جھانکنے کا نہ کل موقع ملا اور نہ ہی آج فرصت ہے اور یہ اشتہاری مافیا کی کرپشن ہے جس کے مقابلے میں ہر قسم کی کرپشن ہیچ ہے۔

ملک کے طول و عرض میں چھپنے والے اخبارات میں شائع ہونے والے شادی کے اشتہارات ہوں یا بے روزگاروں کو روزگار دینے والوں کے یا شادی کے خواہشمندوں کے علاج معالجہ کرنے والوں کے دلکشن انداز کے اشتہارات یہ کرپشن کا سائنٹیفک طریقہ ہے کہ لوٹنے والے کے مزے کیوں کہ لٹنے والا نہ آری مانیٹرنگ سیل کو شکایت کرتا ہے نہ اینٹی کرپشن کے چھاپے کا خوف ہے۔

ہم یہاں نوائے وقت 5 اکتوبر کے شکر یہ کے ساتھ بطور نمونہ ایک ہی شمارے سے مختلف نوع کے چند اشتہارات آپ کے سامنے رکھتے ہیں:

ضرورت شاف: تمام علاقوں سے بے روزگار حضرات، تعلیم و تجربہ

ضروری نہیں، معقول تنخواہ، ریٹائرڈ حضرات بھی درخواستیں دے سکتے ہیں، جوابی لفاظی..... نایاب ٹریڈنگ کمپنی سید پلازہ 30 فیروز پور روز لاہور۔

ضرورت رشتہ: میں خود مختار 26 سالہ اور میری چھوٹی بہن 18 سالہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں، رشتے چاہئیں۔ امیدوار کنوارے، رٹوئے دوسری شادی والے، بالمشافہ ملاقات کیلئے لکھیں۔ مالی سپورٹ بھی کی جائے گی۔ (ایجنٹ حضرات سے معذرت) رابطہ پوسٹ بکس 89 سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ (ایجنٹ سے معذرت) صرف لوگوں میں اعتماد جمانے کے لئے کہ ہم پیشہ دار نہیں ہیں)

پریشان کیوں؟ ناامیدی کفر ہے۔ اڑھائی لاکھ نقد اس عامل کو دیئے جائیں گے جو میرے کئے ہوئے عمل پر عمل کر سکے، جو عالموں، نجومیوں، پروفیسروں، عملیات پر یقین نہیں رکھتے، 24 گھنٹے میں تمنا پوری۔ آغا سعید شاہ سیالکوٹی گیٹ ریلوے پھانک۔

اسی طرح جنسی بیماریوں اور حسین بنانے والی دواؤں اور کریموں کے اشتہارات ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا اشتہارات کو ایک بار پھر پڑھئے۔ لمحہ بھر ان کے مضامین پر غور فرمائیے اور ہر مشہر کے ”ضرورت مند“ کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کیجئے، مثلاً آپ ان پڑھنا تجربہ کار ہیں اور کوئی محسن آپ کو بلا کر روزگار دے رہا ہے، آپ رٹوئے ہیں، کنوارے ہیں، دوسری شادی کے خواہشمند ہیں اور گرین کارڈ ہولڈر 26 سالہ، 18 سالہ مادر پدر آزاد دو شیزائیں نہ صرف یہ کہ آپ کو شادی کی دعوت دے رہی ہیں بلکہ مالی مدد بھی کر رہی ہیں، آپ کی ہر پریشانی 24 گھنٹے میں دور کرنے والے محسن غلط ثابت ہونے پر اڑھائی لاکھ زر تاوان دینے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور مردانہ علاج کی گارنٹی والے بھی مکمل علاج کی ضمانت کے

ساتھ آپ کے محسنوں کی صف میں شامل ہونے کے لئے بے قرار ہیں، صرف دروازہ تک کوئی پہنچے تو سہی۔

عوام الناس کے خیر خواہ حساس ادارے، آرمی مانیٹرنگ سیل اور دیگر کرپشن روک ٹھکے جات جگہ جگہ کرپشن کی بوسونگھتے پھرتے ہیں، مگر انہیں اس معاشرتی غلامت کی بند تک نہیں آتی۔ ان کی ناک تلے ایک دو نہیں سینکڑوں روزانہ اس کرپشن کی بھیٹ چڑھے ہیں مگر آج تک کسی شخص نے کسی اخبار میں یہ خبر نہیں پڑھی کہ گرین کارڈ کے نام پر لوٹے والے اتنے شادی دفاتر والے پکڑے گئے، دفاتر سیل ہوئے اور لٹنے والوں کو رقوم واپس کی گئیں، روزگار دلانے والے ٹھگوں کے دفتر پر آرمی مانیٹرنگ ٹیم کا چھاپہ ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا، مردانہ علاج کے مبینہ ماہرین عطائیوں کے کلینک سیل کر کے ان سے ڈگریاں مانگ لی گئیں یا اڑھائی لاکھ رکھنے والے عامل سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اس محفوظ سرمائے پر انکم ٹیکس ادا کیا یا نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرپشن مافیا کا محاسبہ کر کے عوام کو ان کے شر سے بچائے۔

☆.....☆.....☆

2 مارچ 2001ء

13 شمس روڈ، ملتان

مکرمی و محترمی عبدالرشید ارشد صاحب!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

سب سے پہلے تو جواب دیر سے دینے پر معذرت۔ تحقیقی مقالے کی مصروفیات سے ابھی رہی۔ آپ کا خط ملا تو بہت حوصلہ اور ہمت افزائی ہوئی۔ مجھے آپ کی چند کتابیں برے خالو جان محترم جو میرے والد کا درجہ رکھتے ہیں، حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب نے لکھیں، جو میرے تحقیقی مقالے میں بنیاد بنیں۔ میرا اصل موضوع ہے ”صحافت صیہونیت کی گرفت میں“ (Global Media In The Grip Of Zionism)

آپ نے جو آرٹیکل بھیجا تھا وہ بھی بہت بروقت اور فائدہ مند ثابت ہوا۔

اس وقت آپ سے گزارش کرنا تھی کہ اپنے تحقیقی مقالے (Thisis) سے تعلق ایک سوالنامہ ارسال کر رہی ہوں، اس پر اگر فی الفور کم از کم تین اپریل تک جواب ارسال کر دیں تو ممنون ہوں گی۔

آپ کی کتب پڑھیں تو دل و دماغ کی بندگیاں کھلتی چلی گئیں اور میں ایک نئے مقام پر آکھڑی ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں اس مقالے کے بعد میرا اصل کام شروع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔

آپ کے تعاون کی بے حد مشکور اور بہت دعا گو۔

حنہ فاطمہ (ملتان)

س ۱۵۱ ☆ صیہونیت کی گرفت سے عالمی صحافت پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں؟

جواب ☆ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ صحافت ہے کس لئے؟ صحافت عوام الناس کو گرد و پیش حالات و واقعات سے باخبر رکھنے کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی کے تعمیری افکار کی ترویج اور شر کے تخریبی افکار سے آگاہ کرنے کا نام ہے۔ تعمیر و تخریب کی تعریف اور حدود کا تعین ملک کے قوم کے بنیادی عقیدے اور نظریہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلاً روسی یا یورپی اقوام کے ہاں تعمیر و تخریب کا جو انداز و معیار ہے وہ سعودیہ پاکستان وغیرہ میں نہیں ہے۔

عالمی سطح پر صحافت سے مطلوب ذمہ داری یہ ہے کہ گلوبل ویج کے مکینوں کو کسی ”مخصوص چشمے“ کے بغیر حالات و واقعات کی تصویر دکھائے اور عالمی سطح پر اقوام و ملل کو خیر سے قریب تر لانے اور شر سے دور رکھ کر عالمی بھائی چارے کے فروغ کے لئے مثبت کردار ادا کرے تاکہ دنیا سکھ اور سکون کے ساتھ خوشحال با مقصد زندگی گزار سکے۔

مذکورہ گذارشات کے پس منظر میں جب ہم آج کی عالمی صحافت کا جائزہ لیتے ہیں تو صورت حال برعکس نظر آتی ہے۔ صحافت خیر کی قوتوں کو سامنے لانے کے بجائے شر کی ہمنوا و پشتیبان بنی ہوئی ہے اور یہ اس لئے کہ عالمی سطح پر پریس کو کنٹرول کرنے کے لئے صیہونی زعمانے صدیوں پہلے منصوبہ بندی کی اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے منصوبہ پر عمل کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عالمی اقتدار پر قابض ہونے کے لئے سونے اور صحافت کی قوت ہماری بنیادی ضرورت ہے۔

صیہونی لابی نے سونے کی قوت سے پہلے صحافت پر قبضہ جمایا اور اب اس قوت سے وہ اپنی منزل قریب لارہے ہیں بلکہ لاپچکے ہیں کہ پہلی بات قصہ پارینہ ہے۔ ”ٹائم“ ہو ”نیوز ویک“ ہو ”لندن ٹائمز“ ہو یا ”واشنگٹن پوسٹ“ یا آزاد صحافت کا کوئی دوسرا چیمپین، محض دعوے ہیں اور ”پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر ان کی رضا کے“۔ ”ان“ سے مراد صیہونیت کے خادم ہیں۔ مثلاً:

”حکومتوں کے ہاتھوں میں آج رائے عامہ بنانے اور عوام کے ذہنوں کو ایک جہت دینے کے لئے پریس کی زبردست قوت موجود ہے۔ پریس کا کردار یہ ہے کہ وہ ہماری ناگزیر ترجیحات کو موثر انداز میں پھیلائے، عوامی شکایات کو اجاگر کرے اور عامۃ الناس میں بے اطمینانی پیدا کرے۔ پریس ہی کے ذریعے آزادی اظہار ایک قوت کے طور پر ابھرتی ہے۔ غیر یہود حکومتیں ابھی اس ہتھیار کے موثر استعمال سے مکمل واقفیت نہیں رکھتیں اور یوں پریس ہمارا مطیع فرمان ہے۔ یہ پریس ہی ہے جس کے سبب ہم نے خود پس پشت رہتے ہوئے طاقت حاصل کی ہے۔ پریس ہمارے لئے کھرا سونا ہے.....“

(Protocols, 2:5)

آج عالمی سطح پر صحافت شرکی قوتوں کی ترجمان ہے۔ دنیا کے کسی ملک کی حکومت اور اس کے باشعور عوام یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ان کی حکومت کی بنیادی آڈیولوجی اور سماج و معاشرہ کی اقدار سے ہم آہنگ ہے اور یہ اس لئے ہے کہ میڈیا کے سرپرشر کے شہنشاہ صیہونی سوار ہیں۔ سبکوں کی لگام میڈیا کے کارکن کا منہ ہے تو دوسرا سرا صیہونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ملاحظہ کیجئے منہ بولتی حقیقت:

”امریکہ میں انڈیپنڈنٹ میڈیا (صحافت) نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ شائع نہیں ہوگی۔ مجھے ہر ہفتے 15 ڈالر اس لئے ملتے ہیں کہ میں اپنے اخبار میں اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار نہ کروں۔ آپ سب کا یہی حال ہے۔ اگر میں اپنے پرچے میں اس کی اجازت دے دوں تو 24 گھنٹوں سے پہلے میری ملازمت ختم ہو جائے۔ ایسا بے وقوف آدمی بہت جلد سزا کوں پر دوسرا نام تلاش

کرنا نظر آئے گا۔ نیویارک کے جرنلسٹ کا فرض ہے کہ جھوٹ بولے خبروں کو مسخ کرنے بدزبانی کرنے قارونوں کی چاپلوسی کرے اور اپنی قوم کو ملک کو روٹی کی خاطر بیچ دے اور غلام بن کر رہے۔ ہم پس منظر میں رہنے والے امراء کے غلام ہیں، کٹھ پتلیاں ہیں کہ وہ تار کھینچتے ہیں، ہم ناچتے ہیں، ہمارا وقت، ہمارا ہنر، ہماری زندگی اور ہماری اہلیت ان لوگوں کی پر اپرٹی ہے اور ہم ذہنی طوائفیں ہیں۔“ (ایڈیٹر جان سونسن کا امریکی اخبار نویسوں کی مجلس میں اظہار خیال بحوالہ ”سونے کے مالک“ از ڈاکٹر کرمل محمد ایوب)

س ۲۵ ☆ صیہونیت کی گرفت سے عالمی معاشرے اور عالمی معیشت کس مقام پر پہنچ چکی ہے؟

جواب ☆ معاشرہ افراد سے جنم لیتا ہے سماج و معاشرہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے اور افراد اقدار سے بنتے ہیں جبکہ اقدار جنم لیتی ہیں عقیدہ و مذہب سے۔ لہذا اگر مذہب کی بنیاد پر افراد کی کردار سازی ہو تو نکھرا معاشرہ وجود میں آئے گا اور خواخو استہ مذہب کو پس پشت ڈال دیا جائے تو اقدار بے زار معاشرہ وجود میں آئے گا۔ صیہونیت اپنے مذہب اور عقائد کے علاوہ ہر مذہب و عقیدہ کی دشمن ہے، صیہونیت نے کیمونزم کو جنم دیا، صیہونیت نے عیسائیت کو عقائد سے نوازا، صیہونیت نے عبداللہ بن سبا یہودی کے ذریعے اسماعیلیوں اور بعض دوسرے فرقوں کو عقائد ”عطا“ فرمائے۔ یہ سب تاریخی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ان کا طے شدہ منصوبہ ہے کہ ہم غیر یہود میں تصور خدا کو ختم کر دیں گے۔ تصور خدا ختم تو اقدار ختم اور اقدار ختم تو معاشرہ ختم۔

”طویل عرصہ سے ہم نے یہ محنت کی ہے کہ غیر یہود میں پاپائیت/مولویت کو بے وقار بنا دیں اور سینہ دھرتی پر ان کے مشن کو تباہ و برباد کر دیں جو ہمارے راستے کے سنگِ گراں سے کم نہیں

اہیں۔ دن بدن پاپائیت/مولویت کی قدر و قیمت کم ہو رہی ہے۔ ہم نے عوام کو آزادی ضمیر کے نعرے کی طرف دھکیل کر پاپائیت/مولویت کو برباد کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ رہا مسئلہ دوسرے ادیان کا تو ہمیں مقابلتاً کم مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ ہم پاپائیت/مولویت کو بندگلی تک محدود کر دیں گے کہ ماضی کے مقابلے میں یہ رجعت کی طرف مائل بہ سفر ہوں گے۔“

”جونہی پاپائیت/مولویت کو ختم کرنے برباد کرنے کا طے شدہ لمحہ آ جائے گا ایک نادیدہ ہاتھ ہر قوم کی طرف بڑھ کر اسے ہمارے قدموں میں دھکیل دے گا.....“ (Protocols, 17:2,3)

مذکورہ اقتباسات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جاسکتا ہے کہ ترکی میں اتاترک کے ذریعے ’مولویت‘ کو دفن کیا، مصر میں جمال عبدالناصر کے ذریعے مولویت کی حقیقی روح الاخوان کو نکلا گیا، برطانیہ میں ”ہم جنس پرستی“ کو قانونی شکل ملکہ کے ہاتھوں دلوائی گئی اور اب عالمی سطح پر بیجنگ پلس فائیو کے پلیٹ فارم سے UNO کی چھتری تلے ہر ملک کی فاحشہ بیواؤں کو جنسی کارکن تسلیم کئے جانے عورت کو اپنے جسم پر مکمل ’حق‘ دلوانے اور اپنے خاوند کے ”جنسی تشدد“ پر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے حق لینے پر کوشش جاری ہے۔ کسی سماج و معاشرہ کے بناؤ بگاڑ میں یہی عوامل بنیادی طور پر کارفرما ہوتے ہیں۔ صیہونیت کی عالمی سطح پر مضبوط گرفت UNO کے ذریعے انہی عوامل کو برباد کروا رہی ہے اور کم و بیش ہر ملک میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا انہی کی لے میں اپنی سُریریں ملا کر ان کے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے۔ اخبارات کے رنگین ایڈیشن اور فحاشی بلاوجہ نہیں ہے بلکہ جنسی ادویات کے اشتہارات کی ہر ایڈیشن میں بھرمار بھی اس کا حصہ ہے۔

اب رہا سوال کا دوسرا جزو کہ آج معیشت کہاں ہے۔ معیشت کا

استحکام بھی اقدار کے ساتھ منسلک ہوتا ہے کہ کافر کی معیشت اس کی اقدار سے مبرا چالاکی اور عیاری پر منحصر ہے تو مسلمان کی معیشت اس کے ایمان و عقیدے سے متعلقہ اقدار پر انحصار کرتی ہے۔ مسلمان اپنے خالق کی ہدایت کا پابند ہے تو کافر صرف اپنی خواہشات و ضروریات کا پابند ہے۔ معیشت کا انحصار کاملاً دین کی تجارت پر ہے اور مسلمان کے رب نے اس سے معیشت کو سود سے پاک رکھنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ غیر مسلم کی تمام تر معیشت سود کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی کامیابی کا راز سود ہے تو مسلمان کی بربادی سود میں پنہاں ہے، ملاحظہ فرمائیے:

”..... جب سے ہم نے اپنے زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے غیر ملکی خارجی قرضوں کی چاٹ لگائی ہے تو غیر یہود کے تمام تر سرمایہ نے ہماری تجوریوں کی راہ دیکھ لی ہے۔ یوں کہیں کہ خارجی قرضوں پر یہ سود غیر یہود کا خراج ہے جو وہ ہمیں باقاعدگی سے ادا کرنے پر مجبور ہیں۔“ (Protocols, 20:32)

”غیر یہود حکمرانوں کے بناوٹی معیار و معاملات اور ٹائٹل بے تدبیر وزیروں اور احساس و شعور سے عاری افسر شاہی اور ان سب کا اقتصادیات کی ایجاد سے نا آشنا ہونا یہ سب پہلو مل کر ان ممالک کو ہمارا مقروض بناتے ہیں اور جب ایک بار سودی جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کے لئے اس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔“ (Protocols, 20:33)

صیہونیت کے زیر اثر عالمی سطح پر معیشت کی ابتری ہر کسی کے سامنے ان کے بنائے UNO کے ذیلی ادارے IMF, World Bank اور WTO جس طرح آکٹوپس کی طرح معیشت پر پنچے گاڑھ چکے ہیں اس پر ہر ملک کی حکومت اور عوام پریشان ہیں اور بلاشبہ IMF اور World Bank

لندن اور پیرس کلب کے چنگل سے نکلنا ہر کسی کے لئے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی معیشت ہو یا ان کا صدارتی انتخاب سونے کے انہی مالکوں کی نظر کرم کا محتاج ہے۔ جرمنی اور جاپان آج بھی انہیں کے ستائے ہوئے ہیں حقیقی ”ویٹو“ پنجہ یہود میں ہے اور اس پر اپنے پرائے کبھی گواہ ہیں۔

☆۳ صیہونیت کی گرفت سے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خصوصاً اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ کو آپ کس مقام پر دیکھتے ہیں؟

☆۴ صیہونی گرفت سے ملت مسلمہ پر مرتب اثرات کو مختصراً یوں بیان کیا جاسکتا ہے: (الف) دینی، سماجی و معاشرتی، تعلیمی، معاشی، سیاسی، غرض ہر طرح کی اقدار میں شدید انحطاط۔

(ب) نظام تعلیم مقصدیت سے بعید اور پھر بعید تر۔

(ج) مسائل صحت میں بتدریج اضافہ۔

(د) معیشت بتابی کے دہانہ پر زراعت و تجارت و صنعت بحرانوں کا شکار۔

یہ اثرات ہیں جنہیں مسلم امہ کا ہر باشعور فرد عملاً محسوس کرتا ہے اور حساس دل خون کے آنسو روتے ہیں مثلاً صرف حرمین کے زیر سایہ سعودیہ کی مثال لیجئے: 1975ء سے پہلے شاہ فیصل کے دور میں ہر طرح کی اقدار کا سرمایہ بھی ڈھیلا ہو گیا اور جو برائی فیصل شہید کے دور میں زیر زمین تھی وہ سطح کے بالکل قریب آگئی تھی اور جونہی ان کے دوسرے بھائی فہد تشریف لائے ڈھیل والی رسی ہی ٹوٹ گئی اور اقدار کا سرمایہ بکھر گیا، صرف عقیدت رہ گئی، حرمین کی توسیع اور مصاحف کی کروڑوں میں تقسیم یقیناً ہوئی، انتہائی مستحسن کام ہوا مگر جس فرد اور جن افراد کے مجموعے کے لئے تھا، انہیں بنگاک کا سفر درپیش رہا یا بلیو فلموں سے فرصت نہ ملی، ماسوائے ان کے جنہیں احیائے اسلام کے لئے در بدر ہونا پڑا، اسامہ بن لادن جن میں سے ایک ہے۔ ملک میں خاموشی کی مجبوری کا راج ہے۔

ایران و عراق کو الجھا کر دو برادر اسلامی ملکوں میں عربی اور عجمی کا

تعصب پھیلایا۔ عربوں کو عراق کی مدد پر اکسا کر ان کے دیئے وسائل عراق سے خرید اسلحہ کی آڑ میں یہود کی تجوریوں میں پہنچے۔ عرب معیشت برباد ہوئی تو یہود کی معیشت آباد ہوئی۔ مسلمان دنیا میں کسی جگہ بھی خالق کے دین سے ہر آہنگ نظام تعلیم کا وجود نہیں۔ جدیدیت کی دوڑ میں ہر کوئی سبقت لے جانے کے شوق میں دم کٹوا چکا ہے۔ نیچے ملت اسلامیہ میں خالص مسلم معلمین، مسلمان سائنسدان، مسلم انجینئرز، مسلم سیاستدان اور مسلم تاجر و صنعتکار انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ ہمہ جہت انحطاط ہر کسی کے سامنے ہے۔

اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ متعین طور پر صیہونیت کے مقاصد کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور محض اشک شوئی یا اسلام پسند طبقے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے نقطہ نظر سے 24 گھنٹوں میں سے چند گھنٹے اور وہ بھی بالعموم ایسے اوقات میں (الیکٹرانک میڈیا پر) جب لوگ معروف ہوتے ہیں یا سوچے جاتے ہیں، اسلام کے حوالے سے پروگرام پیش کئے جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کا حال یہ ہے کہ اخبار رسالہ گھر بچوں میں لے جاتے شرم آتی ہے کہ ہر کوئی ”اشاعت بڑھانے“ کے نام پر فحاشی پھیلانے کے نئے طریقوں سے صیہونیوں کی خدمت کر رہا ہے اور آٹے میں نمک اگر اس دوڑ میں شریک نہیں تو اس کے لئے زندہ رہنا مشکل ہے۔ اخبار و رسائل اور ہفتہ وار ایڈیشن جس طرح فیشن کو ہوا دیتے ہیں ریڈیو ٹی وی پر ماڈلز جس طرح اشیاء فروخت کرتے ہیں معاشرے میں احساس کتری پیدا ہوتا ہے کہ 90 فیصد خرید کی استطاعت نہیں رکھتے، 10 فیصد اسراف و فضول خرچی کا شکار ہوتے ہیں۔

س ۴۳ ☆ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صیہونیت ایک وقت میں خود اپنی سازشوں کا شکار ہو جائے؟
جواب ☆ 829 ق م سے آج تک ”یہود کے بڑے“ جس طرح حکمت و تدبیر کے ساتھ زمانے کے بدلتے تقاضوں سے مطابقت پیدا کر کے اپنی منصوبہ بندی کو آگے بڑھاتے آئے ہیں اور ہر جگہ فول پروف انتظام کیا گیا ہے اسے دیکھ کر تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا اپنی ہی سازشوں کے جال میں پھنسا مشکل ہے۔

جبکہ مسیحیت اور کیمونزم پہلے ہی مکمل طور پر ”فتح“ کئے جا چکے ہیں۔
 صیہونیت کا حقیقی توڑ صرف مسلمان کے پاس تھا کہ اس کی جھولی
 میں اس کے خالق و مالک رب کی محکم کتاب ہدایت، حکیم و دانا سرورِ دو عالم کی
 حیاتِ طیبہ سے راہنمائی کا مکمل و مدلل ریکارڈ اور انفرادی راہنمائی کے لئے
 مومنانہ بصیرت کا خصوصی عطیہ تھا مگر آج ہمیں دیکھنے کو جو کچھ مل رہا ہے وہ یہ
 ”اطمینان“ ہے کہ ”بصیرت کھو گئی لیکن بصارت تو سلامت ہے“ اور یوں
 پورے اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ ”بصیرت نام تھا جس کا گئی مسلمان کے گھر
 سے“ اس کی عمدہ مثالیں ہمارے حکمران فراہم کر رہے ہیں اور رہے عوام تو یہ
 کون نہیں جانتا کہ ”الناس علی دین ملوکہم“ یہی ہمارے سامنے ہے۔

اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تو وہ قادرِ مطلق ہے مگر

”قدرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے

کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف“

☆۵ عالمی غلبے کے منصوبے میں ان کے عزائم کی کس حد تک تکمیل ہو چکی ہے؟

☆۶ اب اگر مدہانت یا کسی خوف سے بے نیاز ہو کر اس سوال کا جواب ایک جملے میں

دینے کو کہا جائے تو اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ صیہونیت عالمی غلبے میں 90 فیصد

کامیاب ہے اور 10 فیصد کی یہ کمی بھی محض اس بنیاد پر ہے کہ بعض حکومتوں کی

انتظامیہ میں ان کے مہرے ان کے زر خرید ایجنٹ، غیر یہود ہیں، مثلاً مسلمان

ممالک میں مسلمان، یورپی ممالک میں نصرانی اور علیٰ حذا القیاس۔

گلوبل ویج کا کونسا ملک ہے جو UNO کی سلامتی کونسل اور اس

کے دیگر ذیلی اداروں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، آئی ایل او، ایف اے او ڈبلیو

ٹی او یونی سیف وغیرہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ کون حکمران ہے جسے ان کی اشیر باد

حاصل نہیں؟ صرف دو تین مثلاً افغانستان اور چینیا۔ وہ بھی سلت نبوی میں

شدید ترین بحرانوں کی زد میں ہیں اور صیہونی خوف سے لرزاں و ترساں کسی

مسلمان حاکم کو ان کے حق میں کلمہ خیر کہنے کی توفیق نہیں ہے۔ کسی سے پاس

کوئی مثال ہو ثبوت ہو تو سامنے لائے ہاتھ چوم لیں گے۔

غلبہ میں دو چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، معیشت کا استحکام اور ذرائع ابلاغ پر مکمل کنٹرول۔ یہ دونوں بالیقین صیہونی قبضہ میں ہیں۔ اپنے ہی ملک کو بطور ثبوت دیکھ لیجئے کہ معیشت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پارٹنر گروی ہے۔ ”پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر ان کی رضا کے“۔ ذرائع ابلاغ اسلام دشمنی میں ہر نئے سورج کے طلوع کے ساتھ نئے عزم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

س ۶۱ ☆ پاکستان کے اندر صیہونیت کے اثرات کیا ہیں؟ پاکستانی ذرائع ابلاغ کو اس اعتبار سے آپ کس مقام پر دیکھتے ہیں؟

جواب ☆ اگرچہ اس سوال کا جواب گذشتہ سوالات کا جواب لکھنے میں آ گیا ہے اور بظاہر وہی کافی ہے مگر اہمیت کے نقطہ نظر سے اس پر بات کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان خالصتاً اسلامی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ملک ہے۔ اسی نظریے نے سب اس کا اپنا تشخص ہے۔ اس کے آئین میں پہلا جملہ مملکت میں قرآن و سنت کی بالادستی و تسلیم کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناحؒ بانی پاکستان نے اس کے اسلامی تشخص پر دو نوب الفاظ میں وضاحت فرمائی۔ آج ہم 53 سال کا طویل سفر کے جہاں کھڑے ہیں وہاں سے پیچھے نظر دوڑا میں تو ماسوائے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کیے جانے کے ہمیں اپنی عملی ملی زندگی میں قرآن و سنت کی ادنیٰ سی بالادستی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نہ تعلیم میں نہ سیاست میں نہ ہی اقتصاد میں اور تم بالائے تم استحکام وطن کی بنیادی ضرورت نظام عدل میں بھی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ محراب و منبر بھی اس بالادستی کی روح سے خالی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں کرتا کہ صیہونیت کے بد اثرات اس قوم کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔

ذرائع ابلاغ کا کام قوم کو اس کے حقیقی ورثہ اسلامی اقدار سے جوڑنا

تھا مگر ذرائع ابلاغ نے بڑی محنت و کوشش سے اسے توڑا، کچھ بھلے لوگوں نے رخ پھرنے کے لئے سعی و جہد کی مگر جگہ تیز ہو تو معمولی سہارے دم توڑ دیتے ہیں یا بے بسی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ آج ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ہماری حالت بھی کم و بیش یہی ہے۔

صیہونیت کی ناجائز اولاد NGO مانیا آج چہار سو موٹر ہے۔ حکومت ان کے پاس گروی ہے کہ NGOs کے مالک مضبوط ہیں۔ کسی کو ان کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ جب سرکار کی ٹانگین خوف سے کانپنے لگیں تو سرکار کے کنٹرول میں ذرائع ابلاغ اور زیادہ سرگرمی سے دم ہلائیں گے۔ اس ہلتی دم پر کسی گواہی کی ضرورت نہیں کہ کم و بیش ہر گھر میں اس ہلتی دم کے ردھم پر ہماری نسل بھی ہلتی دیکھی جا رہی ہے۔ اپنے 'سویٹ ہوم' میں ہر کسی کو اس کی خبر ہے۔

ایک بات بہر حال حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان کا حساس اور باشعور دین کا درد اور وطن سے محبت رکھنے والا طبقہ صیہونیت کے مکروہ چہرہ اور مکروہ جال کو پوری طرح جان لینے کے بعد صف آراء ہو رہا ہے اور یقین سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بحسبیت اللہ تعالیٰ صیہونیت کے خلاف آخری اور فیصلہ کن جنگ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیور اور باہمت عوام ہی کا مقدر ٹھہرے گی اور اللہ رب العزت ان کی نصرت بھی فرمائیں گے۔ شاید ہم وہ جنگ نہ دیکھ سکیں اور یہ بات اس حقیقت کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ 67ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد عربوں کی بھرپور حمایت کے جرم میں اسرائیل کے وزیر اعظم بن گوریان پاکستان کو اپنا نمبر 1 دشمن قرار دے کر بھارت کی معاونت سے اس کی تباہی کے عزم کا اظہار کر چکا ہے۔

☆.....☆.....☆

زراعت..... قدم قدم بحران ناقص منصوبہ بندی کا شاخسانہ

زراعت کے حوالے سے اپنی شناخت رکھنے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان زرعی بحرانوں کے پے در پے تھپیڑوں کے سبب ٹڈھال ہے ہر نئی صبح نئے صدمات کے ساتھ طلوع ہوتی ہے اور دھرتی کے بیٹے صبح سے شام تک دھرتی کا سینہ کھودنے کے باوجود نان جویں کے محتاج دیکھے جاتے ہیں۔ اکثریت کے چہروں کی مسکراہٹیں غائب ہو کر مخصوص اقلیت کے چہروں پر سرخی کا سبب ضرور بنی ہیں اور بتدریج اکثریت کی یہ مسکراہٹیں ماند پڑتی جا رہی ہیں اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔

نصف صدی سے زائد عرصہ کا سفر طے کر کے دوسری جنگ عظیم کے تباہ شدہ جرمنی اور جاپان ہوں یا 48ء میں لگا اسرائیلی پودا ہوا اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہر کوئی کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے مگر ہر طرح کے وسائل سے مالا مال اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقدر میں کوئی نمایاں بہتری عملاً نہ دیکھی جاسکی۔ اعداد و شمار کے خوبصورت محل ہر حکومت نے حسب توفیق بنائے جنہیں ریڈیو ٹی وی اور اخبارات کے خصوصی مضامین کے ذریعے عوام تک نوید مسرت کے طور پر بڑی باقاعدگی سے پہچانے کا اہتمام ہر حکمران نے کیا مگر لمحہ لمحہ بحرانوں نے اس نوید مسرت کی قلعی کھولی ہے۔

ہر قسم کے وسائل اور بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد کی موجودگی میں اگر عملاً بحران قوم کا مقدر بنیں تو کیا گذرا شخص بھی یہ سوچے گا کہ یہ محض تقدیر کا لکھا نہیں ہے۔ یہ عدا کیا جا رہا ہے یا عدا کرایا جا رہا ہے۔ لامحالہ سوال سامنے آئے گا کہ زراعت کے شعبہ

میں نیچے سے اوپر تک تمام پاکستانی ہیں پھر کون دشمن ہے جو اس مسلسل بحرانی تاریخ کا ذمہ دار ہے۔ باہر کا دشمن کچھ بھی کر لے کسی فرد کا دشمن ہو یا کسی قوم و ملک کا نقصان محدود ہوتا ہے مگر دشمن اندر پیدا ہو جائے اور ضمیر باہر کے دشمن کے پاس گروی رکھ دے تو اس کے ہاتھوں پہنچنے والا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ یہ ضمیر فروش جعفر و صادق بھی ہو سکتے ہیں، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے والے مکتی باہنی کے جیالے بھی اور بعینہ اسی طرح زراعت و صنعت و معیشت کے میر جعفر بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حقیقی مسئلہ یہی ”میر“ ہیں۔

زراعت کے شعبہ کے بحران و مسائل کی عدم دستیابی کا شاخسانہ نہیں ہیں ان کی تہہ میں ناقص منصوبہ بندی کے کرشمے ہیں اور اس ناقص منصوبہ بندی کی تہہ میں علم و صلاحیت کا فقدان نہیں، ضمیر کا فقدان ہے کہ صاحب ضمیر کھڈے لائن لگے، تنخواہ انجوائے کرتے ہیں تو ضمیر گروی رکھنے والے تنخواہ کے علاوہ ”اور بہت کچھ“ انجوائے کرتے ہیں۔

ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے اپنی بات سمجھانے کی خاطر صرف پنجاب کو بطور مثال سامنے رکھتے ہیں۔ پنجاب کی زمین قیام پاکستان سے لے کر آج تک نہ ایک انچ بڑھی ہے اور نہ ہی کم ہوئی ہے۔ زمین کی ماہیت و کیفیت (Texture) بھی کم و بیش وہی چلا آ رہا ہے جو قیام پاکستان کے وقت تھا۔ (ناقص منصوبہ بندی سے بعض جگہ سیم تھور کا حملہ ضرور ہوا)۔ مختلف اضلاع کی مخصوص فصلیں بھی کم و بیش وہی ہیں، مثلاً چاول کے مخصوص علاقے ہوں یا کپاس کے ان میں خاص ردوبدل نہیں ہوا۔ گندم اور گنے کے رقبے بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، دالیں اور گوارا کن علاقوں میں بالعموم کاشت ہوتا ہے، زراعت سے دلچسپی رکھنے والا ہر صاحب بصیرت جانتا ہے ہر علاقے کی اپنی اپنی فصلیں نصف صدی سے کاشت ہو رہی ہیں۔

ملکی ضروریات اور کھپت کے حقیقی اندازے آج کے دور میں مشکل اور ناممکن نہیں رہے کہ یہ کمپیوٹر اتج ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پورے صوبے میں گنتی کے افسران زراعت تھے اور پراگریس آج کی نسبت قدرے بہتر تھی مگر اسی محدود دھرتی اور انہی

فصلت کے لئے ہر طلوع ہونے والے دن کے ساتھ افسران کی فوج ظفر موج نے زراعت میں ”منفی ظلام“ برپا کیا۔ ضلعی سطح پر ایک EADA جس قدر موثر ہوتا تھا وہاں آج ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور ماتحت چھ سات اسٹنٹ ڈائریکٹر اور ہر اسٹنٹ ڈائریکٹر کے ماتحت زراعت آفیسر پھر ہر زراعت آفیسر کے ماتحت فیلڈ اسٹنٹ اور بیلدار۔ مگر اس پٹالین کی موجودگی میں عملاً زراعت غائب، فیلڈ سے عملہ غائب۔ البتہ دفتری ریکارڈ اور رپورٹوں میں ”سب اچھا“ ضرور ہے۔

منصوبہ بندی کے جس فقدان کا ”الزام“ ہم نے ماہرین زراعت پر ”تھوپنے کی کوشش“ کی ہے، آئیے اس کا زمینی حقائق کی روشنی میں جائزہ لیں اور دیکھیں کہ واقعی یہ الزام ہے یا امور واقع میں سے ایک بدیہی حقیقت ہے مثلاً پہلے گنے اور گنے سے بننے والی چینی کے بحران اور پھر کپاس کے قصبے پر بات کرتے ہیں بعد ازاں متفرق فصلوں کا جائزہ لیں گے۔

ملک میں لگی شوگر ملوں کی تعداد اور ہر شوگر مل کی استعداد (Crushing) دو اور دو چار کی طرح معلوم ہے۔ یہ تعین بھی ناممکن نہیں ہے کہ مل کو بہر حال یکم اکتوبر سے 30 اپریل تک کم از کم چالو رکھنا ہے جس سے اتنے لاکھ ٹن چینی حاصل ہوگی۔ شوگر مل سے ملحقہ گردو پیش علاقے میں (Zone) فی ایکڑ اوسط پیداوار کے تخمینے برسوں کے تجربہ کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں اور گنے میں چینی کی اوسط مقدار بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ زمیندار ایک ایکڑ گنا کاشت کرنے پر کس قدر خرچ کرتا ہے یہ بھی کوئی تجارتی یا زرعی راز کی بات نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ معلوم ہے تو کسی بھی شوگر مل کے لئے اپنی زون میں مطلوبہ گنا پیدا کروانا کیوں مشکل ہے؟ اور محکمہ زراعت، شوگر مل انتظامیہ کسان کے ساتھ مل کر اس کا انتظام کیوں نہیں کرتی؟

مثلاً شوگر مل کی روزانہ کراشنگ 500 ٹن گنا ہے، اکتوبر تا اپریل 212 یوم مل چلے گی، گویا مل کی گنے کی مطلوبہ مقدار ایک لاکھ چھ ہزار ٹن ہے اور اگر کسان کی فی ایکڑ پیداوار دس میٹرک ٹن ہو تو 10600 ایکڑ گنا زون میں مطلوب ہے۔ کسان چونکہ کچھ گنا

یشیوں کے چارے کے لئے بھی استعمال کرتا ہے کچھ موسمی اثرات کے سبب کم پیداوار
 دے سکتی ہے لہذا اس مطلوبہ ہدف میں اسے زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کی خاطر 25 فیصد
 اضافہ کر کے 13250 ایکڑ رقبہ پر کاشت کو موثر بنائیں۔

کسان کو معاوضہ معقول اور بروقت ملے تو وہ ہر تعاون کے لئے تیار ہے۔ مگر
 واقعہ یہ ہے کہ مل مالکان زون کے کاشتکاران کو کم معاوضہ دیتے ہیں اور زون سے باہر
 کم و بیش دگنی قیمت پر گنا خریدتے ہیں۔ دوسرا ستم یہ ڈھایا جاتا ہے کہ زون سے باہر بلا
 مٹ گنا آتا ہے اور زون کے اندر گنا آخر وقت تک ”محفوظ“ رکھنے کے لئے کسان کو
 مٹ کے لئے ذلیل کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کسان نے گنے کی کاشت سے ہاتھ
 کھینچ لیا، گنا نہ ہوا تو چینی کہاں سے آئے گی۔ گنے کی کاشت میں منصوبہ بندی کا فقدان
 پر دور میں بحرانوں کو جنم دینے کا سبب بنتا رہا ہے حالانکہ ملکی سطح پر اس کی منصوبہ بندی
 مشکل نہیں ہے۔

کپاس بھی گنے کی طرح منصوبہ سازوں کی زد میں رہی۔ ملک کی ٹیکسٹائل کی ہر
 سطح کی صنعت کے اعداد و شمار حاصل کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ
 ہمارے دھاگا بنانے کے کتنے یونٹ ہیں اور ہر ایک کی سالانہ ضرورت کتنی ہے۔ اس
 ضرورت میں کوئی اونچ نیچ اگر ممکن ہے تو یونٹ بند ہونے کے سبب ہی ہو سکتی ہے ورنہ یہ
 بحر رواں کی طرح ضرورت کی ایک ہی سطح پر قائم ہے۔ کسی نئے یونٹ کا اضافہ مانگ میں
 اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ملکی مانگ اور کھپت کے ساتھ برآمد کی جانے والی روئی کا
 ہدف ہے۔ دونوں کو ملا کر اس میں کچھ فیصد اضافہ کر کے ضرورت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

کپاس کی فی ایکڑ اوسط پیداوار جان لینا مشکل کام نہیں ہے یوں باآسانی
 کپاس کے رقبہ کا تعین کر کے بقیہ رقبہ کو دوسری ضرورت کی فصلوں کے لئے مختص کیا جاسکتا
 ہے۔ جب پیداوار ضرورت کے عین مطابق ہوگی تو کارخانہ دار ہو یا کسان قیمت کی کمی
 بیشی کے عدم استحکام کی شکایت نہ کرے گا اور برآمدات کا ہدف بھی متاثر نہ ہوگا۔

گنے اور کپاس کی اچھی ورائٹی کاشت کر کے اگر فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی تو جو رقبہ ان کی کاشت سے بچے گا اس پر دوسری فصلوں کی کاشت سے کسان کی معیشت میں بہتری پیدا ہو سکے گی۔ مگر یہ بھی امر واقع ہے کہ غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے مخصوص اہداف کی تکمیل کے لئے زراعت کے شعبہ میں ایسے کام اپنوں کی وساطت سے کروانے میں کامیاب رہتی ہیں جن کی تہہ تک ہم نے پہنچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ امریکہ ہو یا اسرائیل وہ پاکستان سے برآمدات کو کم کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش خیر خواہی کے غلاف میں لپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً کیڑے مار ادویات سپرے کپاس پر ہو یا گنے پر دور رس اثرات کا حامل ہے۔ ان کے ذریعے زمین بتدریج بانجھ ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی صحت کو دن بدن شدید خطرات کا سامنا ہے مگر زرعی ماہرین یہ ہیں کہ عوام تک بات پہچانے میں متامل ہیں۔

فصلوں کے لئے زیر کاشت رقبہ کی تشخیص اور قابل عمل منصوبہ بندی نہ ہونے کے سبب کبھی کوئی فصل کھیتوں میں پڑی برباد ہوتی ہے تو کبھی نایاب گوہر کی شکل اختیار کر جاتی ہے مثلاً بلوچستان میں پیاز اور پنجاب میں آلو یا دیگر سبزیاں۔ حالانکہ ملک میں کھیت کے تخمینے بھی میسر ہیں اور برآمدات کے لئے غیر ملکی منڈیوں میں مانگ کے امکانات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں کچھ فی صد کی بیشی کا مارجن رکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح باقی تمام فصلات کے حوالے سے بلکہ سبزیوں کی کاشت کے لئے بھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے۔

اگر یہ منصوبہ بندی ممکن نہیں ہے تو سوال کیا جاسکتا ہے کہ ماہرین زراعت کی فوج ظفر موج کس لئے ہے۔ ان سفید ہاتھیوں سے قوم کو نجات دلائی جائے کم از کم ملکی خزانے کا بوجھ تو کم ہوگا۔ یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ نیٹ ورک جس قدر چھوٹا ہوگا فعال ہوگا موثر ہوگا اور جوں جوں اسے پھیلاتے جائیں گے یہ ڈھیلا اور غیر موثر ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ زرعی افسران کا ملک کی آبادی بڑھنے

سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق اراضی اور اراضی پر کاشت سے ہے۔ نہ تو صوبوں کی اراضی بڑھی ہے اور نہ ہی کاشت کی ضروریات میں کوئی انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ اگر

میں وہی ہے گنا، گندم، کیاس اور چاول وغیرہ کی وہی پرانی کاشت ہے تو ہر ضلع میں نسران کی بھرمار کا کیا جواز ہے اور کسان کو عملاً ان سے آج تک کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔
 لک کو زیر بار رکھنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس پر عمل ہو رہا ہے۔

زرعی تحقیق کے لئے مخلص ماہرین اس ملک کی ضرورت ہیں ہر ضلع کی سطح پر ایک زرعی منصوبہ ساز افسر کی ضرورت ہے اور صرف ایک رابطہ زرعی افسر (Co-ordinating officer) کی ضرورت ہے جو تحقیق، منصوبہ بندی اور کسان کے ساتھ عملدرآمد کے لئے باہم رابطہ کا ذمہ دار ہو۔ ان کے علاوہ باقی سفید ہاتھی ہیں جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں پر پلتے ہیں جن کی ادائیگی مع سود قوم کی گردن پر ہے۔

زرعی ترقی کے نام پر کسان کو زرعی بینک یا دیگر اداروں سے قرض کی چاٹ لگا کر پوری قوم کو سود کی لعنت میں ملوث کر دیا گیا ہے اور کون نہیں جانتا کہ سود جس گھر میں جس کا رو بار اور جس ملک کی جڑوں میں بیٹھ جائے اس کا بیڑہ غرق کر کے چھوڑتا ہے۔ کسان بینک سے سود پر رقم حاصل کر کے بیج اور کھاد خریدنے کے بجائے اپنی عملی زندگی کے رسوم و رواج، شادی غمی میں صرف کر لیتا ہے کہ اس کی فصلیں اسے ان اخراجات کے لئے کچھ دینے سے قاصر ہیں۔ فصل سے یہ قرض ادا نہیں ہو پاتا تو وہ آگے بھاگتا ہے اور بینک کی جیب پیچھے اور جب پکڑا جائے تو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ زرعی ماہرین نے کبھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا۔ انہیں دفتر سے نکل کر فیلڈ میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ کسان کو بینک سے سود پر نقد رقم کے بجائے کھاد بیج یا ادویات دلوائی جائیں تاکہ عملاً اسی مقصد کے لئے یہ استعمال ہوں اور پیداوار میں اضافہ اس کی ذات اور اس کے ملک کے لئے نافع ہو۔ اس طریق سے کسان سود سے بھی بچ سکتا ہے اور اس کے لئے ان اشیاء کی قیمت کی واپسی بھی سہل ہوگی کہ عملاً استعمال سے پیداوار میں اضافے کے سبب اس کی معیشت مستحکم ہوگی۔

زرعی منصوبہ بندی میں ایک خامی یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ علاقوں کی

مناسبت سے وہاں فصلات کے لئے راہنمائی نہیں ہے مثلاً پہاڑی علاقوں میں بے شہ جنگلی زیتون کے درخت اُگے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زیتون ہو سکتا ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں پھل آور زیتون سے اس کو بدل دیا جاتا۔ اسی طرح وادی سون میں پھلدار پودوں کی طرف کبھی توجہ نہ دی گئی۔ لوگ اپنے طور پر حسب خواہش جو کچھ کاشت کرتے ہیں وہ یقیناً ملکی زرعی معیشت میں وہ کردار ادا نہیں کرتا جو ملکی سطح مربوط کردار سے مطلوب ہے۔

جذبہ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ خود کفالت کی منزل پانے کی خاطر زرعی منصوبہ بندی کو اہمیت دی جائے اور ملکی خزانے کا بوجھ کم کرنے کی خاطر الٹ پھرتی شدہ افسران سے نجات حاصل کر کے ضلعی اور ڈویژن کی سطح پر صرف تین تین زرعی ماہرین کو ذمہ داریاں سونپی جائیں کہ ملکی خزانہ اسی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ افسر کا بوجھ صرف تنخواہ ہی نہیں اس کا ٹی اے ڈی اے الاؤنسز اور گاڑی کا پٹرول و مرمت وغیرہ بھی ہے۔

زرعی معیشت کے اعداد و شمار بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بنائے جاتے ہیں۔ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ زراعت کے علاوہ ہر شعبہ میں یہی چلتا ہے کہ حکمران کو اعداد کی بھول بھلیوں میں الجھا کر چہار سو دودھ کی نہریں بہتی دکھائی جاتی ہیں اور جو نہیں آنکھ کھلتی ہے ہر طرف اندھیروں کا گھیراؤ مقدر ہوتا ہے۔

ٹالسٹائی کے الفاظ میں اپنی معیشت، خصوصاً زرعی معیشت کی تصویر ملاحظہ کیجئے اور ہماری مذکورہ گزارشات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں:

”میں ایک شخص کی پیٹھ پر بیٹھا اس کا گلا دبا رہا ہوں اور ساتھ ہی کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے میں تو تمہاری حالت بہتر بنانا چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ تمہاری پیٹھ سے اتروں گا نہیں۔“ (بحوالہ سونے کے مالک، صفحہ 34)

آپ ایک شخص کی جگہ ملکی زراعت کی پیٹھ پر سوار سے ملا کر عبارت پڑھیں تو بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔

مجوزہ تنظیمی ڈھانچہ اس سٹیج پر موثر ہو سکتا ہے:

1. زرعی تحقیقی ادارے اپنی تحقیق سے سیکرٹری زراعت کو آگاہ رکھیں گے اور عوام کی ضرورت کا تحقیقی حصہ اور راہنمائی شعبہ ابلاغیات کے ذریعے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات یا محکمہ لٹریچر کے سہارے عوام تک پہنچائی جائے گی۔

2. ڈائریکٹر جنرل (انتظام و انصرام) فیلڈ سٹاف کی تحصیل سطح کی کارکردگی اور منصوبہ بندی کے شعبہ سے باخبر رہے گا۔ منصوبہ بندی کے طے کردہ طریقہ کار کو اپنے عملہ کے ذریعے نافذ دیکھے گا۔

3. اسٹنٹ ڈائریکٹر ضلعی سطح پر اپنے ماتحت عملہ کے ذریعے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق عملدرآمد کا ذمہ دار ہوگا۔ ہر ماہ 20 دن فیلڈ میں اور 10 دن دفتر میں رہے گا۔ ناگزیر کاغذی کارروائی ہوگی۔

4. تحصیل سطح پر ایگریکلچرل آفیسر منصوبہ بندی کے تقاضے عملاً پورے کرے گا اور کارکردگی کے لئے جوابدہ ہوگا۔

5. ضلع سطح پر اسٹنٹ ڈائریکٹر منصوبہ بندی، اسٹنٹ ڈائریکٹر (منتظم) اور علاقہ کے چار منتخب باشعور کسان نمائندوں اور زرعی صنعت کے نمائندوں سے مل کر منصوبہ بندی کرے گا اور یہ منصوبہ ڈویژنل ڈائریکٹر کو ارسال کر دیا جائے، ڈویژنل ڈائریکٹر اپنے اپنے ڈویژن کے منصوبوں کو یکجا کر کے صوبائی سیکرٹری کو دیں گے جو حتمی منظوری کے بعد ڈائریکٹر جنرل (منتظم) کے ذریعے تحصیل سطح تک بھجوا کر ان پر عملدرآمد کو یقینی بنائے گا۔

مذکورہ انتظامی ڈھانچہ ہر لحاظ سے قابل عمل ہے اور بے تحاشا بھرتی نے قومی خزانے کی جو کمر توڑ رکھی ہے اس سے بوجھ بہت حد تک ہلکا ہو جائے گا۔

☆.....☆.....☆

اعداد و شمار کا جادو اور زمینی حقائق

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے سبھی اپنے ہیں مگر یہ اپنے دو واضح طبقوں میں تقسیم ہیں۔ ایک طبقہ اقلیت میں ہے تو دوسرا اکثریت میں ہے اور دنیا کے عمومی دستور سے ہٹ کر یہاں اقلیت اکثریت پر حاوی ہے، بعینہ اسرائیلی اقلیت کی طرح جو کہ کروڑ عربوں کی اکثریت پر بھاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جس اقلیت کا ہم آپ سے تعارف کروا رہے ہیں یہ سرکاری محکمہ جات اور غیر سرکاری ”رفاجی“ تنظیموں میں کام کرنے والے ”اپنے“ ہیں اور اکثریت اہل وطن کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہیں، جنہیں اقلیت کے دکھائے سبز باغ سے گذشتہ 53 سالوں سے ”فیضیاب“ ہورہے ہیں۔

ہر ملک کے عوام اپنا حال اور اپنی آئندہ نسل کا مستقبل خوشحال اور پر امن دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں اور یہی بنیادی ضرورت انہیں کوہلو کے بیل کی طرح صبح دوپہر اور شام بلکہ راتوں کو بھی محنت پر اکساتی ہے اور وہ پُر مشقت زندگی بڑے حوصلے سے گزارتے خوشحالی و امن کی زندگی کے خواب دیکھتے، اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ یہ عمل گروپ پیش ہم دیکھ رہے ہیں۔ خوشحالی کے سبز باغ جس آئینے میں قوم کے سامنے لائے جاتے ہیں وہ اعداد و شمار کا آئینہ ہے اور دن بدن اگرچہ آئینہ میں چمک بڑھتی جا رہی ہے۔ ”سبز باغ“ زیادہ واضح نظر آنے لگتا ہے مگر عملاً بات سراب سے آگے نہیں بڑھتی۔

کسی بھی شخص کو قائل کرنے کے لئے آج کے دور میں معقول ترین ذریعہ دو اعداد و شمار کا ہے یعنی حسابی نظام گول مول باتوں سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا اس لئے آج انفرادی سطح سے لے کر قومیں اور بین الاقوامی سطح پر انتہائی سائنٹیفک توجیح یہی اعداد و شمار ہیں جن کا جادو افراد و اقوام و مل کے سرچڑھ کر بولتا ہے، جس پر سبھی گواہ ہیں۔

انفرادی زندگی ہو یا قومی زندگی اس کی کامیابی کی ضمانت موثر منصوبہ بندی ہی دے سکتی ہے۔ اہل ٹپ زندگی الجھنوں اور پریشانیوں میں اضافہ کا سبب تو ثابت ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہے مگر کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اس لئے موثر منصوبہ بندی کے لئے اعداد و شمار (Statistics) کا سہارا لیا جاتا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر محکمہ اور ہر غیر سرکاری سماجی تنظیم میں شعبہ شماریات کو اہمیت دی جاتی ہے اسے محکمہ میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔

اعداد و شمار کی اس بنیادی اہمیت کے تسلیم کیے جانے کے باوجود آج تک شاید کوئی ایک مثال بھی سامنے نہ لائی جاسکے جس سے یہ ثابت ہو کہ اعداد و شمار کی ”صحت و حقانیت“ (Authenticity) نے سمت درست کر دی ہے۔ دفاتر کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر پہلے کلرک حضرات کی ضرب تقسیم پھر کیلکولیٹرز پر انگلیوں کی حرکت اور آج کمپیوٹر کی جمع تفریق کے بعد کبھی اعلان ہوتا ہے کہ موجود شجر کاری مہم کے دوران 20 کروڑ پودے لگائیں گے۔ کبھی اعلان ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ ایکڑ پر گندم چاول یا گنے کی کاشت ہوگی تو کبھی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اتنے لاکھ لوگوں کو ادویات تقسیم کی گئی ہیں۔ علی ہذا القیاس۔ مگر کبھی کسی نے ان اعداد و شمار کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔

مذکورہ طرز کے اعداد و شمار کی فراہمی کے لئے آج تک کبھی کسی نے کسی بڑے سرکاری اہلکار کو دفتر سے باہر تصدیق اعداد و شمار کے لئے نکلنے نہ دیکھا ہوگا۔ راقم الحروف اپنے نصف صدی کے عملی تجربے کی بنیاد پر پورے وثوق سے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ماتحت عملہ اپنی کارکردگی دکھانے کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر جو غیر حقیقی رپورٹیں دفاتر میں جمع کرواتا ہے یہی بنیاد بن جاتی ہیں اور اسی بنیاد پر منصوبہ بندی کی بڑی بڑی عمارتیں استوار ہوتی ہیں۔

اعداد و شمار سے سبز باغ بھی دکھائے جاتے ہیں اور اقوام و مملکتوں اور حکومتوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور عالمی سطح پر کھیلے جانے والے اس ڈرامے کے علاوہ اسلامی جمہوریہ

پاکستان کے عوام اور حکمران بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ریڈیو اور ٹی وی پر کئے جانے والے اعلانات تو ہر کس و ناقص کو ازبر ہیں کہ ”وسائل گھٹ رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے“ آبادی کے حوالے سے اعداد و شمار بڑی محنت سے ”تیار“ کیے جاتے ہیں اور یہ محنت ”سائنٹیفک میٹھڈ“ کہلاتی ہے کہ اس میں ملوث ”مختی لوگ“ اعلیٰ تعلیم یافتہ خصوصی تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ معاوضہ یافتہ بھی اور ان تینوں اعلیٰ و خصوصی صلاحیتوں کے ساتھ اعداد و شمار تیار ہو کر سبز باغ دکھانے یا ڈرانے میں ناکام رہیں تو یہ ان کے علم ان کی تربیت اور معاوضے کی توہین ہے۔ مستزاد یہ کہ خارجی آقاؤں کے مقاصد بھی تو ”اعلیٰ“ ہیں۔

ہم یہاں اپنی بات کی تائید میں صرف آبادی کے حوالے سے عالمی سطح کے اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی عقل سلیم تسلیم کرے گی کہ سال کے آخر میں کسی مخصوص ملک یا گلوبل فیملی کی آبادی کے تعین میں گذشتہ سال کی آبادی میں مصدقہ شرح پیدائش کا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ شرح اموات کی کٹوتی ضروری ہے اور پھر دوران سال حوادث مثلاً زلزلہ سیلاب یا وبا وغیرہ سے اموات کی منہائی سے حقیقت پر مبنی اعداد و شمار مل سکتے ہیں۔ مثلاً ترکی کا زلزلہ ہو یا بھارت کا۔ مگر عملاً ہوتا یوں ہے کہ سال بہ سال پیدائش کی فرضی بڑھوتری کو جمع کرتے کرتے پانچ سال بعد ”چھٹاپین“ ”پانچواں بلین“ مکمل ہونے کی ”نوید“ سنادی جاتی ہے۔ یہی حال دوسرے شعبہ ہائے حیات سے متعلقہ اعداد و شمار کا ہے جس کے سبب ہر شعبہ کی ”ترقی“ دھڑام سے زمین بوس ہوتی ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ذمہ دار افسران ہر حکومت کو کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھانے کے لئے اعداد و شمار کے سبز باغوں کی سیر کراتے ہیں کہ ”برآمدات میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا“ ”پیداوار اتنے فیصد بڑھ گئی“ ”قلاں کام اتنے فیصد بڑھ گیا“ ”قلاں خسارہ اتنے فیصد گھٹ گیا“ اور جب اس حکومت کی کشتی ڈوبتی ہے اور چوار تھامے کوئی دوسرا ماتھی سامنے آتا ہے تو وہی افسر شاہی اسے یہ بتانے میں پیش پیش ہوتی ہے کہ ماضی میں ترقی کے اعداد و شمار محض سبز باغ تھے۔ ان میں یہ خرابی تھی وہ خرابی تھی اور اب آپ

شریف لانے پر قبلہ درست ہو گیا ہے۔ اب شاہراہ ترقی پر ہماری رفتار کی شرح فیصد زیادہ ہے۔

ہم کسی پر الزام نہیں دھرتے نہ ہی ساری کی ساری افسر شاہی غیر محبت وطن۔ الحمد للہ بہت کچھ خیر ہے مگر اس خیر سے قوم نصف صدی گزار کر بھی فیضیاب نہیں ہو۔ یہ قومی المیہ کس کی نظر سے اوجھل ہے؟ یہ امر واقع ہے کہ کبھی کسی نے اعداد و شمار کا جگایا تو کبھی کسی نے ان سے دیا بچایا مگر 53 سال میں ایک بار بھی ہمارے اعداد و زمین حقائق کا ساتھ نہ دے سکے۔ کیا یہ سب بلا وجہ ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتفاقاً ہو رہا نہیں اور یقیناً نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی نیار کی آنکھوں کا کانٹا تھی جو آج بھی ہے اور جن کی آنکھوں کا کانٹا ہے وہ اسے ال اور مستحکم نہیں دیکھ سکتے۔

کسی ملک کو غیر مستحکم رکھنے کے لئے اسے غلط اعداد و شمار کے ساتھ منصوبہ بندی الجھا دینے کے لئے اس ملک میں میر جعفریوں اور میر صادقوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے دشمن اس حقیقت سے ایک پل بھی غافل نہیں رہے۔ وہ فوں میں رہے ایوانوں میں پلے مگر اپنے بن کر اور یہ وہی ہیں جنہوں نے اس نظریاتی ت میں سماجی، معاشرتی، اخلاقی، دینی، سیاسی اور معاشی اقدار کو پنپنے نہ دیا، کبھی سود کے تے کی راہ میں رکاوٹ بنے تو کبھی قرآن و سنت پر مبنی نظام تعلیم کی راہ کا روڑہ ثابت ئے۔ یہ کام انہوں نے بڑی منصوبہ بندی سے کیا۔ ملاحظہ فرمائیے:

”(جہاں جس ملک میں ہم اثر و رسوخ بنالیں گے) عوام میں سے جو بھی انتظامیہ ہم منتخب کریں گے اپنی وفاداریوں کی تکمیل کی صلاحیت کے حوالے سے کریں گے اور وہ ان حکومتوں کے اپنے تیار کردہ افراد کی طرح تربیت یافتہ نہ ہوں گے بلکہ بچپن سے کرہ ارض پر حکمرانی کے لئے زیر تربیت رکھے گئے وہ لوگ ہوں گے جو مہروں کی طرح ہمارے ”ماہرین“ ”مشیروں“ اور ”دانشوروں“ کے

اشارہ اہود کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔

غیر یہود کو غیر متعصب حتیٰ تاریخی مشاہدات سے عملی
راہنمائی دینے کی بجائے محض غیر عملی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔
 اس لئے ہمیں ان کے لئے فکر مند ہونے کی چنداں ضرورت نہیں
 ہے۔ وقت معین آنے پر ان کو اسی خوش فہمی میں لگا رہنے دو یا یہ
ماضی کے خوابوں میں کھوئے رہیں یا پرانی یادوں سے لطف اندوز
ہوں۔ ہم نے انہیں جن امور کو سائنسی قواعد کے طور پر تسلیم کر لینے
کی ترغیب دی ہے اس پر انہیں جمارنے دو۔ یہی مقصد تو ہے جس
پر ایمان کی حد تک پختگی کے لئے ہمارے اخبارات و جرائد ہر لمحہ
کوشاں ہیں۔ غیر یہود کے دانشور ہماری مطلوبہ سمت میں اپنی قوم کو
لے جانے کی خاطر خود ہی سائنسی معلومات و حقائق کو جنہیں
ہمارے عیار ماہرین نے تیار کیا ہے خوشنما بنا کر اپنی قوم کو مہیا کریں
گے۔“ (Protocols, 2:2)

مذکورہ اقتباس جو ہر لحاظ سے مکمل اور بامعنی ہے ہماری گزارشات کی تائید کرتا
 ہے۔ اعداد و شمار کی بھول بھلیاں ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف رپورٹوں میں ہوں یا FAO
 یونی سیف 'ILO' 'WHO' 'WTO' جیسے دیگر اداروں کی مرتب کردہ ہوں ہر لحاظ سے
 محل نظر ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ پر پلنے والی این جی اوز بھی اسی انداز کے اعداد و شمار سے ڈرا
 کر یا سبز باغ دکھا کر امداد ”حلال“ (Justify) کرتی ہیں۔ اور حلال و حرام کے اس
 ہیر پھیر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کا سکہ چین اور ان کی خوشحالی ان کی اقدار کا
 سرمایہ؟.....؟ حرام ہو رہا ہے۔ 53 سال گواہی دے رہے ہیں۔

شرکاء اور ساتھیوں کی ایک بڑی فہم فہم

منزلت اسلامی نظام کے باعث قوم کا بچہ مقروض مسائل کے باوجود دردمند کیا جائے گا کہ سب سب ہی ہم راہ کے پاکستان کی آرزو ہے کہ پاکستان بڑھ کر جاتا ہے جو ترقی

مضبوط و مربوط پاکستان کا ضامن اسلام کا نظامِ عدل

اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر تخلیق سے قبل نصاریٰ اور ہنود کے گلے کی پھانس تھا تو تخلیق کے مراحل سے گزرنے کے بعد آزاد مملکت کی صورت میں بھی اسے برداشت کرنے کے لئے نہ بھارت کا بنیا تیار تھا اور نہ ہی انگریز بہادر اور دونوں اسلام دشمنوں کی ملی بھگت سے تقسیم ہند کا نقشہ بھی ایسا تیار کیا گیا کہ یہ نئی نظریاتی مملکت کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدم استحکام کی خاطر دشمن نمبر 1 بھارت نے فوری کارروائی کا آغاز کیا کہ کئی ریاستوں کو بالجبر اپنے گھیرے میں لے لیا اور بڑی ریاست کشمیر پر یلغار میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ پاکستان کی بے سرو سامان فوج اور مجاہدین کی بروقت مزاحمت نے کچھ حصہ بچا لیا تو کچھ تنازعہ قرار پایا جو نصف صدی گزرنے پر بھی تنازعہ ہے اور بڑھتی چڑھتی جارحیت کی زد میں ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دونوں بازوؤں، مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان، میں قابل قدر فاصلہ تھا اور فاصلہ دشمن کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لئے انتہائی مددگار تھا۔ اس فاصلے کو ذہنی، معاشی، سماجی اور سیاسی فاصلے کا رخ دینے کے لئے لمحہ لمحہ منصوبہ بندی ہوئی اور عملی اقدامات سے منصوبے کو آگے بڑھایا گیا۔ کیا یہ داستان کسی سے چھپی ہوئی ہے؟

خارجی دشمن کی دشمنی سے نقصان تو ہر لمحہ متوقع ہوتا ہے مگر جب داخلی منافق اور

بے ضمیر دشمن بن کر اس کا ساتھ دینے لگیں تو نقصان ناقابلِ تلافی ہوتا ہے۔ سقوطِ مٹرا پاکستان کا سانحہ اس کی بدترین مثال ہے۔ اس میں کس کا کس قدر حصہ تھا اس پر بہت لکھا جا چکا ہے کہا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دولت کرنے کے بعد بھی دشمن دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اب صرف مغربی پاکستان کے چار صوبوں پر مشتمل ہے یا شمالی اور آزاد علاقہ جات ہیں دشمن کو پہلے سے زیادہ کھٹکتا ہے اور اب یہودی بھی ”محنت“ میں ہنود و نصاریٰ کے ساتھ شامل ہیں اور اب یہ بچا کھچا پاکستان اس ٹرائل دشمن نمبر 1 ہے۔ یہودی کی سوچ اور پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی ملاحظہ فرمائیے جس عمل بذریعہ بھارت طے ہے:

”عالمی یہودی تحریک کو اپنے لیے پاکستان کے خطرے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے اور پاکستان اس کا پہلا ہدف ہونا چاہئے کیونکہ یہ نظریاتی ریاست یہودیوں کی بقاء کے لئے سخت خطرہ ہے اور یہ کہ سارا پاکستان عربوں سے محبت اور یہودیوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس طرح عربوں سے ان کی محبت ہمارے لئے عربوں کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے لہذا عالمی یہودی تنظیم کو پاکستان کے خلاف فوری اقدام کرنا چاہئے۔“

بھارت پاکستان کا ہمسایہ ہے جس کی ہندو آبادی نے پاکستان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا اور یہ مسلمان کی ازلی دشمن ہے جس پر تاریخ گواہ ہے۔ بھارت کے ہندو کی اس مسلم دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں بھارت کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کام کا آغاز کرنا چاہئے۔ ہمیں اس دشمنی کی خلیج کو وسیع سے وسیع تر کرتے رہنا چاہئے یوں ہمیں پاکستان پر کاری ضرب لگا کر اپنے خفیہ منصوبوں کی تکمیل کرنا ہے تاکہ صیہونیت اور یہودیوں کا یہ

7
قادیانی
دشمنی

دشمن ہمیشہ کے لئے نیست و نابود ہو جائے۔“ (اقتباس تقریر اسرائیلی وزیراعظم بن گوریان، بحوالہ جیوش کرانیکل، 9 اگست 67ء)

مذکورہ اقتباس ہر لحاظ سے مکمل اور بامعنی ہے اور اگر کوئی بھی ذی شعور، عقل و شعور کو معمولی زحمت دے کر 67ء سے آج تک کے بھارت اسرائیل تعلقات، باہم فوجی معاونت، اسلحے اور افراد کی ترسیل اور دن بدن بھارتی جارحیت کے انداز دیکھے تو یہ اقتباس معاملات اور حالات کو سمجھنے میں اس کی بھرپور معاونت کرتا ہے، خصوصاً کشمیر میں مجاہدین کو کچلنے کے لئے۔

آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹا سا ایک اور انتہائی فکر انگیز اور زہریلا اقتباس بھی دیکھئے:

”پاکستان کی فوج اپنے پیغمبر کے لئے بے پناہ محبت رکھتی ہے اور یہی وہ رشتہ ہے جو عربوں سے ان کے اٹوٹ تعلق کی بنیاد ہے۔ یہی محبت، وسعت طلب عالمی صیہونی تحریک اور مضبوط تر اسرائیل کے لئے شدید ترین خطرہ ہے۔ لہذا یہودیوں کے لئے یہ انتہائی اہم مشن ہے کہ وہ ہر صورت اور ہر حال میں پاکستانی افواج کے دلوں سے ان کے پیغمبر محمد کی محبت کھرچ ڈالیں۔“ (اقتباس از رپورٹ پروفیسر ہرٹز امریکی فوجی ماہر)

آپ کے لئے اس منصوبے پر عمل درآمد کے طور طریقے سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ کام بین الاقوامی سطح پر بھی ہو رہا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس کے ایٹوں کے ذریعے بھی۔ دونوں جہتوں میں یہ دشمن تو تیس بج دوپہر شام بلکہ رات بھی مصروف عمل دیکھی جاتی ہیں اور تکمیل اہداف کے نئے نئے جھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔

یہود و ہنود و نصاریٰ کا بین الاقوامی سطح پر موثر ہتھیار میڈیا بھی ہے، سفارتی بھی

ہے اور یہ تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ان دونوں محاذوں پر موثر مقابلے کی طاقت سے محروم ثابت ہوا ہے اور یہ کہہ دینے میں بھی یقیناً کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں ہوس زر اور بہل پسندی کو بڑا عمل دخل رہا ہے۔ حسب الدنیانہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہوتے۔

دشمنوں کی منصوبہ بندی پر مختصر بات ہو گئی، عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے اس میں نفسیاتی محاذ سب سے اہم ہے جس کی تازہ ترین مثال امریکی سٹڈی گروپ کی یہ رپورٹ ہے کہ خاکم بدین اسلامی جمہوریہ پاکستان 2010ء سے آگے سفر جاری نہ رکھ سکے گی۔ یہ محض رپورٹ نہیں بلکہ میڈیا کے ذریعے صوبوں کے مابین نفرت کی دراڑیں وسیع سے وسیع تر کرنے کا کام زور و شور سے جاری ہے۔

ہمیں اگر یاد ہو تو 60 کی دہائی میں ایک ناول کریش 79ء مارکیٹ میں لایا گیا تھا جس میں عراق، ایران جنگ کی ”فرضی“ کہانی تھی اور ٹھیک 79ء میں وہی فرضی کہانی اصل میں بدل گئی۔ اسی طرح کی فرضی کہانی ”ظہور مہدی“ مارکیٹ میں آئی کہ مدینہ منورہ میں ایک مہدی بنے گا جو حج کے روز منیٰ میں اعلان مہدیت کرے گا اور اصلی مہدی ہونے کے ثبوت پر مینڈھے کی قربانی پیش کرے گا جسے امریکی سیارہ سے لیزر شعاعیں جسم کر دیں گی اور مہدی کی آمد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ دنیا کے ہر خطہ میں پھیل جائے گی۔

یہ فرضی ناول فی الواقعہ منصوبہ بندی ہے۔ عوام کے رجحانات دیکھنے کے لئے بطور ناول (Fiction) مارکیٹ میں پھیلانے جاتے ہیں اور ردِ عمل کی روشنی میں اس منصوبہ کی جزئیات کا قبلہ درست کر کے اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ عوام الناس کو نفسیاتی ماردی جاتی ہے۔ نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم کوتاہ اندیش ثابت ہوئے ہیں کہ اسے ہمارے سیاستدانوں اور افسانہ شاعری نے ثابت کر دیا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کچھے پاکستان کو مربوط رکھنے کی صورت کیا

ہے؟ جو دشمن کی ہر طرح کی ریشہ دوانیوں سے اسے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام کی بھی ضمانت ہے۔ ہمارے اس سوال پر بعض دانشور یہ کہیں گے کہ معاشی و اقتصادی ترقی سے ملک مستحکم ہوگا۔ چند یہ فرمائیں گے کہ تعلیم اس کا حل ہے۔ غرض مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی۔

استحکام وطن جس میں انسانوں کے دل باہم جڑے ہوں کہ انسان ہی معاشرہ و سماج تشکیل دیتے ہیں اور انسان ہی صوبائی اور علاقائی سرحدوں کو ملا کر وفاق بناتے ہیں
صرف ایک بنیادی چیز کا تقاضی ہے اور وہ ہے نظام عدل جس کی پشت پر ”تعلیم“ نہیں علم
ہونا لازمی ہے۔ بالیقین یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی داخلی یا خارجی سبب استحکام
وطن کی ضمانت نہیں بن سکتا۔

خالق کائنات نے کتاب ہدایت میں عدل کی اہمیت کا بار بار مختلف اسالیب سے ذکر فرمایا ہے، مثلاً اس کائنات کے مربوط و مستحکم ہونے پر بھی عدل ہی کو سبب قرار دیا گیا تو انسانوں بلکہ حیوانات کے ساتھ سلوک کی بنیاد بھی عدل و انصاف قرار پائی۔ اللہ خالی نے قرآن پاک میں ہر سطح پر عدل کا حکم دیا تو سرور دو عالم ﷺ نے اس عدل کو عملاً نافذ فرمایا۔ یہ انسانی تاریخ کا سنہری باب ہے۔

نبی آخر الزمان ﷺ اور آپ کے بعد خلفاء نے عدل کا حق ادا کیا تو پوری انسانی تاریخ میں استحکام مملکت کی درخشندہ مثال قائم ہوئی اور جو نئی نظام عدل ڈھیلا ہوا، خلافت راشدہ نے طوکت کی جانب سفر طے کرنا شروع کیا، یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت علیؑ کی خلافت کے بعد کی صورت حال اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور کے عدل سے اصلاح بھی تاریخ کا حصہ ہے۔

حضرت عمرؓ کے دور حکومت میں جو وسعت اسلامی مملکت کا مقدر بنی اور جو استحکام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف عدل کے نظام کا موثر نفاذ تھا۔ بیٹا خلیفہ کا ہو یا گورنر عمرو ابن العاصؓ کا ہو، غلطی کرے تو عوام کے سامنے عدل

کے تقاضے پورے کئے جائیں۔ کھانے پینے اور پہناوے تک میں عدل کے تقاضے خلیفہ کی ذات اور اس کے خاندان سے شروع ہوتے تو عوام کو عدل کا خوف سیدھا بھی رکھتا اور حکمران سے عوام کی محبت مثالی بھی ہوتی۔

گلوبل فیملی آج عدل سے محروم ہے تو ہر طرح کی خرابی اس کا مقدر ہے۔ ترقی یافتہ ہوں ترقی پذیر ہوں یا غیر ترقی یافتہ عدم استحکام افراتفری اور بے چینی ہر کسی کا مقدر ہے اور یہی حال اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بھی ہے کہ یہ گلوبل فیملی ہی کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل ہو یا عالمی عدالت انصاف جو سونے کے عوٹن انصاف فراہم کرتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ سونے کے مالک کون ہیں؟

مشرق بعید میں جرائم کی بیخ کنی کے حوالے سے عالمی سطح کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس وقت مسٹر جسٹس اے آر کارنیلینس چیف جسٹس تھے انہوں نے مذکورہ کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نمائندگی کی۔ جرائم کی بیخ کنی (Crime Eradication) کے حوالے سے عالمی سطح کے ماہرین نے لے لے مقالے پڑھے اور جب باری پاکستانی مندوب کی آئی تو بڑی سادگی سے اس نے شرکاء کانفرنس سے کہا کہ حضرات بڑے بڑے سائنٹیفک مقالے آپ نے سنے میرے پاس علاج کے لئے صرف ایک ہی تجویز ہے جس سے جرائم کم ہو جائیں گے۔

شرکاء کانفرنس نے جب جسٹس اے آر کارنیلینس کی زبان سے ایک ہی علاج کی بات سنی تو سب نے کان کھڑے کیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مسجی نمائندہ کہہ رہا تھا کہ حضرات کسی بھی معاشرے سے جرائم کی 100 فیصد بیخ کنی ممکن نہیں کہ انسان کے خالق نے (Crime Free) جرائم سے پاک معاشرہ تشکیل ہی نہیں دیا کہ اگر وہ ایسا معاشرہ بنا دیتا تو اچھے برے خیر و شر کا کیا تصور ہوتا۔ اس نے خیر و شر کی جبلتوں کے ساتھ معاشرہ تشکیل دے کر انسان کو آزمائش کی بھٹی سے گزارنا ضروری سمجھا مگر شر کو کنٹرول کر کے معاشرہ میں جرائم کو آٹے میں نمک کی سطح پر رکھنے (Minimise) کے لئے ایک فارمولا عطا کیا۔ میرے پاس اس وقت یہی فارمولا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس پر عمل کر

کے ہر معاشرہ جرائم کو کم سے کم سطح پر لاسکتا ہے۔ حاضرین کا تجسس دیدنی تھا۔

جسٹس اے آر کارنیلینس نے کہا وہ نسخہ کیمیا یہ ہے کہ آپ اسلام کا نظامِ عدل مکمل طور پر نافذ کر دیں۔ جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ ایک عیسائی حج کی زبان سے اسلام کے نظامِ عدل کی بات سن کر مسیحی برادری کے مندوب جربز بھی ہوئے مگر کارنیلینس پورے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی ہوائی بات نہیں کی ہے۔ میری بات کی تائید خلافتِ راشدہ کا تیس چالیس سال پر محیط طویل دور کرتا ہے۔ ایسا دور جس میں نہ چوری کا خوف نہ ڈاکہ نہ قتل اور نہ راہزنی وغیرہ چہار سو خوشحالی تھی، سکھ اور سکون کے ساتھ استحکام تھا۔

مسیحی حج نے جو کہا تھا وہی سچ تھا کہ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا تھا اس نے انسان کی زندگی کے ہر سکھ کی خاطر ہدایات بھی دی تھیں ایسی ہدایات جو ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔ انہی ہدایات میں نظامِ عدل بھی ہے جسے فراموش کر کے یا پس پشت ڈال کر انسانیت بقول بدھ ”دکھوں کا گھر“ بنی اور ملت مسلمہ بالخصوص بے اطمینانی اور عدم استحکام سے دوچار ہوئی۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 53 سالہ ماضی گواہ ہے کہ ہم انگریز کے نظامِ عدل پر فریفتہ رہے بلکہ اس پر ایمان لائے مگر ہمارا مقدر نہ بن سکا تو اسلام کا نظامِ عدل جس کی گارنٹی خالق نے فراہم کی ہے۔ اس بنیادی ضرورت سے انحراف نے جو گل کھلائے وہ نصف صدی میں نصف پاکستان اور اس بقیہ نصف کے مقدر پر مزید ٹکڑے کیے جان کے خدشات کے سائے ہیں۔

جس نظامِ عدل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریاست میں سیاست میں معاش و سماج میں علم و صحت میں غرض زندگی کے ایک ایک شعبہ میں مطلوب ہے۔ اسلام کا نظامِ عدل عدالت پر بھی ویسا ہی لاگو ہے جیسا عدالت کے ذریعے مجرم پر۔ یہ نظامِ عدل حکمران پر بھی امیر پر بھی اور غریب پر بھی لاگو ہے۔ یہ عدل نہ سیاستدان خرید سکتا ہے نہ جاگیردار و صنعتکار بلکہ یہ ہر کسی کو مفت ملتا ہے اور جب تک مفت ملے گا چہار سو امن و خوشحالی بھی

ہوگی، معاشرتی، معاشی اور ملکی سطح کا استحکام بھی ہوگا۔ انشا اللہ۔

مشرقی پاکستان اگر بنگلہ دیش بنا تو صرف اس لئے کہ ہم نے سیاست میں نظام عدل کے تقاضے فراموش کیے تھے۔ آج اگر دشمن صوبوں میں منافرت اور تعصب کا بیج بویا رہا ہے تو نظام عدل کے فقدان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مربوط پاکستان کی ضرورت کل بھی اسلام کا نظام عدل تھا آج بھی یہی ضرورت ہے اور کل بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہوگی اگر بقا پیش نظر ہے۔



ہر نفس ڈرتا ہوں اس کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات
مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے
پختہ تر کردو مزاج خانقاہی میں اسے



پنجاب میں امسال کیپاس کی فی ایکڑ پیداوار کم ہوگئی

پچھلے سال 88.04 لاکھ گائٹھیں پیدا ہوئیں اس سال 82 لاکھ 10 ہزار گائٹھیں پیداوار ہوئی

پیداوار میں کمی ناموافق موسمی حالات کے باعث ہوئی، زیر کاشت رقبے میں 4.5 فیصد اضافہ

ساہیوال (آن لائن) محکمہ زراعت پنجاب کے سب سے اعداد و شمار کے مطابق کیپاس کی اب تک کی پیداوار تازہ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں اس سال کیپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے ذراغ کے مطابق اس سال ناموافق موسمی حالات شہری پانی کی بندش اور فیصد کی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے کیپاس کے زیر کاشت رقبے کے عملوں کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سال 4.5 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حقیقی ضرورت علم ہے یا مروجہ تعلیم!

علم اور تعلیم پر گفتگو سے پہلے اگر ایک پرانی کہاوت اور اس میں ترمیم بیان کر دی جائے تو ہمارے نقطہ نظر سے موضوع پر کہی جانے والی بات بڑی آسانی کے ساتھ ہر کوئی سمجھ سکے گا اور ہے یہ بھی علم ہی کی بات!

کہاوت یہ ہے کہ بنیا (ہندو) ہر کام سے متعلق 6 ماہ قبل سوچتا ہے، مسلمان عین وقت پر اور سکھ 6 ماہ بعد سوچتا ہے۔ جس سیانے نے بھی یہ بات کہی ہوگی اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر درست ہی کہی ہوگی۔

ہم یہاں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر مذکورہ کہاوت میں یوں ترمیم کرتے ہیں کہ یہود نے صدیوں قبل سوچا، انگریز نے اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا، ہندو بچے نے قبل از وقت ادراک کیا، مسلمان اور سکھ ادراک سے محروم رہے کہ 6 ماہ تو رہے ایک طرف برسوں گزارنے پر بھی ادراک کی دولت سے محروم رہے اور آج اسی محرومی کے سبب ذلیل ہیں۔

وہ قوم دنیا کی خوش نصیب ترین قوم ہے جس کے پاس علم کا حقیقی منبع و سرچشمہ ہو اور وہ قوم سینہ دھرتی پر بد بخت ترین قوم ہے جو اس حقیقی سرمایہ سے متمتع ہونے کے بجائے علم کے لئے دوسروں سے بھیک مانگے یا نکالی کرے۔

اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ

اپنے خورشید پر پھیلانے ہیں سائے ہم نے!

علم کا خالق اس کائنات اور اس کائنات کے اندر نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی ہر چیز کا خالق ہے۔ تخلیق کے ساتھ ہی اس نے مخلوق کو علم سے اس طرح نوازا کہ کائنات میں سینہ دھرتی پر اپنے اپنے کام بطریق احسن نبھاسکیں۔ کسی کو جبتوں کے ذریعے علم بخشا تو کسی کو گویائی کی دولت سے نوازا اور علم کے دوسرے ذرائع اس کا مقدر ٹھہرے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کرہ ارض پر اپنی خلافت کا نظام قائم فرمایا تو نظام خلافت کی بہترین ادائیگی کے لئے خود علم تفویض فرمایا (وعلم ادم الاسماء کلها)۔ یہ علم کی بنیاد تھی جو انسانی زندگی کے لئے ناگزیر تھا۔

گذرتے ادوار کے ساتھ انسان کی علم کے لئے ضرورت بڑھتے رہنا فطری امر تھا لہذا علم دینے کے لئے معزز و معتبر ترین افراد کو ہر امت (گروہ یا معاشرے) کے لئے نبی اور پیغمبر منتخب کر کے انہیں اپنے کلام (منبع علم و عرفان) سے نوازا اور ان نفوسِ قدسیہ نے اپنی اپنی امت تک اس علم کو منتقل کرنے کے لئے اپنی زندگیاں کھپا ڈالیں کہ لوگ اس علم کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کا سفر بطریق احسن طے کر کے خالق کے دھرتی پر خلیفہ ہونے کی ذمہ داریاں پوری کریں۔

ساڑھے چودہ صدیاں قبل جب خالق نے جانا کہ اب دنیا عالمگیریت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے اور یہ گلوبل ویج کی گلوبل فیملی کے طور پر اپنی شناخت بنا رہی ہے تو اس نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت محمد ﷺ کو سرورِ دو عالم اور رحمۃ اللعالمین بنا کر اپنے علم کا مکمل ایڈیشن دے کر تمام انسانیت کے لئے قیامت تک کے لئے معلم و مربی مقرر فرمایا اور دو طرح کی ضمانت سے نوازا۔ پہلی یہ کہ آج علم مکمل ہو گیا اور دوسری یہ کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔

علم عملی زندگی گزارنے کے جملہ لوازمات کی تکمیل کا نام ہے اسی کا دوسرا نام دین ہے خالق نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و

رضیت لکم الاسلام دینا' میں نے تمہارے لئے تمہارے دین (Code of Life) کو مکمل کر دیا ہے اور یوں اپنی (سب سے بڑی) نعمت (علم) تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے سلامتی کے دین کو طے فرمایا۔ (مفہوم)

علوم کا منبع قرآن حکیم ہے جس طرح پہلی امتوں کے لئے انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتب ہدایت اتاری تھیں۔ جنہیں لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے بدل لیا تو آخری مکمل و اکمل ایڈیشن کی حفاظت کی ذمہ داری خالق نے لے لی کہ اب اس میں ترمیم و تنسیخ کوئی نہ کر سکے گا۔ ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون“ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔

علم انسانی زندگی کے لئے روشنی ہے جس کی مدد سے انسان یا انسانی معاشرہ اپنے اندر بھی جھانکتا ہے اور گرد و پیش بسنے والوں کے ساتھ مل کر مقصد حیات کی تکمیل بھی کرتا ہے اور یہی علم اسے مقصد حیات سے روشناس بھی کراتا ہے۔ اسی بات کو من عرف نسفه فقد عرف ربه کہا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہی وہ مطلوب علم ہے جس سے عرفان ذات کی تکمیل ہوتی ہے جس کی معراج عرفان الہی ہے جو دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔

جس علم کا ہم نے ذکر کیا ہے سطحی نظر رکھنے والے اسے دقیانوسیت کہہ دیں گے یا بنیاد پرستانہ سوچ کا نام دے دیں گے مگر مکمل بصیرت اور یقین و شعور کے ساتھ ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس سرچشمہ علم سے فیض یاب ہمارے اسلاف روٹی درازی و غیر ہم بنیاد پرست نہ تھے بلکہ ہمارے اسلاف کے متعارف کرائے گئے علوم نے بقیہ دنیا کو مذہبی بنی۔

یورپ اور دیگر اقوام شرق و غرب جس علمی ترقی پر آج نازاں ہیں ذرا تحقیق کو دست آویز تو اس کی تہ میں علوم کی وہی زرخیزی ملے گی جس کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے اور جس سے اس دنیا کو ہمارے اسلاف نے روشناس کر لیا تھا۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم

نے اس کھرے سونے کے بدلے چمکدار پیتل پر نظریں گاڑ دیں اور ہماری حرص کو پہچان کر انہوں نے کھوٹے سکے ہماری جھولی میں ڈال کر اپنے لئے راہیں آسان کر لیں۔ ہمارے کھوٹے سکے سینہ سے لگا کر آج تک اپنے آپ کو مالدار سمجھے بیٹھے ہیں۔

یہود و نصاریٰ بالاتفاق اسلام اور ملت مسلمہ کے دشمن ہیں۔ اسلام کی بیخ کنی ان کا ہدف اول کل بھی تھا آج بھی ہے اور آنے والے کل کے لئے بھی یہی ہے۔ مسلمان کو اقدار کے سرمایہ سے خواہ یہ مذہبی و اخلاقی اقدار ہوں یا سماجی و معاشرتی اقدار ہوں یا اقتصادی و سیاسی اقدار ہوں محروم کرنے کے لئے بنیاد واحد کے طور پر انہوں نے علم کے میدان کو چین لیا کہ اس کے ذریعے خیر خواہی کا بھرم بھی قائم رہے گا اور بیٹھے زہر سے مسلم ملت کے قوی مفلوج بھی ہوں گے۔

متحدہ ہندوستان کے مغلیہ دور میں علوم و فنون کا معیار ہر لحاظ سے مسلمہ تھا۔ کسی پہلو کوئی کمی نہ تھی صرف ایک پہلو فن تعمیر ہی بطور مثال لے لیجئے۔ آج کا انتہائی ترقی یافتہ دور بھی اس فن تعمیر کا مقابلہ کرنے میں کمزور ہے۔ ایٹ انڈیا کمپنی نے جوں جوں پرنڈزے نکالے انہوں نے سب سے پہلے مشن سکول قائم کئے جدید اور اعلیٰ تعلیم کی چاٹ لگائی مشن ہسپتال بنائے اور مسلمان قوم کی رگوں میں بیٹھا زہر اٹھانا شروع کیا اور 1947ء تک انہوں نے اس بات کا اہتمام کر لیا کہ دوسری جنگ عظیم میں کمزور ہو جانے کے سبب ہندوستان چھوڑنے کے باوجود اس خطے پر حکمرانی ہماری ہی رہے گی۔

ہر قوم ہر معاشرے کی ضرورت اس کے بنیادی نظریے سے ہم آہنگ علم ہے اور وہی معاشرہ اسی بنیاد پر باوقار انداز میں زندہ رہ سکتا ہے اور استحکام بھی اسی کا مرہون بنتا ہے۔ مسلمان قوم ایک نظریہ رکھتی ہے اس کی اپنی اقدار ہیں اس کی بقا اور اس کے استحکام کی ضمانت اسی نظریہ میں ہے اور اس نظریہ کی پشت پر مکمل و اکمل علم کا سرمایہ ہے۔

پاکستان سے اس کے بنیادی نظریہ سے ہم آہنگ علم لے کر اس کی جھولی میں "جدیدیت" ڈال کر اسے اسی نظریہ کی پشت پر مکمل و اکمل علم کا سرمایہ ہے۔

کے نام پر بہت کچھ ایسا ڈال دیا جس نے اقدار کو پامال کیا۔ سرکاری سرپرستی میں چلنے والے سکول و کالج ہوں یا مشنری سرپرستی میں سب کی جہت ایک ہی ہے کہ سب کا آقا ایک ہے۔ آقا کا چہرہ درج ذیل اقتباسات میں دیکھئے کہ یہ ان کی صدیوں قبل منصوبہ بندی ہے جسے ان کے حواری آج بھارہے ہیں۔

”غیر یہود کے تعلیمی نظام کو ہمیں یوں مرتب کرنا ہے کہ اس نظام کی بدولت وہ کبھی عملی زندگی میں کسی قطعی فیصلہ پر نہ پہنچ سکیں.....“

(Protocols, 5:11)

”علمۃ الناس تروج علم کے نام پر ہماری متعین کردہ مرتب شدہ جہتوں کو اندھی عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں اور خوش ہو جائے کہ وہ اپنی گمراہی اور جہالت کی سمت لپکتے ہیں کچھ اس لئے بھی کہ وہ گرد و پیش حالات سے متنفر ہیں کہ یہاں بے معنی طبقاتی اور حیثیتی تقسیم و تفریق موجود ہے۔“ (Protocols,

(3:10)

دوسرے شعبہ جات کی طرح علم کی ترویج کے ذمہ داران بھی اسی خاردار درخت کا پھل ہیں (الا ماشا اللہ) جو اسلام اور نظریہ پاکستان کی بیخ کنی پر کمر بستہ ہے کہ وہ غریبی آقاؤں کی پالیسیوں پر کام کو آگے بڑھانے کے لئے کوشاں ہے۔ ”انہیں بھی پہچان لیجئے“:

” (جہاں ہم اثر و رسوخ بنا لیں گے) عوام میں سے جو بھی انتظامیہ ہم منتخب کریں گے اپنی وقاداریوں کی تکمیل کے حوالے سے کریں گے کہ وہ ان حکومتوں کے اپنے تیار کردہ افراد کی طرح تربیت یافتہ نہ ہوں گے بلکہ بچپن سے کرہ ارض پر حکمرانی کے لئے زیر تربیت رکھے گئے وہ لوگ ہوں گے جو مہروں کی طرح ہمارے (اپورٹڈ)

ماہرین (مثلاً ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا یونی سیف طرز کے دوسرے اداروں سے آنے والے (ارشاد)) مشیروں اور دانشوروں کے اشارہ ابرو کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔“ (Protocols,)

(2:2)

گذشتہ 53 سال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رائج نظام و نصابِ تعلیم کسی طرح بھی اسلام اور نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس نظامِ تعلیم نے علم کے بجائے ادھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اقدار کو جس طرح پامال کرنے میں کردار ادا کیا کسی ذی شعور سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے علمِ فروخت کرنے کی دکانوں میں بدل گئے یا اسلحہ اور منشیات کی تربیت کے اڈے بن گئے اور اس ”محنت“ کے باوجود اگر گنتی کے ”چند دانے“ اچھے نکل آئے تو یہ نظامِ تعلیم کا کمال نہیں محض قادرِ مطلق کا فضل و احسان کہا جاسکتا ہے کہ اس کی غیبی مدد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پشتیبانی فرما رہی ہے۔

نصف صدی میں قوم کو حقیقی رخ دینے والا اقدار کا محافظ نظامِ تعلیم نہ مل سکا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علم کے حوالے سے اس قوم کی جھولی خالی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نظامِ تعلیم پر غلبہ ان کا رہا جو غیر ملکی آقاؤں سے مرغوب بھی تھے اور غلام بھی۔ ہم نے علم اور علم دینے والے معلم کو ہمیشہ نظر انداز کیا اور Man behind the Gun کی اہمیت کو فراموش کیا۔ ہم نے نظامِ تعلیم کے نام پر دفاتر کی بھرمار کر دی، دفاتر آباد کئے اور بے شمار سفید ہاتھی ان دفاتر کی زینت کے لئے لاکھڑے کئے۔

ہم کسی کی تنقیص نہیں کر رہے، بصد احترام یہ پوچھا تو جاسکتا ہے کہ معلمین کی تنخواہوں اور سہولتوں کا معیار کیا ہے؟ اور ”افسرانِ محکمہ تعلیم“ کی تنخواہوں، آسائشوں کا معیار کیا ہے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ بجٹ کا وزن کس سمت زیادہ ہے؟ جب ضلعی سطح پر ایک افسر تعلیم اور تحصیل کی سطح پر ایک ماتحت ہوتا تھا تو بھی مروجہ تعلیم کا کچھ نہ کچھ معیار تھا۔ آج ضلعی سطح پر زنانہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ سٹاف کے ساتھ) مردانہ ایجوکیشن آفیسر (ایلیمنٹری اور سیکنڈری) الگ الگ پھر اس پر بھی بس نہیں خارجی آقاؤں

کے دباؤ پر اور سابق فوجی افسران کو خوش کرنے کی خاطر ہر ضلع کی سطح پر ایک ایک کرنل یا ریگیڈیر تعینات کئے گئے۔ جن کا علم اور تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں رہا کہ وہ صرف فوجی سپن میں ید طولی رکھتے ہیں۔

ہر ضلعی افسر کے دفتر میں ماتحتوں کی فوج ظفر موج ہے۔ دورے ہیں، میٹنگیں ہیں، رپورٹیں ہیں اور اللہ اللہ خیر سلا۔ اگر اس سے زیادہ کی کوئی صاحب نشاندہی فرما سکیں تو ہم ان کے ممنون احسان ہوں گے البتہ سال کے آخری دو ماہ یا نئے سال جنوری کے اختتام تک ماتحتوں کی کارکردگی کی حامل ”خفیہ رپورٹیں“ جن کا متعلقین کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے یہ افسر ضرور لکھتے ہیں۔

صوبائی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامی سیٹ کے نئے نئے بدلتے تقاضے بھی اوپر کے دباؤ اور ”مشوروں“ کی مجبوری ہے اس لئے کہ کوئی بھی عالمی سطح کا ادارہ اپنی شرائط منوائے بغیر امداد نہیں دیتا اور اس امداد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل کام پر صرف 20 یا 25 فیصد خرچ ہوتی ہے اور non productive کاموں یا عداوت پر زیادہ بلکہ ایسی کسی بھی امداد کا بیشتر حصہ مشیر حضرات کے اعزاز کے لئے سفر خرچ اور آسائشوں کی نذر ہو جاتا ہے اگر کچھ بچ جائے تو شیئری اور ٹیلیفون کے بل یا گاڑیوں کا پٹرول پورا ہوتا ہے۔

ہم بصد احترام اور پورے شعور کے ساتھ مرکزی اور صوبائی وزارتِ تعلیم کے ذمہ داران سے یہ پوچھتے ہیں کہ حصولِ علم کی راہ میں دہرا معیار کس کے ایما پر حائل ہے؟ غریب کا بچہ بغیر ٹاٹ کے سکول میں پڑھے اور افسر شاہی یا جاگیردار کا بچہ اعلیٰ پائے کے اردو یا انگلش میڈیم سکول میں جائے بلکہ بیرون ملک جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ایک نظریاتی مملکت ہے، مشنری اور کانونٹ سکولوں کا مسلمان بچے بچیوں کے لئے کیا جواز ہے۔ مسیحی اپنے بچوں کی تعلیم تک اپنے ادارے محدود رکھیں اور ان اداروں پر بھی ملکی قوانین و ضوابط کا ویسا ہی اطلاق ہو جیسا کہ پورے اداروں پر ہوتا ہے جو آج عملاً نہیں ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے بقول بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ اسلام نظام حیات کی عملی ترویج کے لئے حاصل کیا گیا تھا، آج تک اسلام اور نظریہ پاکستان ہم آہنگ نصابِ تعلیم اور ایسا نصاب پڑھانے والے معلمین کے وجود سے خالی ہے۔ نے اپنے نصاب میں بچوں کو سود کی مختلف شرحوں کے سبب "مال میں ہونے والی کثرت پڑھائی یا گوالے کے دودھ میں پانی ڈال کر "منافع" حاصل کرنے کے سوالات پڑھائے یا انگریزی اور اردو میں نیرسہ کی کتے بلی کی کہانی پڑھائی۔

پرائمری سے یونیورسٹی سطح تک ہم نے 'طلباء' کو علم سے دور رکھا کہ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ڈھب کے چار جملے بولنا یا لکھنا یا ملازمت کے لئے درخواست لکھنا اور کا مقدر نہ بن سکا۔ ہر محکمہ سے ٹھکرائے ہوئے لوگوں نے پی ٹی سی یا سی ٹی کورس کر کے محکمہ تعلیم میں بعد از خرابی بسیار پناہ حاصل کی اور پھر اپنی درمائدہ تعلیم کی بنیاد پر Girl گرل کے بجائے جرنل پڑھاتے رہے اور ان معلمین کے شاگرد عملی میدان میں ان کے بھی بازی لے گئے کہ آئے دن اخبارات ایسے چٹکلے شائع کرتے رہے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن میں فلاں نے فلاں انکشاف کیا تو فلاں کا جواب فلاں تھا۔

✓ جس ڈگری ہمارے ہاں علم کا کارواں محوسفر ہے، ہم منزل سے بتدریج دور تو ہو سکتے ہیں، منزل پر پہنچنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے انتقالِ علم پر لوگ یوں طنز کے تیر چلاتے ہیں:

"Education in Pakistan is transfer of notes from the notebook of the teacher to the note books of the students through the media of a penicl without knowing it."

ذرا ایک بار مذکورہ جملہ پھر پڑھئے۔ لمحہ بھر کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کیا

رے ہاں نصف صدی سے یہی نہیں ہو رہا۔ ہاں! یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب طالب علم کی ولت کے لئے گائیڈیں، ٹسٹ پیپرز اور گیس پیپرز کی بھرمار ہے۔ کیا یہی علم ہے جو ملاف کی میراث ہے؟ کیا یہی علم ہے جس کے بل بوتے پر ہم مضبوط و مستحکم پاکستان کے وارث بننے کے خواب دیکھتے ہیں؟؟ کیا یہی علم ہے جو اپنی ذات کو پہچان کر خالق تک سائی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟؟ اگر کسی کا جواب ہاں میں ہے تو بلا جھجک یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں بستا ہے آج کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگر ہم اپنی ذات اور ملک کے لئے ذرا بھی خیر خواہ ہیں تو ہمیں حقیقی منزل بننے اور قوموں کی برادری میں مستحکم اور باوقار پاکستان کی نمائندگی کے لئے اور سب سے بڑھ کر مستقبل کی نسلوں کے لئے اچھا ورثہ چھوڑنے کی خاطر اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ تعلیم کو خارجی دباؤ اور مصلحتوں سے آزاد کرانا ہوگا۔ ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دینا ہوگی۔

ہماری اولین ضرورت اسلام اور نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ نصاب علم ہے جس کے سبب حصول علم کے بعد اس ملک کا مقدر مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنسدان، مسلمان تاجر، مسلمان سیاستدان، مسلمان صنعتکار اور مسلمان آجر و اجیر ہوں کہ ان سب طبقوں میں اسلام کی موجودگی سے معاشرے کے سکھ سکون، تحفظ اور خوشحالی کی ضمانت ملے گی۔

ہماری دوسری ضرورت ہنگامی بنیادوں پر معلمین و مدرسین کی تیاری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بانجھ پن یا اخلاقی دیوالیہ پن اس انتہا کو نہیں پہنچا کہ ہمیں مطلوب افراد نہ مل سکیں۔ محب وطن تعلیم یافتہ افراد کو اسلام کے فلسفہ تعلیم اور فلسفہ حیات کی روشنی میں مختلف علوم پڑھانے کی تربیت دی جائے تاکہ وہ جو کچھ پڑھائیں اسلام ساتھ ساتھ ہو کہ یہ ہر طرح ممکن ہے۔

ہماری تیسری ضرورت انتظامی عملہ کو کم سے کم کر کے اخراجات میں بچت سے

حاصل ہونے والی رقم اساتذہ اور نادار طلبہ پر خرچ کی جائے، ضلع میں صرف ایک افسر تعلیم ہو جیسا پہلے ہوتا تھا، میٹنگیں رپورٹیں کم سے کم کی جائیں اور خفیہ رپورٹیں بھی ہر سطح کے لوگ اپنے اپنے ماتحتوں کی لکھیں تاکہ ضلعی افسر پر بوجھ کم ہو۔ افسران کی کھیپ معیاری علم کی ضمانت کی بجائے علمی بد حالی کی ضمانت ہے۔

ہماری چوتھی ضرورت یونی سٹریٹ کے خارجی خیر خواہوں سے نجات ہے جو درسگاہوں میں بے شرمی و بے حیائی کے راستے کھولنے کے لئے نئے راستے سمجھاتے ہیں، مثلاً تعلیمی اداروں میں جنسی تعلیم کا اجراء یا ثقافتی پروگراموں کی آڑ میں اسلامی روایات کا قلع قمع۔

کیا تعلیم کے شعبہ سے وابستہ حضرات جو پالیسی ساز ہیں ہماری گذارشات پر کان دھرنا پسند فرمائیں گے۔ یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے، یہ آخرت سنوارنے کے لئے ہر باشعور کی ضرورت ہے اور مستقبل کے مورخ کو کچھ مثبت کام سپرد کرنے کی جہت بھی ہے۔ دوسرے محکمہ جات کی طرح محکمہ تعلیم میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ محکمانہ ترقیوں کے عمل کو روک کر باہر سے لوگ محکمہ پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور یہ دو طرح سے محل نظر ہے کہ محکمانہ ترقی سے جو اوپر جائے گا وہ اپنے گریڈ کے حساب سے معاوضہ لے گا اور محکمہ کے بجٹ پر وہ بوجھ نہیں ہوگا جو کنٹریکٹ پر آنے والے کی تنخواہ اور الاؤنس اور سہولیات بنگلہ گاڑی وغیرہ سے ہوگا۔

حکمہ سے ترقی پانے والا محکمہ اور محکمہ کے ملازمین کے مزاج اور نفسیات سے مکمل آگہی رکھنے کے سبب رفتار کار کو ہر تعطل سے بھی محفوظ رکھنے کا سبب ہوگا اور ماتحتوں میں اجنبیت کے سبب جو ضد کا عنصر دیکھنے میں اکثر آتا ہے نہ ہوگا۔ باہر سے کنٹریکٹ پر آنے والوں کو محکمہ کے چہرہ اسی سے لے کر افسران تک سلام بھی کرتے ہیں 'Yes Sir' بھی کہتے ہیں اور دشمن بھی جانتے ہیں۔ مجبوری کے سبب بر ملا اظہار نہیں کر پاتے۔

حکومت کے پالیسی سازوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہر محکمہ میں اکثریت کرپٹ

ہے اور افواج پاکستان سو فیصد درست اور ان درست لوگوں کو ہر محکمہ کا قبلہ درست کرنے کے لئے سول محکموں میں بھیجے سے ہر سوسب اچھا ہوگا۔ یہ سوچ بنیادی طور پر درست نہیں ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں حرص و ہوس کے سبب ہر کسی کو نادرست بھی دیکھا جاتا ہے۔

افواج پاکستان ہوں یا کسی بھی دوسرے ملک کی فوج اس کی تربیت ابتداء سے ہی ایک مخصوص نیچ پر ہوتی ہے۔ فوج میں حکم ہوتا ہے اور اطاعت ہوتی ہے۔ فوج میں (Reasoning) دلیل بازی نہیں ہوتی صرف Yes Sir ہوتا ہے۔ سول میں Yes Sir کے ساتھ اکثر No Sir اور Reasoning بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور فوج جب سول کے ساتھ دن گذارتی ہے تو فوج کے بندے ایک طرف No Sir اور Reasoning سیکھتے ہیں تو دوسری طرف سول کی قباحتوں سے جھولیاں بھرتے ہیں جو فوج کے لئے زہر قاتل ہے۔ فوج کا بھرم عوام الناس میں مجروح ہوتا ہے۔

سابقہ فوجی افسران کو سول محکموں میں سربراہی کے منصب پر تعینات کرنا بھی قرین انصاف نہیں کہ وہ معقول پنشن اور سہولتیں لے رہے ہیں بے شمار ایسے ہیں جنہیں میڈل کے ساتھ زرعی اراضی بھی نصیب ہے اور اگر ضروری بھی ہے تو فاؤنڈیشن برائے افواج کے بے شمار پراجیکٹ ہیں جہاں فوج کی نفسیات جاننے والے سابق فوجی ہی کام کرتے ہیں ان میں انہیں ملازمتیں دی جاسکتی ہیں۔ فوج کو سول محکمہ میں لانا تدرست جسم کو جھکوں (Fits) سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔

محکمہ تعلیم کا جسم علم کے خون کی کمی سے پہلے ہی ٹھہرا ہے اگر مزید جھکے لگے تو یہ دفن ہونے کے قریب ہوگا۔ پالیسی سازوں کو یہ پہلو نظر انداز نہیں کرنے چاہئیں یہ تعمیر وطن کے تقاضے ہیں جو انتہائی اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے ہر کسی کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔

پاکستان میں کوئی جامع تعلیمی نظام موجود نہیں، رفتی تارڑ

ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو دینی نظریاتی تشانوں اور جدید عصری ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو

پاکستان کی بھامو ترقی اور استحکام کا انحصار اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے، تقریب سے خطاب

عیسائیت کے کچھار..... تعلیمی ادارے اور ہسپتال

کچھار شیر کی رہائش و آسائش گاہ کا معروف نام ہے اور اس نام کو مسیحی اقلیت کے لئے استعمال کرنا بظاہر درست نہیں کہ اقلیت بہر حال اقلیت ہے جو کبھی اکثریت کے مقابلے میں شیر نہیں ہو سکتی مگر آج یہ سوچ عملاً غلط ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسیحی اقلیت شیر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہی کچھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔

خطہ ہند و پاک میں تقسیم سے قبل پرتگیزیوں کے توسط سے عیسائیت متعارف ہوئی مگر باضابطہ اس کا پودا انگریزوں کی آمد 1698 میں لگا۔ پنجاب میں 1834ء میں ویسٹرن فارن مشن کے جان لارے نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو اپنے مشن سے متعارف کرایا۔ ہندوستان کے دوسرے خطوں سے زیادہ زور پنجاب کی طرف رہا شاید اس لئے کہ اس کا پڑاؤ Base بنا کر ارد گرد کشمیر سرحد اور افغانستان پر 'یلخار' موٹر اور ہیل بن سکتی تھی۔ اس دور میں دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ بشپ ڈیوڈ مصروف عمل تھا۔

1845ء میں امریکن پریسیپیٹین چرچ نے وسط پنجاب میں لدھیانہ کو بطور مرکز چنا اور پھر لاہور میں ڈیرے ڈال دیئے۔ اسی دوران 1835ء میں چرچ آف سکاٹ لینڈ سیالکوٹ کو مرکز بنا چکا تھا۔ چرچ مشنری سوسائٹی نے اپنے کام کا آغاز 1851ء میں کیا۔ 1849ء میں جب پنجاب انگریز کی عملداری میں آیا تو موجودہ صوبہ سرحد بھی اسی حصہ ہوتا تھا۔ بیشتر ازیں عیسائی مشنریوں کا کام سرکار کی عدم سرپرستی کے سبب انتہائی سخت تھا مگر جب برطانوی حکمرانوں کی سرپرستی ان کا مقدر بنی اور ان حکمرانوں نے اپنے مطلب کے معاون و مددگار ڈھونڈ کر انہیں جاگیروں اور دیگر مراعات سے نوازا تو مشنریوں

کا کام سہل ہو گیا۔ حکومت نے چرچ بنانے کے لئے ہی اپنے خزانہ سے امداد نہ دی بلکہ سکول و کالج اور ہسپتال بھی سرکاری امداد سے بنے۔ اس امداد سے جو مسلمان کے خون پینہ سے خزانے میں جمع ہوئی تھی۔

سرکاری سرپرستی میں تعمیر شدہ چرچ مثلاً سینٹ جیمز کتھیڈرل، سینٹ میری لاہور میں بشمول گورڈن میموریل، سیالکوٹ میں ہولی ٹریٹی، جہلم میں سینٹ جون، راولپنڈی میں کرائسٹ چرچ، سینٹ اینڈریوز اور سینٹ پال، مری میں ہولی ٹریٹی، سینٹ ڈینیز، ڈونگا کلی میں سینٹ سائمن، سینٹ جو دھا، ایبٹ آباد میں سینٹ لوکا، انک میں سینٹ پیٹرز، نوشہرہ میں کرائسٹ چرچ، مردان میں سینٹ البانز، کیمبل پور میں آل سینٹس، پشاور میں سینٹ جان، کرائسٹ چرچ اور آل سینٹس اور بنوں میں سینٹ جارج قابل ذکر ہیں۔

بات عبادت گاہوں سے آگے بڑھی تو عبادت گاہوں کی آڑ میں ہزاروں ایکڑ رقبہ ان کے نام مستقل الاٹ کر دیا گیا کہ عیسائیت قبول کرنے والے مرتد مسلمان بھوکے نہ مریں اور بطور مزارع ان زمینوں کو کاشت کریں۔ نسل در نسل عیسائیت کے غلام رہیں کہ مزارعت سے بے دخلی کا خوف ہدایت کے راستے کا پتھر بنا رہے گا کیونکہ اراضی کی ملکیت چرچ کے نام ہوگی۔ اس عیاری سے بہت سے دیہات وجود میں آئے جو آج تک اپنے ان محسنوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں مثلاً چند معروف دیہات یہ ہیں:

1. کلارک آباد (ضلع قصور) یہ پہلے ضلع لاہور میں تھا، اس کی اراضی 25000 ایکڑ ہے۔

2. یگ سن آباد (ضلع سیالکوٹ) ڈاکٹر یگ سن کے نام پر آباد ہے، اسے چک 371 بھی کہا جاتا ہے۔ 1899ء میں آباد ہوا تھا۔

3. روسن آباد (ضلع منگھری) موجودہ ساہیوال۔ 1916ء میں پریسی ٹیرین چرچ کے ڈاکٹر روسن نے الاٹ کروایا تھا۔

4. سنٹس آباد (ضلع ملتان) یہ میٹھوڈسٹ چرچ کے نام الاٹ شدہ 1000 ایکڑ اراضی کا گاؤں ہے جسے مشنری ڈاکٹر سنٹس نے الاٹ کروایا تھا۔

5. منگمری والا (ضلع لائل پور) موجود فیصل آباد میں ایجلیکن چرچ کے نام الاٹ اراضی پر مشتمل عیسائی مزاروں کا چک بنایا گیا۔
6. ہملٹن آباد (ضلع منگمری) موجودہ ساہیوال میں ایسوسی ایٹڈ پریس بی ٹیرس چرچ کو الاٹ شدہ اراضی کا چک ہے۔
7. مارٹن پور (ضلع شیخوپورہ) یونائیٹڈ پریسیڈین چرچ کی ملکیت ہے یہ چک کے بانی مسٹر مارٹن کے نام سے موسوم ہے۔
8. شانتی نگر (ضلع ملتان) 2000 ایکڑ پر مشتمل چک سالویشن آرمی کی ملکیت ہے۔

علاوہ ازیں بعد کے ادوار میں بھی چرچ، سکول، کالج، فنی تربیتی ادارے اور مشنری ہسپتالوں کے نام پر انتہائی موزوں مقامات پر اراضی الاٹ کی جاتی رہی اور اسی طرح مسیحی بستیاں بھی بستی رہیں مثلاً سکھسکی کے قریب مریم آباد کا معروف قبضہ ہے یا ضلع خوشاب میں 4 چکوک 59 ایم بی 36-37-38۔ فیصل آباد چوہڑکانہ (موجودہ فاروق آباد) سرگودھا، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ٹیکسلا اور خوشاب وغیرہ میں رفاہی اداروں کے نام پر کئی کئی ایکڑ اراضی الاٹ ہوئی۔ یہ پودا چونکہ انگریز بہادر نے لگایا تھا اس لئے اس کی آبیاری کا حق بھی انگریزی حکومت نے ادا کیا کہ آج یہ تناور درخت ہے۔

ہم یہ سطور اقلیتوں، خصوصاً مسیحی اقلیت پر کسی ”ناپسندیدہ حملے“ کے طور پر نہیں لکھ رہے۔ کوئی ملک اقلیتوں کے وجود سے خالی نہیں ہے کہیں مسیحی اقلیت ہیں تو کہیں مسلمان اقلیت ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق بھی مسلم ہیں۔ ہر حکومت اور اس کے عوام کا یہ اخلاقی اور قانونی فرض ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ کرے اور یہ گوبل فیملی کے چارٹر کا حصہ بھی ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ سینہ دھرتی پر اگر اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے تو صرف اسلام نے، کوئی دوسری قوم اس میں برابری ثابت نہیں کر سکتی۔

حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اقلیتیں بھی فرائض سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ہوش مند شخص اس بات کی تائید نہیں کرے گا کہ اقلیت

ن کے تو نیچے ادھیڑے اور حقوق کے تحفظ کے لئے شور مچائے اور چاروں طرف اس
 اس رویے کو سراہا جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسیحی اقلیت اگر حقوق کے لئے
 لا کرنے میں پیش پیش ہے تو اکثریت کے دین اور دین و اخلاق کے حوالے سے
 ب اقدار کی پامالی میں بھی ہر لمحہ مصروف ہے حالانکہ آئین میں قوانین و ضوابط میں جو
 فراہم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ”اقلیتوں کو اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق زندگی گزارنے
 مل آزادی ہوگی۔“

اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہو یا کسی دوسرے ملک کا آئین کسی جگہ بھی
 اؤں کو اکثریت کی مسلمہ اقدار کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ برطانیہ میں جو
 ادی کا عالمی چیمپین ہے مذہبی اور اخلاقی اقدار تو رہیں ایک طرف محض ملکہ کے خلاف
 کہتا قابلِ تعزیر جرم گردانا جاتا ہے مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اکثریت کے لئے
 الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے وہ ہر لحاظ سے قابلِ مذمت ہیں، اکثریت کے دین کو ”جھوٹا
 “ زبانی ہی نہیں کہا جاتا بلکہ عملاً اور عمداً سرکلر عوام میں پھیلائے جاتے ہیں۔

عیسائیت کی موثر ترویج کے لئے اپنے تمام تر باہمی اختلافات (فرقہ وارانہ) کو

ائے طاق رکھتے پاکستان کرچین کونسل نے جو لائحہ عمل طے کیا اور جو سابقہ منصوبہ بندی
 اسلسل ہی ہے اسے مختصر ایوں بیان کیا جاسکتا ہے:

1. تعلیمی و فنی تربیتی اداروں کا جال ملک میں پھیلا یا جائے، تعلیم بالغاں کی چھتری
 سلسلے مسلم گھرانوں تک رسائی حاصل کی جائے
2. طبی خدمات کے نام پر اہم مقامات پر معیاری ہسپتال اور نسبتاً کم اہم مقامات
 پر ڈسپنسریاں اور موبائل یونٹ قائم کئے جائیں
3. خوبصورت اسناد کے لالچ میں نوجوان مسلم لڑکے لڑکیوں میں بائبل کورس کے
 نام پر رسائی موثر بنائی جائے
4. رفاہی اداروں (NGOs) کے بھیس میں مفاد عامہ کے کاموں کی آڑ میں
 مسلم عوام کی دلہیز تک عیسائیت، اسماعیلیت پہنچائی جائے

5. اسلامی انداز اختیار کرتے ہوئے کثیر تعداد میں لٹریچر تیار کیا جائے اور اسے تخصیص عوام تک پہنچایا جائے۔

(الف) تعلیمی اور فنی تربیتی ادارے:

یہ کام برطانوی حکومت کے دور میں ہی انتہائی موثر طور پر شروع ہو چکا تھا۔ لاہور میں کانٹونٹ سکول اور ایف سی کالج، سیالکوٹ میں سکول اور مرے کالج، راولپنڈی میں گارڈن کالج وغیرہ۔ پھر بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ جوں جوں وسائل بڑھے کم و بیش ہر ضلع، تحصیل کی سطح تک مختلف مشنوں کے نام پر ”انگلش میڈیم“ سکول کھل گئے اور ان میں اس چمک کا خاص خیال رکھا گیا جو مسلمان گھرانوں کو ”اعلیٰ تعلیم“ کے حصول کی خاطر اپنے بچے بھیجنے پر مجبور کر دے۔ چنانچہ آج بھی مسیحی مشنری سکول میں مسلمان بچوں کی تعداد مسیحی بچوں کی تعداد کے مقابلے میں کئی سو فی صد زیادہ ہے۔

مشنری سکولوں میں مسلم بچوں کی اکثریت ہے تو مسیحی فنی تربیتی اداروں میں صرف مسیحی بچے لئے جاتے ہیں، ممکن ہے اٹک شوئی کے لئے کوئی ایک آدھ مسلمان بچے بھی ہوئے۔ یہ بات ہم محض ظن و گمان کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے عملاً تجربہ کے شواہد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو ان سطور کے راقم کو سرگودھا کالج روڈ کے ایک مسیحی ہائی سکول اور ایک فنی تربیتی ادارے کے علاوہ لاہور کے ایک کیتھڈرل ہائی سکول میں ایک ایک ماہ لیکچرز کے لئے جانے کے دوران ہوا تھا۔

مشنری سکولوں میں مسلمان والدین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لئے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، مسلمان معلم یا معلمہ بالعموم مصلحہ ہی ہوتی ہے مگر فی الواقعہ روز بائبل کو سامنے لائے بغیر بائبل کے مقاصد کی تکمیل پر ہی ہوتا ہے۔ نصابی اور غیر نصابی مصروفیات کا نقطہ عروج مسلمان بچے بچیوں کے ذہن سے اسلامی تعلیمات و اقدار کو کھرچ نکالنا ہوتا ہے اور مسلمان معلمات اپنی تنخواہ کی مجبوری عدم دینی تربیتی گھریلو ماحول اور مسیحی معلمات کے مقابلے میں فیشن ایبل رہنے کے سبب بچوں کی بگڑتی صورت سے بے خبر

می جاتی ہیں اور رہے والدین تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا جب بچہ ٹائی پتلون اور بڑی کے چار جملوں کے ساتھ گھر میں قدم رکھتا ہے۔ ماں، ماما یا مام بن جاتی ہے اور پٹ ڈیڈی یا ڈیڈی بن جاتا ہے۔ یہی نسل تیار کرنا ان کا مطمح نظر ہے۔

بہتر سے لوگ ہماری اس بات کو "فنڈا مینٹلزم" (Fundamentalism) ہیضہ یا بخار" کہیں گے، متعصب ہونے کا طعنہ تو عام بات ہے، مگر یہی فتویٰ لگانے لے جو آج پاکستان کی قسمت کے امین بنے انتظامیہ کے کل پرزے ہیں، ایسے انگلش ڈیم تعلیم و تربیت سے فیضیاب اگر اپنے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ ہم نے گذشتہ 53 سال میں نظریاتی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس کے بنیادی نظریہ کے حوالے سے کیا دیا تو اندر سے جواب نئی میں ملے گا اور سوال کو ذرا پھیلا کر ضمیر سے یہ چھ لیا جائے کہ وطن کی مٹی کو کچھ کیوں نہ دے سکے تو جواب ملے گا کہ انگریز کے بنائے گئے سکولوں اور تعلیمی نظام سے ایسا ممکن نہ تھا اور نہ ہی آج ممکن ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔

مشنری تعلیمی اداروں کی غیر نصابی سرگرمیاں ان اداروں کی انتظامیہ سوچ سمجھ کر اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے حوالے سے مرتب کرتی ہے۔ یہ فینسی ڈریس شو ہوں، یہ نیبلو ہو یا میوزیکل پرفارمنس، سب سے مطلوب اقدار کا قتل عام ہے۔ اقدار جو زندگی کی طلب گار ہر قوم کا حقیقی سرمایہ ہوتا ہے۔ جن کے بغیر اقوام کی ملی عمارت بوسیدہ ہو کر دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مشنری تعلیمی اداروں کا جال سرکاری سرپرستی میں اسلامی رواداری کے نام پر جو گل کھلائے گا، مستقبل کے پاکستان کے لئے جس استحکام اور خوشحالی کا پیغام لائے گا اسے ہر ذی شعور ماضی کے 53 سالوں کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے۔

ہماری مذکورہ گذارشات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ مشنری سکولوں کے قیام کے خلاف ہیں۔ اپنے بچے بچیوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لئے معیاری ادارے چلانا اقلیت کا حق ہے مگر اسے اقلیت تک محدود رکھنا ان کا فرض ہے۔ کہا

جاسکتا ہے کہ مسلمان والدین اپنی آزاد مرضی سے اپنے بچے بچیوں کو بھیجتے ہیں، ہم گھر سے کھینچ کر تو نہیں لاتے۔ یہ بات یقیناً وزنی ہے۔ مسلمان والدین کو اپنی اولاد کی تربیت و تعلیم کے حقیقی تقاضوں کا ادراک کرتے ہوئے سوچنا چاہئے کہ وہ اپنی اولاد کا مستقبل کے سپرد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے حقوق کی حفاظت کے لئے ذمہ دار حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک کے تعلیمی نظام کو مملکت کے بنیادی نظریہ سے ہم آہنگ رکھنے کے لئے نظام تعلیم میں یکسانیت پیدا کرے تاکہ قوم ایک ہی معیار پر اٹھے۔ یعنی تعلیمی اداروں پر اجارہ داری ختم ہو۔

(ب) ہسپتال فری ڈسپنسریاں اور موبائل یونٹ:

عیسائیت پھیلانے کا یہ دوسرا موثر ہتھیار ہے۔ راقم الحروف کو مشنری ہسپتال میں جانے کا موقع ملا ہے اور ایک بات ذاتی مشاہدے میں آئی ہے تو دوسری شنید۔ بہر حال دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات مشاہدے میں آئی یہ ہے کہ مریض کے لئے بنائے گئے یا ترتیب دیئے گئے کمرہ انتظار میز پر عیسائیت کی ترغیب پر مبنی چھوٹے چھوٹے دو درتے، کتابچے رکھے ہوتے ہیں انتظار کی لذت ”انجوائے“ کرنے والا مریض ان کو پہلے الٹ پلٹ کرے گا پھر کوئی ورقہ کتابچہ اٹھا کر ورق گردانی کرے گا اور بلاآخر پڑھے گا بھی اور ممکن ہے بات اثر جائے۔

انتظار ختم ہونے پر مریض کا ڈاکٹر سے آمنا سامنا ہوگا۔ ڈاکٹر انتہائی اخلاص و ہمدردی سے اسے چیک کرنے کے بعد جو تشخیصی نسخہ دے گا اس پر بائبل سے دعائے لکھی ہوگی۔ انسانی فطرت ڈاکٹر کی ہمدردی اور طریقہ تشخیص سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی اور یہی بیج بلاآخر مسیحیت کا درخت بن جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہسپتال میں دوائی مریضوں کو پہلے بسم اللہ پڑھ کر دوائی کھانے کو کہا جاتا ہے مگر دوائی کی کوالٹی اور مقدار تسلی بخش ہوتی ہے پھر چند روز بعد تسلی بخش خوراک یہ کہہ کر کھلائی جاتی ہے کہ خدا

یسوع مسیح کا نام لے کر شفا کی دعا کے ساتھ کھاؤ کہ انہیں تو اللہ نے مردہ تک زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا چنانچہ یہاں بھی ”معجزہ“ ہی ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کبھار مریض ایمان کی بازی ہار کر ہسپتال سے فارغ ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ کسی ہندو زمیندار کا گدھا وزنی بوجھ کے ساتھ دلدل میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے پر ڈنڈے بھی برسائے اور ”بھگوان کی بنیاد“ (منت) بھی کی مگر گدھا دلدل سے نکلنے پر آمادہ نہ ہوا۔ ایک مسلمان کسان کا گزر ہوا تو لالہ کی بے بسی دیکھتے اس کی مدد کو لپکا اور اس سے کہنے لگا کہ لالہ بھگوان کو یاد کرو مگر لالہ چونکہ بھگوان کو آزمائے بیٹھا تھا خاموش رہا۔ مسلمان کسان نے اچانک گدھے کو ڈنڈا رسید کرنے کے ساتھ ہی با آواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ گدھا اس ضرب شدید اور بلند آواز کے سبب بدک گیا اور دلدل سے باہر آ گیا۔ لالہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے مسلمان کسان سے پوچھا کہ ڈنڈے تو میں نے اسے بہت لگائے۔ دل میں دعائیں بھی کیں مگر تم نے یہ ڈنڈے کے ساتھ کونسی آواز نکالی۔ کسان کہنے لگا میں نے اپنے بھگوان کو پکارا تھا۔ لالہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا ”تو میرا بھگوان دلدل کے معاملے میں کمزور ٹھہرا“۔ یہی کچھ مسیحی ادویات کے حوالے سے شاید مسلمانوں کو سمجھا کر چسما دیتے ہیں۔

(ج) خط و کتابت کے بائبل کورسز:

نوجوان لڑکے لڑکیوں میں خوبصورت اسناد کے حصول کے شوق سے فائدہ اٹھانے میں بائبل کارپائٹنس کورسز کو بہت تقویت ملی اور ملکی حدود سے نکل کر یہ بین الاقوامی فاصلوں کی زد میں آ گئے۔ آج پاکستان کے بڑے شہروں میں قائم اس میٹ ورک کا دائرہ جرمنی، سویٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ تک پھیل چکا ہے جہاں سے خوبصورت کتابچوں اور تحائف کے سیٹ بلا طلب گھر میں پہنچنے پر ہی متعلقہ شخص آگاہ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کہ پہلے ”شکار“ سے اس کے شناساؤں اور احباب کے پتے خاموشی سے لے لئے پھر ان کے ذریعے ان کے شناساؤں کے اور یوں ”شکار“ کی چین بنتی چلی جاتی ہے

(ہم ایسے ہی ایک خط کا عکس دے رہے ہیں)۔ علاوہ ازیں کریڈیٹرز سٹڈی سنٹر بھی فعال ہیں۔

بائل کورسز کے ساتھ ملنے والے خط میں ”دشمن“ (مسلمان والدین) بہن بھائی (اجاب) سے ہوشیار رہنے اور بچا کر لٹریچر پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور ”شکار“ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کے پتے ارسال کریں ہم آپ کا ذکر کئے بغیر نہیں بھیجتے۔
کاسیٹ اور تحائف ارسال کریں گے۔

(د) رفاہی اداروں (NGOs) کے بھیس میں عیسائیت کے مقاصد کی تکمیل:

غیر ملکی آقاؤں نے اسلام دشمنی کے لئے خفیہ طریقے سے سرمایہ اندرون ملک بھیج کر بدنام ہونے کی بجائے انتہائی محفوظ طریقہ یہ سوچا کہ مسیحی NGOs بنا کر انہیں رفاہی کاموں کے لئے مرد و زن میں ’بیداری‘ پیدا کرنے کی خاطر کھلے عام کثیر وسائل فراہم کئے جائیں۔ یوں ہمارا نام محسنوں کی فہرست میں رہے گا اور ان NGOs کی وساطت سے ہمارے اہداف کی تکمیل بھی سہل ہو جائے گی۔ صوبائی اور وفاقی سطح پر گذشتہ ربع صدی میں مسیحی NGOs ”برسات میں کھمبیوں کی طرح“ دیکھنے میں آئے۔ مظاہرے حقوق نسواں کے حق میں ہوں یا اسلامی نظام و قانون کے خلاف اوپر بیان کئے گئے مسیحی دیہات سے مظاہرین بسوں میں بھر کر لائے جاتے ہیں اور ”کامیاب مظاہروں“ سے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

(ر) مسیحی لٹریچر کی تیاری اور اشاعت:

یوں تو ملک میں بے شمار جگہ مسیحی لٹریچر چھپتا ہے مگر لاہور میں بائبل سوسائٹی اور شاداب مرکز لٹریچر تیار کر کے علمۃ الناس میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ لٹریچر قیمتاً بھی فروخت ہوتا ہے اور مفت بھی ملتا ہے۔ اس میں اس بات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ ظاہری شیپ

ٹاپ میں مسیحیت چھپی رہے۔ ایسا لٹریچر خصوصیت کے ساتھ گوجرانوالہ کے تعلیم بالغاں پراجیکٹ کے حوالے مسز ستنام محمود کی نگرانی میں تیار کیا جاتا تھا۔ یہ لٹریچر میلوں ٹھیلوں میں مظاہروں کے دوران یاد دلاتر اور بازاروں میں مسیحی کارکن تقسیم کرتے ہیں۔

عیسائیت اپنے پھیلاؤ کے لئے آفات ارضی و سماوی یعنی زلزلوں، سیلابوں، بیماریوں یا خشیات کے عادی لوگوں کے علاوہ غربت کے مارے عوام کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتی ہے مثلاً بوسنیا، کوسوو، چیچنیا کی جابھی کے بعد کیمپوں سے امداد کے نام پر محسنوں کے روپ میں مسلمان بچوں کو یورپی ممالک میں لے جایا گیا۔ ترکی کے زلزلہ زدگان ہوں یا بھارت کے UNO کی پابندی کے سبب افغان ہوں یا ایرانی، عراقی NGO کی رفاہی سرگرمیوں کی آڑ میں مسلمان کے دین و ایمان کے سودے ہوتے ہیں۔ ہم کھلے دل سے ان کے اس طریقہ واردات کو سراہتے ہیں اور سچے دین کے ان داعیوں کے عقل و شعور کا ماتم کرتے ہیں جو محشر کی حاضری اور جوابدہی سے بے نیاز اپنی سیاست اور اپنی ”تبلیغ“ میں نکلن ہیں۔

عیسائیت کا چارہ بننے والے ”مرتدوں“ کو جہنم بھیجنے کا فرمان جب صادر ہو رہا ہوگا تو اگر انہوں نے قادر مطلق کے عدل سے یہ فریاد کر دی کہ ہمارے عادل رب ذرا ان عوامل کو بھی دیکھ لے جنہوں نے ہمیں آج اس فیصلے تک پہنچایا تو بے شمار جبہ دستار والے وارثان محراب و منبر اور خادمانِ حرمین اس کی زد میں آ جائیں گے کہ مسیحی سماجی کارکن جب تمہارے بچے اچک کر لے جا رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ تمہارے پاس وسائل کی کمی تھی یا جگہ نہ تھی جہاں انہیں رکھ سکتے؟

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عیسائیت کی بڑھوتری کی شرح فیصد خاصی تشویشناک ہے خصوصاً اہم علاقوں میں (Strategic points) پر مثلاً (جلدی میں ہمیں تازہ ترین اعداد و شمار نہیں مل سکے، مگر میٹر اعداد و شمار بھی کم چونکا دینے والے نہیں ہیں)۔ یہ بات نظر انداز کرنے کی نہیں سوچنے کی ہے۔

بعض سرحدی اضلاع میں بڑھوتری کی شرح فیصد:


بہاولنگر	157 فیصد	رحیم یار خان	632 فیصد
خیر پور	180 فیصد	تھرپارکر	643 فیصد
ٹھٹھہ	950 فیصد	حیدر آباد	765 فیصد
سکھر	336 فیصد	بہاولپور	524 فیصد

صوبائی سطح پر بڑھوتری کی شرح فیصد:

پنجاب	164 فیصد	سندھ	682 فیصد
سرحد	986 فیصد	بلوچستان	411 فیصد

فانا اور اسلام آباد (وفاق) 965 فیصد

ہم سال بھر میں چند ایسے اعلانات سے خوش ہو لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یا خاندان نے فلاں مولانا کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا مگر بلا اعلان امدار ہی امدار نے کھٹل کی بڑھوتری کی طرح عیسائیت کی دیمک اسلام کے تناور درخت کو جس طرح چاٹ رہی ہے اور اس کے تعلیمی ادارے اور ہسپتال خصوصیت کے ساتھ جو گل کھلا رہے ہیں ہمارے ارباب فکر و نظر کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم رواداری کے مظاہروں میں حقوق 'عطا' کرنے میں اس قدر مصروف دیکھے جاتے ہیں کہ بے لگام اقلیت سے یہ مطالبہ کرنے کی فرصت ہی نہیں کہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی مطلوب ہیں۔ یا شاید مغربی آقاؤں کا خوف ہے!



عیسائی فرقے شدید اختلافات کے باوجود

اسلامی ممالک میں عیسائیت کے فروغ

کے لئے مل جل کر کام کر رہے ہیں

Islam The False Gospe

"For many years Islam has been regarded a "False Gospel" and Christians have sought to convert Muslims to the only true and living God, by accepting Christianity.

Today, because of a misconception of ecumenism and because of appeasement and syncretism, many Christians follow Islam.

Today there are over 1 billion Muslims. All unsaved, going straight to hell, all because they seek to reconcile and identify Allah who is no God at all, with Yaweh or Jehovah the only true and living God.

There is one God - a triune God - God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It is not $1+1+1=3$, but $1 \times 1 \times 1 = 1$. Islam refers to one god, Allah, who is not God!

Man has freedom of choice. Choose now how you will spend Eternity. Accept Jesus and live! Reject Jesus or choose Muhammad and for ever be consigned to the Lake of Fire. To deny Jesus is to die!!"

(Published by Luckhoo Ministries, P.O. Box 815881 Dallas Texas, 75381 USA.)

خداوند یسوع مسیح کے مقدس لہر پاک نام میں آپ کو آداب سلام۔

آپ کے مریضان خط کے لیے آسمانی خدا ماب کو عزت اور جلال، یسوع نام میں آئین
 آدرہ سے حمد خدا ماب کا شکر گزار رہے کہ آپ نے میں کما آندہ آج یہی سے آپ کے
 نام انتہائی پیش قیمت کتب کا پارس بلا قیمت روانہ کیا جا رہا ہے جو کہ مری ڈاک کے
 ذریعہ 3-4 ماہ کے دوران آپ کو مل سکے گا۔ خدا باپ سے یسوع نام میں دعا کیجیے
 کہ آپ کے نام پر نادر پارس اپنی دشمنی ختم نہ کر دے!

1996 کے لیے Calendar اور سہ ماہی بھی آپ کے نام ارسال کی گئی ہے۔
 آدرہ کی جانب سے جو کہ میں آپ کے لیے روانہ کیا جائے گا وہ بلا قیمت ہوگا اور
 خداوند یسوع المسیح کی عزت اور جلال کے لیے اب کیا جانا ممکن ہو سکے گا!
 فقط اتنے سے التماس کی جاتی ہے کہ شریک شدہ مشالوں سے آدرہ کی کتب احتیاط
 سے رکھی جاسکیں! کیونکہ آدرہ کی کتب میں اسلام اور مسیحیت لاموازنہ پیش کیا جاتا
 اور اسلئے کتب میں بائبل مقدس اور قرآن سے حوالا ت پیش کیے جاتے!
 لیکن درخواست ہے کہ جب آپ کتب کا مطالعہ کر سکیں بعد میں ہی نام کتب
 ان مسلم مہاشوں میں بھیج دی جاسکیں جو راہ حق کے حقیقی منشا میں
 اور یاد کیجیے کہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق صرف خداوند یسوع مسیح ہی حقیقی
 راہ اور حق اور زندگی ہے۔

التماس کی جاتی ہے کہ آپ ہر کتاب کا ذاتی کوشش، قیمت اور دلی خوشی مگر فروری
 سے۔ لغو مطالعہ کرنے ہر کتاب کے آخر میں دیئے گئے سوالات کے جوابات آدرہ کو
 اردو میں ارسال کرنے رہے گا! تاکہ آپ کے لہر آدرہ کے درمیان باہمی تعاون مزید
 بہتر و مضبوط ہو سکے!

آدرہ کے نام *Dear Letter* کے ساتھ حوالہ سے پڑھیں تاکہ آپ حالات
 کی نزاکت کے پیش نظر یہ خطہ سے بچ کر یسوع المسیح کی بابت حقیقی صداقت
 کو جان کر ایمان لا کر ایسے نجات اور ایسی زندگی کے وارث بن سکیں۔
 یہ خطہ میں دل چسپی رکھنے والے مسلم دوستوں کے نام آدرہ کو ارسال کیا کیجیے تاکہ
 آپ کا نام رازداری میں رکھتے ہوئے، بہتر لوگوں کو بھی آداب صداقت کا پیغام
 آدرہ کی جانب سے تحفہ کے طور پر بھیجا جاسکے۔ آپ کی گراں قدر کاوشوں اور دعاؤں
 کے لیے آدرہ تمہیں ہوگا۔ اب آپ کو آداب سلام دعا کو۔ عبدالمسیح

آدرہ

11-12-95

Please write to us on this address:-

The Good Way, Box-66, CH-8486-Rikon, Switzerland

سند تو لیجئے لڑکوں کے کام آئے نا

وہ ”مہربان“ ہیں اب پھر رہیں رہیں نہ رہیں



ہیومن رائٹس اور آزادی نسواں کا فراڈ

مسلمان اپنے آپ کو جتنا بھی لبرل (آزاد خیال) ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنی بے عملی سے اس کا ثبوت بھی فراہم کرتا رہے مگر ہر طرح کے غیر مسلموں کے ایک وہ سب نڈا دشمن نمبر 1 ہی ہے۔ اس اجماع پر سبھی کافر و مشرک متحد ہیں۔ یہ روزِ ن کی طرح عیاں بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس اٹل حقیقت کے باوجود ہے کہ اسلام نے ان جنگ میں تو دشمن کو دشمن سمجھا مگر باقی ہر ایک پر ہر احسان کیا۔ جس کی گواہی مسیحی دیگر مذاہب کے ذمہ داروں نے دی جو تاریخ کا حصہ ہے، خواہ یہ تاریخ کسی نے بھی ب کی ہو۔

یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ کسی سماج و معاشرے نے جو اپنے دین کے تقاضوں کو لک کر اپنی عمومی و خصوصی خواہشات پر استوار ہوا، نوع انسانی کو کسی طرح کے حقوق سے نوازا بلکہ **Might is Right** یعنی طاقت کا نام سچائی قرار پاتا رہا۔ حضرت آدم سے حضرت محمد ﷺ تک جو آفاقی ہدایات امتوں کا مقدر بنیں صرف انہی کی بنیاد پر سماج و معاشرہ حقوق سے روشناس ہوتا رہا اور نبی آخر الزماں رحمۃ اللعالمین ﷺ کو مرتبہ سرورِ عالم پر فائز کرتے وقت جو مکمل و اکمل ضابطہ حیات دیا گیا اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ انسانیت کے حقوق متعین فرمائے بلکہ ہر طرح کی دوسری مخلوق کے حقوق بھی کھول کر بیان کر دیئے گئے۔

انسان مسلمان ہو یا کافر دونوں کے بحیثیت انسان حقوق کا تعین کیا گیا۔ مسلمان و دوزن کے لئے ہر حیثیت میں حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ طے کر دیئے گئے۔ ہر انسان کی جو بھی حیثیت ہے وہ باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے چچا یا ماماں ہے، قریبی رشتہ دار

ہے ماں ہے بیٹی ہے بہو ہے پھوپھی یا خالہ ہے یا بھتیجی و بھانجی ہے کوئی دوسری قر
 عزیزہ ہے ہمسایہ یا ہمسائی ہے گھریلو ملازم یا ملازمہ ہے اہل محلہ میں سے ہے مسافر
 یا ساکن ہے غرض کسی طرح کا انسانی تعلق ہے اس کے حقوق متعین ہیں۔

ملی زندگی میں آجر و اجیر ہوں، صنعتکار ہو یا جاگیردار اور سیاست دان، معلم
 معلم، گاہک ہو یا ملوکانداز ہر ایک کے لئے حدود و قیود کا تعین اسلام نے اپنے آغاز
 ہی بصراحت کر دیا۔ مسلمان ملک میں اقلیتوں کے حقوق بھی واضح طور پر متعین ہیں
 حقوق کے ساتھ آزادی عمل کی اجازت ہے تو کچھ فرائض کی بجا آوری سے بھی یہ مش
 ہیں۔ مادر پدر آزاد حقوق کا تصور کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں۔ مہذب سے ہا
 مراد اخلاق و کردار سے مربوط اقدار والا معاشرہ ہے۔ نام نہاد مہذب ہمارے پیش نظر
 ہیں۔

آج عالمی سطح پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس کا غلغلہ
 عالمی سطح پر ہیومن رائٹس کا شور مچانے والے بالعموم وہ ہیں جو خود حقوق پامال کرنے والے
 ہیں، مثلاً امریکہ، روس اور یورپ عالمی غنڈہ گردی میں ہر کسی کو شہ مات دیئے ہوئے ہیں
 ارضِ فلسطین میں یورپ و امریکہ کی ناجائز اولاد ہو۔ عراق و افغانستان ہو، چینیا ہو
 منڈے ناؤ کشمیر و تیمور ہو یا کوئی اور خطہ وہاں حقوق انسانی کی پامالی میں آپ کو کہیں تنو
 فریق مشترکہ محاذ پر ملیں گے تو کہیں الگ الگ اور کہیں ایک جارج اور دوسرا ”خدمت
 کرنے والا۔“

اسلامی اخلاق و کردار کو تباہ کرنے کے لئے مغرب نے عورت کو استعمال کر
 کا منصوبہ طے کیا تو موسمِ برسات میں خود رو کھبیوں کی طرح ہیومن رائٹس کی بے
 تنظیمیں، غیر ملکی سرمایہ کی بنیاد پر آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے نام پر مغربی تہذیب
 اور خود نمائی کی دلدادہ یا ہوسِ زر کی ماری پاکستانی خواتین کو سامنے بطور ڈھال استعمال
 کے ملک میں پھیل گئیں اور سرکاری اثر و رسوخ، ریڈیو ٹی وی اور تشہیر بلکہ ترغیب کے
 دوسرے ہتھکنڈے کو استعمال کر کے پاکستانی قوم کے اخلاق و کردار کو تباہ کرنے کے در

آزار ہو گئیں۔

کھل اعتماد کے ساتھ ہیومن رائٹس کی چیمپیئن ان بیگمات سے سوال کیا جانا چاہئے کہ وہ عورت کے یا مرد کے ان حقوق کی نشاندہی فرمادیں، اسلام نے جنہیں تحفظ نہیں دیا۔ خصوصاً عورت کے لئے، کارلائل کے الفاظ میں، ”اسلام نے عورت کو جن حقوق سے نوازا ہے، دنیا کے تمام معاشرے مل کر بھی عورت کو وہ حقوق نہیں دیتے۔ (مفہوم)“ جس کا جی چاہے وہ ایسی فہرست مرتب کرنے کی کوشش کر لے۔

اسلام نے صرف مسلم اور غیر مسلموں کے حقوق کا تعین نہیں کیا بلکہ حیوانات، نباتات، چرند و پرند کے حقوق سے انسانیت کو نوازا۔ آج خدا نخواستہ اگر کسی جگہ کسی کے حقوق پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں تو تصور اسلام کا نہیں، اسلام کے نام لیواؤں کا ہے۔ ایکا ڈکا واقعات کس معاشرے میں نہیں ہوتے؟ یورپ ہو یا امریکہ و روس جس طرح وہاں عورت کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اس کا ثبوت وہاں اسلام کے دامنِ رحمت میں لپکنے والی خواتین، عملاً پیش کر رہی ہیں۔ یورپ و امریکہ کی کسی نو مسلمہ سے سوال کریں کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اسلام بحیثیت عورت ہمارے حقوق و فرائض اور تشخص کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں مٹھی بھر مغرب زدہ خواتین ملکی اکثریت کو دم کٹی لومڑیوں کے گلے میں بدلنے کے لئے کوشاں ہیں کہ وہ مغرب کا نمک حلال کر سکیں۔ کاش ہم اسلام کی حقیقی برکات و فیض سے متمتع ہو سکتے اور کسی کو حقوق کے نام پر قوم کو ورغلانے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ اس کمی کا سبب ہمارے علماء و سیاستدان ہیں۔ کاش یہ اہمیت جان سکتے۔

☆.....☆.....☆

یہ کوئی دن کی بات ہے، اب مرد ہوشمند!
غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی
آتا ہے وہ دوز کہ اواد سے بوس
کونسل کی ممبری کے لئے ووٹ چاہے گی

تیل کا ہتھیار..... شاہ فیصل سے یہود تک

پرانی ضرب المثل ہے ”تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو“ مگر آج کل یہ ضرب المثل بدل کر ”تیل دیکھو تیل کے کھیل دیکھو“ ہو گئی ہے اور تیل کے کھیل دکھانے والا مداری سونے کا مالک یہودی ہے جس کا بچہ جمورا امریکہ ہے اور جس کی ڈگڈگی آئی ایم ایف اور دیگر عالمی ادارے ہیں۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ میں نے تیل کے مالک مسلمانوں کا نام ہی نہیں لیا اور سب کچھ تعصب کی بناء پر دشمن کے سر تھوپ دیا۔

”تیل کے مالک“ جن میں اکثریت مسلمان کہلوانے والوں کی ہے شاہ فیصل شہید کے ساتھ ہی وفا پا گئے تھے کہ ان کی زندگی میں تیل پیدا کرنے والے مسلمانوں نے یہود و نصاریٰ کا زور توڑنے کے لئے اسی تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ فیصل مرحوم کی آواز پر لبیک کہتے یک جہتی کا ثبوت دیا تھا و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً پر عمل کی مثال قائم کی تھی جس کے سبب یہود و نصاریٰ بلبلا اٹھے تھے۔

آج تیل کے ان نام نہاد مالکوں کے اصل مالک سونے کے مالک ہیں اور یہ ”حقیقی مالک“ محض کٹھ پتلیاں ہیں کہ یہود و نصاریٰ کے اشارہ ابرو پر ناچتی ہیں۔ یہ محض الزام نہیں زمینی حقائق اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اوپر سے اشارہ ملتا ہے تیل کی پیداوار بڑھا دو نرخ کم کر دو کہ ہم سٹور کر لیں نام نہاد اوپیک بندہ بے دام بنی عمل کرتی ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ پیداوار کم کر دو نرخ بڑھا دو کہ ہم اس ہتھیار سے ترقی پذیر ممالک کو زیر بار کریں گے۔ اپنوں کی فکر اس لئے نہیں کہ سستے زمانے کا سٹور کیا تیل ہم اپنوں کو فراہم کریں گے۔

ہماری اس بات کو بھی مسلمان حکمرانوں کی توہین نہ سمجھا جائے کہ بلا خوف تردید و مدہنت یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں اور زمانہ اس پر گواہ ہے کہ یہ حکمران اپنا ضمیر و حمیت یہود و نصاریٰ کے ہاں گروی رکھ چکے ہیں۔ مصر ہو یا اردن ہو کویت ہو یا سعودیہ یا سر عرافات ہوں یا سلطان قابوس وغیرہم اپنے حقیقی آقاؤں کی مرضی و منشا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ بصارت موجود بصیرت غائب ہے۔

اپنی بات کی صداقت کے حوالے سے یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ امریکہ مسلمہ اور مصدقہ طور پر یہود کی فوج کا ہراول دستہ ہے۔ 1789ء سے 1993ء تک امریکہ کے 17 صدور باضابطہ یہودی تنظیم فری میسنز کے رکن رہ چکے ہیں (بحوالہ فری میسنری بشریحہ صفحہ 316)۔ امریکی کرنسی کے استحکام پر عالمی سطح کی گارنٹی ڈالر پر ستاروں کے جگمگنے کی شکل میں چھ کونہ ڈیوڈ سٹار اور یہودی تنظیم کی آنکھ کی شکل موجود ہے اور ربع صدی پہلے یہی چھ کونے والا یہودی ڈیوڈ سٹار اومان کے کرنسی نوٹ پر بھی تھا جسے بعد ازاں ختم کر دیا گیا۔

جس تیل کے ہتھیار کو شاہ فیصل شہید نے استعمال کر کے شہادت پائی وہی ہتھیار آج سونے کے مالکان کے قبضہ میں ہے اور وہ آئی ایم ایف کی Structural Adjustment کے ذریعے ترقی پذیر ممالک خصوصاً مسلم ممالک کو معاشی طور پر ٹڈیالی کر کے اندرونی بے چینی اور خلفشار پیدا کر کے اپنے تربیت یافتہ اور پالتو حکمران مسلط کر کے ان پر اپنی حکمرانی کے خواب کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں۔

اپنی مرضی کے حکمران مسلط کرنے کی بات ثابت کرنے کے لئے ہم اپنے ہی ملک سے مثال سامنے لاتے ہیں اور وہ بھی ماضی بعید سے نہیں ماضی قریب سے اگرچہ ہماری 53 سالہ تاریخ ہی ماسوائے چند مستثنیات کے اس پر گواہ ہے۔ ماضی قریب کی مثال جناب معین قریشی کا امریکہ سے بطور وزیراعظم ورود مسعود تھا۔ ویسے آج بھی ہماری ”تقدیر“ انہی کے ہاتھوں میں ہے جو ”انہی“ کے بھیجے ہوئے ہیں۔

سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ جس کی برق اہل وطن پر اکثر گرتی ہے اور حکومتی اطلاعات میں بیان کردہ ”مجبوریوں“ کے سبب جس کے مستقبل میں مسلسل گرتے رہنے کی خوشخبری میڈیا سنا رہا ہے اسے درج ذیل اقتباس میں ملاحظہ فرمائیے:

”عالمی بینک اور عالمی مالیاتی ادارہ (World Bank and IMF) بھی دوسرے بینکوں کی طرح اپنی قرض پر دی ہوئی رقم سود سمیت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دوسرے بینکوں کے برعکس یہ دونوں ادارے اپنی بے شمار شرائط بھی منواتے ہیں جن کا مقصد حکومتوں کو دی گئی رقوم عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے اسے ساختیاتی ردوبدل (Structural Adjustment) کہتے ہیں۔ اس سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں غریب، غریب تر اور امیر، امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ ان شرائط میں درج ذیل بعض یا تمام تر شرائط شامل ہیں:

(۱) پٹرول، بجلی، پانی اور گیس سمیت عام استعمال کی تمام اشیاء پر بھاری ٹیکس لگا دیئے جائیں اور تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ہر چیز کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں جس سے مقررہ (محدود) آمدنی والے طبقہ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ (یہ سب کچھ اہل وطن عملاً ’انجوائے‘ کر رہے ہیں)

(۲) بڑے بڑے کاروباروں پر ٹیکس عائد نہ کیے جائیں اور انہیں مزید رعایتیں دی جائیں اور یہ حرکت صنعتی سرمایہ کے نام پر کی جائے۔ بعض اوقات امیروں اور نجی شعبے پر ٹیکسوں کے نفاذ پر کمی جاتی ہے۔ (یہ بھی عملاً اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے عوام و خواص گواہ ہیں)

(۸) مقامی کرنسی کی قدر میں کمی (Devaluation) کی جائے (اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر ملکی خریداروں کو اپنی رقم کے عوض زیادہ مال ملتا ہے اور مقامی لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں)۔ (یہ بھی گذشتہ ہر دور میں ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے)“ (بحوالہ ”وہ“ دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں یا ”ہم“ غریب کیوں ہیں؟ عالمی معیشت از نجمہ صادق، شرکت گاہ لاہور، صفحہ 15)

ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی شاخیں آکٹوپس کے بازوؤں کی طرح ہر چھوٹے بڑے ملک میں ہیں اور شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو ان کے سودی قرضوں کے جال میں نہ پھنسا ہوا ہو کہ جو امیر ترین ممالک ہیں اور قرض ان کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی انہوں نے اپنی زر خرید اور ضمیر فروش بیورو کریسی کے ذریعے قرضوں کی چاٹ حکمرانوں کو لگا کر اپنے دام میں پھنسایا جس کی شہادت وہ خود دیتے ہیں:

”.....جب سے ہم نے اپنے زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے غیر ملکی خارجی قرضوں کی چاٹ لگائی ہے تو غیر یہود کے تمام تر سرمایہ نے ہماری تجوریوں کی راہ دیکھ لی ہے.....“ (Protocols,) (20:32)

مذکورہ تفصیلی اور اقتباسات کی روشنی میں آج عالمی سٹیج پر کھیلے جانے والے ”تیل کے کھیل“ کا جائزہ لیجئے آپ کو ہر جگہ ہر ملک میں ہر کردار ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی انگلیوں پر پتلیوں کی طرح ناچتا نظر آئے گا۔ ”تیل کے مالک“ ”سونے کے مالک“ کے اشارہ ابرو کو سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہر جگہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی راز کی بات نہیں ہے کہ سونے کے مالک صرف اور صرف یہود ہیں کہ عالمی سطح پر تین چوتھائی سونا ان کے پاس ہے تو ایک چوتھائی باقی دنیا کے پاس۔

”سونے کے مالک“ آج اچانک پیدا نہیں ہو گئے یہ نسلوں کی سوچ، منصوبہ بندی اور عملی سعی و جہد کا ثمر ہے۔ ولیم گے کر کی تحقیق یہ ہے کہ:

”ایک یہودی ساز، اشل موزر بوٹر 1750ء میں جرمنی میں آباد ہوا۔ اس نے اپنی دکان کے سامنے ”سرخ ڈھال (Red Shield) کا بورڈ لگایا۔ چار سال بعد وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے اشل میسر راتھ شیلڈ نے بورڈ کے مذکورہ الفاظ کو جرمن متبادل Roth Shield کے ساتھ (House of Roth Shield) بدل دیا۔ 1812ء میں وہ بھی وفات پا گیا۔ اس کے پانچ بیٹوں میں سے ناٹھن ذہین تھا جس نے 21 سال کی عمر میں بنک آف انگلینڈ کو کنٹرول کر کے باپ اور بھائیوں کے تعاون سے یورپ میں ایک خود مختار بین الاقوامی بنک قائم کرنے کا منصوبہ سوچا۔“

میسر راتھ شیلڈ نے 1773ء میں جب اس کی عمر 30 سال تھی فرینکفورٹ میں 12 بااثر یہود امراء کو جمع کیا اور انکے سامنے عالمی سطح پر دولت، قدرتی ذرائع اور انسانی طاقت کو کنٹرول کرینکا منصوبہ پیش کیا۔“ (بحوالہ (Pawns in the Game) ولیم گے کر) دنیا پر قبضہ کرنے کی یہودی سازش، ترجمہ کرنل (ر) محمد ایوب)

عرب حکمران جنہیں اللہ تعالیٰ نے سونے اور سیال سونے (تیل) کی بے پروا دولت سے نوازا تھا اور جو کسی طرح بھی قرض کے ضرور تمند نہ تھے باوجود فرمان الہی کے یہود و نصاریٰ کی چالوں کو نہ سمجھ سکے۔ جن کی دوستی سے ان کے خالق نے منع فرمایا تھا ان سے دوستی ہی نہیں کی بلکہ انیں مرہی و محسن کے درجہ تک اٹھالے گئے۔ اپنا سرمایہ ان کے بنکوں میں رکھا کہ وہ اس سے سود کما کر اسے کئی گنا بڑھائیں پھر انہی کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سود کے تیندے سے جکڑیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب چاہیں سزا دیں اور مالی طور پر مفلوج کرنے کے لئے بنک اکاؤنٹ منجمد کر دیں جیسا کہ ماضی میں لیبیا

ان اور عراق وغیرہ کے ساتھ ہوا اور آج افغانستان زد میں ہے۔

”تیل کے مالک“ آج سٹرپچرل ایڈجسٹمنٹ کے پھندے میں پھنسے IMF اور
 ڈبلیو کے حکم پر تیل کی پیداوار میں کمی، تیل کی پیداوار بڑھاؤ پر عمل کرنے پر مجبور ہیں
 آج کوئی شاہ فیصل ان میں موجود نہیں ہے۔

تیل کے اس کھیل کے بد اثرات سے جہاں ترقی پذیر ممالک پریشان ہیں وہاں
 ترقی یافتہ بھی سکھی نہیں کہ ان کے معاملات و مسائل بھی اس اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتے
 ہیں اور پیداوار کی کمی بیشی سے قیمتوں کے مد و جذر کو جب تک ایک عرصہ کے لئے ایک ہی
 سطح پر برقرار نہ رکھا گیا اس وقت تک یہ صورت حال اسی طرح پریشان کن رہے گی اور
 سونے کے مالک ہمیشہ اس عدم استحکام کے لئے کوشاں رہیں گے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان جو زرعی اور معدنی معیشت اور اسی بنیاد پر صنعتی معیشت
 کے لحاظ سے خود کفالت سے بہت قریب تھا اور سونے کے مالکوں کا محتاج بھی نہ تھا
 گذشتہ 53 برسوں سے بتدریج اسے IMF اور ورلڈ بینک یا اس کے دیگر حواریوں کے
 اس گروہی رکھا گیا۔ اب نجکاری کے نام پر وطن فروشی کر کے وطن کے قرضے ادا کرنے کا
 عزم ہے اور یہ قرض سب کچھ فروخت کر کے بھی ادا ہوتا نظر نہیں آتا۔ نجکاری کا
 جال بھی IMF کی Structural Adjustment کا حصہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

(۵) ”سرکاری شعبے میں خدمات کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا
 جائے۔ حکومت صرف لازمی اشیاء یا خدمات اس قیمت پر فراہم کر
 سکتی ہے جو غریبوں کے لئے قابل قبول ہو۔ نجکاری کا نتیجہ یہ نکلا
 ہے کہ غریبوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔“
 (آئی۔ ایم۔ ایف کی شرائط کا مختصر) (”وہ“ دنیا کو کیسے چلا رہے
 ہیں یا ”ہم“ غریب کیوں ہیں۔ عالمی معیشت از نجمہ صادق، شرکت
 گاہ لاہور، صفحہ 15)

تیل کی قیمتوں کا ہر تین ماہ بعد بڑھنا، بلکہ 20 جنوری کے اوصاف میں وزیر خزانہ شوکت عزیز صاحب کے فرمان کے مطابق آئندہ ہر ماہ تیل اور اس کی مصنوعات کی قیمتوں کا تعین زیر غور ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں عدم اطمینان کی فضا قائم رکھنا خارجی آقاؤں کی طے شدہ پالیسی ہے کہ یہی تیل، پنجابی ضرب المثل کے مطابق اگر قوم کو دیا جائے گا تو یہ ٹڈھال ہو کر کسی بھی ”طے شدہ آقا“ کے قدموں پر لوٹے گی اور یوں اس کی زندگی کی خواہش روٹی کے ٹکڑے پر ایمان کا سودا کر لے گی۔

تیل کی قیمت میں اضافہ سے واپڈا کو بجلی مہنگی کرنے کا جواز مل رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہے، مٹی کا تیل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ سے ٹریکٹر سے کاشت اور ٹیوب ویل سے سیرابی مشکل ترین صورت حال پیدا کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ غریب کی چکی تو آزادی نسواں نے چھین لی۔ اب چکی کا آٹا، تیل کے نرخوں میں اضافہ کے سبب پسائی کے بڑھتے نرخ چھین لیں گے کہ جتنی رقم کی گندم ہوگی اتنی ہی کم و بیش پسائی مل جائے، گویا غریب دونوں پاٹوں کے درمیان پے گا۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تینا کے کھین ہار بھرت سے اس قدر عاری ہوں گے، تاریخ نے شاید کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ہوس زر کے مارے چند روزہ پرتعیش زندگی کے لئے پوری قوم کو غربت کے عمیق گڑھے میں پھینک کر اپنے اپنے دور میں اس پر مٹی ڈالنے کو پہنچتے رہے (کہ کہیں یہ قوم اس گڑھے سے باہر نہ نکل آئے) مگر کسی نے پہلے کے انجام سے سبق سیکھ کر اپنا قبلہ درست کرنا مناسب نہ سمجھا۔

قوم کے پتے رہنے سے امراء کے طبقے کی عدم دلچسپی کا ایک سبب وسائل اور آسائشوں کی فراوانی اور بعد بھی ہے مثلاً سیکرٹری دفاعی ہو یا صوبائی CBR کا سربراہ ہو یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان یا افواج پاکستان کے سربراہ، سالانہ تنخواہ لاکھوں میں ہے، بنگلہ، کاریں، ملازمین کی فوج ظفر موج ہے، بجلی، ٹیلیفون اور گاڑیوں کا پٹرول سب سرکاری اور اگر مل جائے تو کمشن بھی خواہ یہ دفاعی سودوں پر ہی کیوں نہ ہو، انہیں ”غریب

کو ملنے والے تیل“ کے اثرات کا ادراک ہی نہیں ہے۔

مذکورہ طرز کے افسران کے مقابلے میں افواج پاکستان کے صوبیدار میجر کی سطح تک کے جوان سول کے عام ملازمین مثلاً 16 گریڈ سے نیچے کے سول جج ہوں یا دیگر حکمہ جات کے ملازمین ذرا ان کی تنخواہوں اور آسائشوں کا موازنہ کر دیکھیں پھر اس سے مزید خلی سطح مزدور چڑھائی پٹواری سپاہی اور کلرک حضرات جن کی زندگی ہی تیل کے گرد گھومتی ہے خواہ یہ تیل چولہے یا لیمپ کے لئے ہو سفر کی صورت میں یا واپڈا کی بجلی کے کھوتے بلب اور پنکھے کی شکل میں ہو ہر انداز میں ”تیل“ ہی غریب کا مقدر ہے۔

زرعی معیشت میں انقلاب کے دعویداروں نے زراعت کو بھی ”تیل“ سے نوازا کہ آج 19 روپے لٹر تیل لے کر ٹریکٹری اکیڑ مل کا معاوضہ 125 روپے اور ٹیوب ویل سے پانی پر خرچ پہلے سے ڈیڑھ گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ موہل آئل جو ہر انجن کی بنیادی ضرورت ہے کم و بیش 110 روپے لٹر ہے یہاں تک کہ ”فیصل آباد کی فیکٹریوں کا تیار کردہ“ بھی 100 سے ذرا کم پر دستیاب ہے۔ ایسے حالات میں خصوصاً جب نہری پانی بھی دن بدن کم ہو رہا ہے زرعی انقلاب کا خواب دیکھنا احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ عراق کا ڈرامہ رچا کر ”سونے کے مالکان“ نے اسرائیل کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ فیصل شہید کے آئل ایمبارگو کا بدلہ یوں چکایا کہ مستطاع عربوں کے تیل پر قابض ہو کر انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔

تیل کا یہ کھیل آج اچانک ہی نہیں کھیلا جا رہا۔ کھلاڑیوں نے برسوں اس کی منصوبہ بندی کی ہے، ٹیم تشکیل دینے میں وقت اور عقل صرف کی ہے اور اس ’مخت کا پھل‘ آج ان کا مقدر ہے جس پر وہ بجا طور پر نازاں ہیں کہ وقت اور عقل تیل کے مالکوں کو نفع نہ دے سکے۔ ہم اپنے محترم بھائیوں کی تیل جن کی سر زمین میں ہے اور جو کبھی اس دولت کے حقیقی مالک تھے، تنقیص نہیں کرتے بلکہ دکھی بدل سے حقائق ریکارڈ پر لانے پر مجبور ہیں۔ بصیرت کا سرمایہ تیل کے سرمایہ تلے دب نہ جاتا تو صورت حال یقیناً یہ نہ ہوتی۔

فیصل شہید کے آئل ایمبارگو (Oil Embargo) کی تلخی نے یہود و نصاریٰ کو اس منصوبہ بندی کی جہت دی کہ تیل پر پُر امن قبضہ کو کیسے ممکن بنایا جائے اور سلامتی کو لاحق خطرات سے کیسے بچا جائے۔ اسرائیل کی سلامتی کہ قریب ترین دو ریاستوں سے زیادہ خطرہ تھا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی باجگذار بننے پر آمادہ نہ تھیں جبکہ اردن کا شاہ عملاً امریکہ کی جھولی میں بیٹھا تھا لہذا منصوبہ یہ طے پایا کہ پہلے ان دو خود سروں کے باہم سینگ پھنسائے جائیں کہ افرادی اور اسلحہ کی قوت برباد ہو اور دوسرے عرب عرب تعصب کی بنا پر عراق کو جو مدد دیں وہ اسلحہ کی فروخت سے ہماری تجوریوں میں آ جائے گی اور اس جنگ میں ایران کی تیل کی تنصیبات کی تباہی پر زیادہ توجہ دی جائے۔ ایران اور عراق کی تباہی سے اسرائیل محفوظ ہو جائے گا۔

دوسری جہت یہ تھی کہ تیل کا معقول ذخیرہ ایک ہی خطہ میں ہے یہ عراق، کویت، سعودیہ اور امارات ہیں۔ اگر اس کے وسط میں ڈیرے ڈالنے کا موقعہ میسر آ جائے تو ”تیل کے مالک“ خواہ بدو ہی رہیں مگر عملاً ملکیت اور اجارہ داری ہماری ہوگی کہ ہم جو چاہیں گے ان سے منواتے رہیں گے۔ یہ کام ہم محسنوں کے روپ میں کریں گے۔ عرب باجگذار بھی ہوں گے احسان مند بھی ہوں گے اور ہمارے مقروض بھی رہیں گے۔ چنانچہ اپنے منصوبہ کے لئے صدام حسین کو امریکی سفیر خاتون کے ذریعے مہرہ بنا کر کویت پر حملہ کروا دیا اور کویت یا سعودیہ کے مدد کے لئے پکارنے سے قبل ہی محسن بن کر مدد کو آ گئے اور 43 دن تک عراق پر راکٹ، میزائل اور بموں کی ”بارش برسا کر“ بل کویت اور سعودیہ سے وصول کئے۔ اپنی گرتی معیشت کو آئندہ ربح صدی تک کے لئے سنوارنے کے ساتھ ساتھ عربوں کے خرچ پر اسرائیل کا اسلحہ خانہ جدید اسلحہ سے بھر دیا۔

عراق پر 43 روزہ جنگ مسلط کیے رکھنے کے ثمرات کی کشش کہ دوبارہ عراقی حملے کا ہوا کھڑا کر کے کویت اور سعودیہ میں مستحکم ڈیرے ڈال دیئے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تیل کے ذخائر بھی انہی چھاؤنیوں کے علاقہ کے ساتھ ہیں۔ عراقی تیل پر پابندی ہے اور اس پابندی کے تیل کے بدلے فوائد صرف امریکہ اور برطانیہ کا مقدر ہیں اور امریکہ ہو

یا برطانیہ دونوں فی الاصل یہود ہی ہیں۔

امریکہ و برطانیہ کی مسلح افواج کے خطہ عرب میں موجود دستے، محافظ کم ہیں اور حاکم زیادہ ہیں کہ تیل کے مالک ان ممالک کی مرضی کے مطابق اوپیک کے دوسرے ممالک کو بھی اپنی رو میں بہا لے جاتے ہیں اور یوں یہ خارجی آقا تیل کے حقیقی مالک بن بیٹھے ہیں۔ مالدار عرب خلیج کی جنگ (عراق و ایران) اور عراق کویت جنگ کے محسنوں کے بل ادا کرتے ان کے احسان کے سبب سودی قرضوں کے بوجھ تلے دب کر اب کنگال ہو چکے ہیں اور تیل کے یہ کھلاڑی انہیں کنگال رکھ کر اپنی تجوریاں بھرنے کے لئے IMF وغیرہ کے ذریعے نئی شرائط منوار ہے ہیں جن میں کبھی زیادہ تیل پیدا کرنا ہے تو کبھی کم تیل پیدا کرنا ہے اور اسی سے دوسرا فائدہ یہ حاصل کیا جاتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے عوام کی زندگی اجیران بنا کر ان کی حکومتوں کے خلاف عوامی نفرت کا بیج بویا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں حکومت عدم استحکام کا شکار رہتی ہے اور یہ شکاری حکومتی استحکام کے نام پر اپنے ایجنٹ ماہرین کے بھیس میں وہاں فٹ (Plot) کر کے اپنے ہدف عالمی سطح کے اقتدار کی رہا ہموار کرتے ہیں۔

تیل کا یہ کھیل کب تک کھیلا جاتا رہے گا ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی ماہر کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف اور صرف قرآن حکیم میں بیان کردہ اللہ وعدہ لاشریک کے نسخے میں ہے کہ ”یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو سب مل کر دین کی رسی کو تھام لو اور ایک دوسرے کا سہارا بنو۔“ جسے علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا تھا:

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لے کر تابناک کاشغر

ایمان و اخلاص کی قوت سے سرشار حکمران اور عوام اگر ملکی سرحدوں سے ماورا مصلحتوں کو پس پشت ڈال کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نصرت کا وعدہ برحق ہے۔ پھر یہی لوگ ہر چیز کے حقیقی مالک ہوں گے۔ بحسبیت اللہ تعالیٰ

گل گنچیں میں اعلیٰ مکمل کارکردگی کے لیے



پندرہ روزہ کے ادارہ کے لیے
مکمل کارکردگی کے لیے
پندرہ روزہ کے ادارہ کے لیے
مکمل کارکردگی کے لیے

حکومت نے آئی ایم ایف
اور ورلڈ بینک کی غلامی
کا اعتراف کرنا ہے

پندرہ روزہ کے ادارہ کے لیے
مکمل کارکردگی کے لیے
پندرہ روزہ کے ادارہ کے لیے
مکمل کارکردگی کے لیے



خوب ہے تجھ کو شعارِ شرب کا پاس ☆ کہہ رہی ہے زندگی تیری تو مسلم نہیں
جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا ☆ اے سلیمان! تیری غفلت نے گنویا وہ نگیں!
وہ نشانِ سجدہ جو روشن تھا کوب کی طرح ☆ ہو گئی اس سے اب نا آشنا تیری جبین!
دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا ☆ وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفریں
تیرے آبا کی نگہ بجلی تھی جس کے واسطے ☆ ہے وہی باطل تیرے کا شانہ دل میں مکیں
غافل! اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر ☆ نغمہ زن ہے نور معنی پر کلیم نکتہ ہیں

ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات!

مزدور جس کو اسلام نے عظمت بخشی، جس کے وقار میں نبی رحمت ﷺ نے خود مزدوری کر کے اضافہ فرمایا، آج قدم قدم لمحہ استحصال کا شکار ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مفلسی اس کا طے شدہ مقدر ہے۔ ہر دور کے حکمران نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مزدور کی زندگی میں انقلاب کی خوشخبری سنائی جو عملاً اس دور میں مزدور کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔

اسلام کے نام پر لئے گئے آزاد وطن میں مزدور کے گھر ڈھب سے چولہا نہ جلے، مزدور کے بیوی بچے ڈھب کا لباس اور تعلیم کی شکل نہ دیکھ سکیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قصور اسلام کا ہے یا اسلام کے نام لیواؤں کا اور اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے اغیار کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اسلام زمانے کے بدلتے تقاضوں کا ساتھ دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ (العیاذ باللہ)

اسلام کا تعلق کسی مخصوص دور سے نہیں ہے، سینہ دھرتی پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کی فلاح کے لئے جو طریق زندگی طے کر دیا گیا تھا اسی کا نام اسلام ہے، جنہوں نے اسے اپنے اپنے نبی کے دور میں تسلیم کر لیا تھا وہ مسلم تھے، مسلمان کہلائے اور قیامت تک کے لئے اسلام ہی طریق زندگی قرار پایا کہ اس میں ہر دور کے تقاضے پورے کرنے کی اہلیت ہے۔

ہم دعوے سے یہ کہنے میں کہ اسلام ہر دور کے تقاضوں کا حل ہیں کرتا ہے، اس لئے حق بجانب ہیں کہ اسلام کا بانی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ انسان کا خالق ہے جس نے

انسان کو بڑی پیچیدہ اور مربوط مشینری کے ساتھ داعیات و جبلتوں کے ساتھ اور اقتدار حاجات کے ساتھ اس دھرتی پر ایک سماج و معاشرہ کی صورت میں بسایا۔ اس سے بڑھ کر انسان کو کون جان سکتا ہے۔

انسانی ہاتھوں سے مکمل ہونے والی مشینری اسی وقت مطلوبہ کام دینے میں رہتی ہے جب ہم اسے بنانے والے کی ہدایات سے بے نیاز ہو کر چلاتے ہیں۔ یہی خالق کی ہدایات سے انحراف کے نتیجے میں ہمیں عملی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور بجا اس کے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے اس صورت حال کی اصلاح پر توجہ دیں ہم اس نظام کو سنا شروع کر دیتے ہیں۔

انسانیت کی عملی راہنمائی کے لئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام صرف اسی لئے مبعوث ہوئے کہ ربانی تعلیمات سے وقتی نفسانی خواہشات کے انحراف (de-railment) کو درست کر کے عملی زندگی کی گاڑی کو پٹری پر رواں دواں کر دیں اور نبی آخر الزماں ختم الرسل ﷺ کو آخری مکمل و اکمل اور مدلل کتاب ہدایت کے ساتھ بھی اسی غرض کے متعین فرمایا گیا۔

بغاوت کا عنصر انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے۔ اسلام کے نظام زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی رسالت کی نئی کہی تو اسی پر بس نہیں کی بلکہ دشمن بن کر قدم قدم اور لمحہ لمحہ دشمنی کا حق ادا کرتے پائے گئے۔ یہ دشمنی کئی گنا بڑھ گئی جب انہیں خطہ عرب سے نکالا گیا۔

اسلام دشمن یہود و نصاریٰ نے عالمی سطح پر اقتدار اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لئے جو منصوبہ بندی کی اس میں انہوں نے ”جنگ“ کے کئی محاذ چنے ان محاذوں میں سے ایک موثر ترین محاذ معاشرے کی اہم اکائی (King Pin) مزدور ہے۔ مزدور پر عالمی کنٹرول کا جو منصوبہ طے کیا گیا اسے اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان میں جس طرح زور عمل لایا جا رہا ہے مندرجہ ذیل اقتباسات کے آئینے میں دیکھیے:

”غربت ہمارا ہتھیار: غلامی اور بے گار کی زنجیروں سے بڑھ کر ہندو مشقت غربت نے عوام کو جکڑ رکھا ہے۔ ان سے (غلامی اور بے گار سے) وہ کسی نہ کسی طریقے سے رہائی پاسکتے ہیں مگر غربت کے تیندوے سے کبھی چھٹکارا ممکن نہ ہوگا۔ ہم نے دستور میں ایسے حقوق کا ذکر کر رکھا ہے جو اصل (حقوق) نہیں محض دکھاوے کے ہیں۔ یہ مبینہ ”انسانی حقوق“ صرف تصوراتی ہیں جن کا عملی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، مثلاً پرولتاری مزدور کے لئے یہ دوہری مشقت ہے اس کی زندگی کو جہنم بنانے کا سبب ہے.....“

(Protocols, 3:5)

”غیر یہود کی صنعت کو ہم سٹہ بازی کے ذریعے تباہ کرنے کے ساتھ تعیشات کو ہم فروغ دیں گے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ہم پہلے ہی اقدامات کر چکے ہیں اور تعیشات کی ہوس اب ہر چیز کو ہڑپ کر رہی ہے۔ مزدوروں کی اجرت اس انداز سے بڑھے گی کہ ان کی ضروریات اس سے پوری نہ ہو سکیں کیونکہ اس کے ساتھ ”نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز“ پر عمل کر کے قیمتیں بھی بڑھائیں گے.....“

(Protocols, 6:7)

”غیر یہود ہماری منصوبہ بندی کی تہہ تک نہ پہنچ سکیں گے اور نہ ہی وقت سے پہلے یہ ان کے خواب و خیال میں ہوگا۔ ہمیں اپنی منصوبہ بندی کو ان سے چھپانا ہے۔ اس پر مزدور طبقہ سے خیر خواہی کا پردہ ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں کو پردہ راز میں رکھنا ہے جس کے لئے دشمن سیاسی نظریات کے نام پر بڑی شد و حد کے ساتھ پراپیگنڈہ کر رہا ہے۔“ (Protocols, 6:8)

”یہ نفرت معاشی بحران کے سبب کئی گنا بڑھ جائے گی جس کے نتیجے

میں شاک آپٹج ٹھپ ہو جائیں گے اور صنعت مفلوج ہو جائے گی۔ ہم سونے کی چمک اور اپنے معروف خفیہ ہتھکنڈوں کے ساتھ مخصوص ہاتھوں کے ذریعے عالمی معاشی بحران پیدا کریں گے اور یورپ کے تمام ممالک میں مزدوروں کے جتنے سڑکوں پر لائیں گے جو نہ صرف سرمایہ داروں کا سرمایہ لوٹیں گے بلکہ ان کا خون بھی بہائیں گے۔ انہی کا خون جن کو بڑی سادگی اور شائستگی کے ساتھ وہ پالتے تھے۔“ (Protocols, 3:11)

مذکورہ تیسرے اور آخری اقتباس سے بعض احباب یہ سوچ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب تو یہود کی ”یورپ فتح کرنے“ کی منصوبہ بندی ہے، اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر منطبق کرنا سراسر زیادتی بلکہ عملی بددیانتی ہے مگر یہ محض سطحی سوچ ہے کہ یورپ تو ایک صدی قبل یہود فتح کر چکے، کیمونسٹ ان کے اپنے ہیں اور الکفر ملتہ واحدہ کے مذاق تینوں کا متفقہ دشمن اب معروف اسلام ہے اور ملت مسلمہ میں سے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ یہاں کے عوام میں یہود کے خلاف نفرت کی چنگاری زیادہ دور سے نظر آتی ہے۔

ان اقتباسات کو بہ نظر غائر ایک بار پھر پڑھیے اور گذشتہ نصف صدی کے دوران مزدور و صنعتکار کے تعلقات اور معاشی بحران میں مسلسل اضافے کی تاریخ کو ذہن میں گھمائیے، آپ کو یہ اقتباسات خود بخود حالات و واقعات پر منطبق ہوتے نظر آئیں گے۔ ہر طرح کے اقتصادی و معاشی بحرانوں کا مرکزی کردار ”مزدور“ ہوگا۔ صنعتکار یا سرمایہ دار نے کبھی اس کی ذمہ داری قبول نہ کی۔

مذکورہ منصوبہ بندی کے خالقوں نے اپنے اہداف کی تکمیل کے لئے اقوام متحدہ بنوائی اور پھر اس کے ذیلی ادارے جن میں سے ایک آئی ایل او (International Labour Organisation) ہے جس کے ذریعے مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ مزدور لیڈر بنائے اور خریدے جاتے ہیں کہ ”سونے کے مالک“ اس بات پر ایمان

رکھتے ہیں "سونے کی چمک" اور "لیڈری کی ہوس" کے سامنے ایمان نہیں ٹھہرتا (الا ماشا اللہ) بہت سے لیڈروں کا ماضی کھنگال لیں نیچے سے یہی غلاطت نکلے گی۔

علامہ اقبالؒ نے مزدور کی ایسی ہی حالت سے متاثر ہو کر غالباً یہ پیغام دیا تھا کہ: (سرمایہ و محنت سے چند اشعار)

بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے
 خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیغام کائنات
 اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر
 شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات!
 کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لئے
 سکر کی لذت میں لٹوا گیا تقد حیات
 مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
 انہجائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات

وثنائتِ یہودیت سے دیئے گئے اقتباسات فلسفی شاعر کے اس پیغام کے ساتھ ملا کر ایک بار پھر پڑھیے اور مزدور کی حالتِ زار پر کڑھیے کہ شاید چارہ گروں کی عقل و دانش کا ماتم کرتے کڑھنا ہی اس قوم کا مقدر ہے جس نے ذاتی عیش و طرب کی بقا کے لئے یہود کے مضبوط قلعوں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یا لندن پیرس کلب وغیرہ کے اندر گروی غلام بنا کر قوم کو مہجوس بنا رکھا ہے اور ان قلعوں کے دربان نصاریٰ ہیں تو معاون محافظ ضمیر سے عاری حب الدنیا کے مارے نام نہاد مسلمان کہلوانے والے ہیں۔

یہودی سونے کے مالکان کے ذیلی ادارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اپنے مہروں کے ذریعے غریب مٹاؤ پروگرام پر کس طرح عمل کر رہے ہیں اس کی تازہ ترین مثال بجلی پٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کی 'عیدی' ہے جو حکمرانوں نے قوم کی جھولی میں ڈالی ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرمایہ دار اور جاگیردار گھرانے اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ گنے نہ جا سکیں۔ دوات کا ارتکاز ہزاروں یا لاکھوں گھرانوں میں ہے تو غربت کا ارتکاز کروڑوں کا مقدر ہے۔ یہ ب مزدور ہیں، کوئی زرعی مزدور ہے تو کوئی صنعتی مزدور ہے۔ چھوٹے ملازمین ہوں یا چھوٹے تاجر اپنے اپنے دائرہ کار میں کبھی مزدور ہیں اور غربت ان کا مقدر ہے، عیش ہے تو سرمایہ دار کی، جاگیردار اور صنعتکار کی، کارخانہ دار کی جس کے متعلق نصف صدی قبل علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا:

کارخانے کا ہے مالک مردکِ ناکرہ کار
عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار
حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار

مگر عملاً جب انہیں دیکھنے کو مختلف صورت حال ملی تو برملا پکار اٹھے کہ:
یا رب! یہ جہاں گداز خوب ہے لیکن
کیوں خوار ہیں مردانِ صفا کیش و ہنر مند؟
گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ
دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند!

آج میرے وطن کے حکمرانوں نے عملاً ثابت کر دکھایا کہ واقعتاً فرنگی ہی ان کا ”خداوند“ ہے کہ گوری چڑی والا یورپی ہو یا امریکی اس سے بہتر مشیر و ماہر کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر محافظ و سرپرست کوئی نہیں اور ان سے بڑھ کر مالی امداد کا سہارا فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا عملاً گذشتہ نصف صدی میں قوم نے یہی نہیں دیکھا؟ کیا آج بھی کچھ نہیں دیکھا جا رہا؟ اسی سے مستقبل میں جھانک لیجئے۔

انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن (ILO) جو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ وہ کرہ ارض پر مزدوروں کے حوالے سے UNO کی طے شدہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا پابند ہے اور UNO یہود کی پالیسیوں کے مطابق فیصلے کرنے اور ان پر عملدرآمد کرانے کی پابند

ہے۔ یہ دعویٰ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ یہ دعویٰ بھی انہی کا ہے جو ظاہر: مارے ”مرئی و محسن“ ہیں:

”..... حد تو یہ ہے کہ اقوامِ عالم کا اتحاد (موجودہ UNO) ہماری اشیرباد کے بغیر کوئی معمولی سے معمولی معاہدہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔“ (Protocols, 5:5)

”..... ہماری (قائم کردہ) حکومت کا یہ حق ہوگا (امیتاز ہوگا) کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے یہود کے خلاف قول و فعل سے کسی طرح کے اقدام کرنے والے سے زندگی کا حق چھین لے۔“ (Proocols, 5:1)

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مزدور راہنما ILO سے اپنے تعلق پر اترتے ہیں۔ ILO کی تعریف میں رطب اللسان دیکھے جاتے ہیں۔ ILO کے مدد و تعاون کی قصیدہ خوانی کرتے نہیں تھکتے اور نہیں جانتے کہ ILO انہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال کرنے کی خاطر ان کی معاونت کر رہا ہے بلکہ یہ ساری شفقتیں اور نوازشیں اس کی Investment ہیں۔

مزدور کو غربت کے پھندے میں مسلسل جکڑے رکھ کر اپنے پروگرام کے مطابق اپنی مرضی و منشاء کے مطابق اسے انقلاب کا موثر ہتھیار بنانا ہے اسی لئے ہر لمحہ اور ہر قدم پر اس بات کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا کہ خود مزدور کی زندگی میں خوشحالی کا انقلاب نہ آئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 53 سالہ ماضی اور حال کی تاریخ ہماری تائید کرتی ہے۔

بلا خوف تردید اور بلا کسی تعصب کے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ آج کے ”مہذبوں“ کے بقول ”بنیاد پرستانہ مذہب“ ہی امیر و غریب اور آجر و اجیر کی زندگی میں سکھ سکون اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ اسلام نہ کل بنیاد پرستانہ مذہب تھا نہ آج ہے اور نہ

قیامت تک ہوگا کہ خالق نے مخلوق کی ابتداء سے انتہا تک کے لئے جو ضابطہ حیات طے فرما دیا وہ لمحہ لمحہ ماڈرن ہے اور وقت کے ہر تقاضے پر پورا اترنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ یہ تو اس دور کے انسان کی بد نصیبی و بد بختی کہ وہ اس سرچشمہ فیض سے مستثنیٰ ہونے کی بجائے چمکتے کھوٹے سکوں کو جمع کرنے میں وقت گنوارہا ہے۔

ہادی برحق، فخر انسانیت ﷺ نے مزدور کا جس طرح تحفظ فرمایا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی مگر کوئی ادھر کا رخ کرے تو! اور پھر بات مزدور کے حقوق تک محدود ہی کیوں رہے، ہر انسان کی ہر حیثیت میں حقوق کا تحفظ، چرند پرند اور حیوانات کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔



کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد
جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزِ دروں
جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند
کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟
(اقبال)



بھیڑ کا احتجاج بھیڑیے کی فطرت نہیں بدلتا!

ایک کروڑ بھیڑیں بھی مل کر اگر شدید ترین احتجاج کریں اور بھیڑیے کی درندگی پر انتہائی تشویش کا اظہار کریں تو یہ احتجاج اور تشویش اس کی فطرت بدلنے میں ناکام رہے گا کیونکہ بھیڑیا، بھیڑ کی میں میں نہیں سمجھتا اسے کوئی دوسری زبان سمجھ آتی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں مگر سمجھانے کے اقدامات سے خائف ہیں کہ ہم ”امن پسند“ ہیں۔

بھیڑ اور بھیڑیے کے حوالے سے ہم نے بات کا آغاز کسی کی تنقیص کے نقطہ نظر سے نہیں کیا۔ بھیڑیا تو یقیناً ہمارے نزدیک قابل نفرت ہے مگر بھیڑیں چونکہ ہماری اپنی ہیں اس لئے ان کے رویے پر نفرت کی جگہ دکھ ضرور ہے۔

ان تمہیدی کلمات سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بھیڑ اور بھیڑیے سے ہماری مراد اسرائیل کے مٹھی بھر یہود اور کروڑوں کی تعداد میں عرب مسلمان ہیں جن کے شاہ جگہ جگہ مل بیٹھتے ہیں اسرائیل کی بربریت پر ”انتہائی تشویش“ کا اظہار کرتے ہیں اور بڑی پُر مغز، معنی خیز مذمت کی قراردادیں پاس کر کے بٹاش چہروں کے ساتھ کامیاب و کامران اپنے اپنے وطن لوٹتے ہیں۔ اسی کو نشستیں، خوردن، نشیدن اور برخواستن کہہ لیجئے کہ معاملہ آج تک اس سے آگے کبھی نہیں بڑھا۔

یہود کو بھیڑیا اور امت مسلمہ کو بھیڑ کہہ کر ہم کسی کی توہین کے مرتکب نہیں ہوئے اسے آپ یہود کے بڑوں کی عالمی اقتدار کی منصوبہ بندی Protocols میں انہی کی زبانی سن لیں:

ہم بھیڑیے ہیں! ”غیر یہود (گوتم جہلا) بھیڑوں کا گلہ ہیں اور

ہم ان کے لئے بھیڑیے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب بھیڑیے بھیڑوں کو گھیر کر ان پر ہادی ہو جاتے ہیں۔“ (Protocols, 11:4)

چشم تصور وا کرنے کی آج ضرورت نہیں کہ آپ ہی نہیں، عالمی ضمیر بہ چشم یہودی بھیڑیوں کو ارضِ فلسطین میں، فلسطینی بھیڑوں پر لپکتے جھپٹتے اور لہو بہاتے دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح یہود کی عملی مدد سے ہنود ارضِ کشمیر میں ویسی ہی کارروائی میں مصروف ہیں۔ ملت مسلمہ کے سپوت دونوں جگہ غلیل سے راکٹوں اور بموں اور دوسرے خودکار اسلحہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جنازے اٹھ رہے ہیں، زخموں سے ہسپتال بھر چکے ہیں، جگہ نہیں رہی اور عصمتیں پامال ہو رہی ہیں اور ہمارے سربراہانِ مملکت دھواں دھار جذباتی تقاریر اور تشویشناک قراردادیں پاس کر کے شاداں و فرحاں ہیں کہ میدان مار لیا ہے۔ یہ بھیڑوں کو بھیڑیے کے خلاف احتجاج ہے۔ اور بھیڑیے ہیں جو لمحہ لمحہ جری ہو رہے ہیں کہ نصاریٰ ساتھ ہیں۔

ربیع صدی قبل کا ذکر ہے جب طائف کی سربراہی کانفرنس ختم ہوئی ہی تھی، رات الحروف ملازمت کے سلسلے میں سلطنتِ عمان کے شہر صلالہ میں مقیم تھا۔ برطانوی حکومت کے بعض اقدامات پر ایک احتجاج انگریزی زبان میں لکھا۔ اس کا عربی میں ترجمہ مطلوب تھا، اپنے ڈائریکٹر سے مدد چاہی تو اس نے ترجمہ کروا دیا۔ ایک ماہ بعد پھر ایسی ہی ضرورت سے اس کی طرف رجوع کیا تو کہنے لگے میرے پاس بیٹھ کر پہلے میری ایک بات سن لو پھر ترجمہ بھی کروادوں گا۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا۔

عمانی ڈائریکٹر نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا فلاں حکمران مسلمان ہے؟ فلاں بھی مسلمان ہے؟ فلاں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ میرے ہر ایک کے بارے میں مسلمان ہے؟ کہنے پر اس نے کہا کہ بقول تمہارے طائف کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے شرکاء مسلمان سربراہان تھے۔ یہ مسلمان سربراہ کمرہ بند کر کے اجلاس کرتے ہیں وہاں اندر ان مسلمانوں کے ساتھ یا فرشتے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ شام کو اجلاس

کے اختتام پر جب دروازہ کھلتا ہے تو چند ہی منٹ بعد ریڈیو ماسکو وائس آف امریکہ بی بی سی وغیرہ اندر کی داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی سلمان سربراہ کانفرنس ہال سے باہر نکل کر چائے بعد میں پیتے ہیں پہلے اپنے اپنے رپرستوں کو اندر کی کارگزاری سناتے ہیں۔ کسی کا سرپرست ماسکو ہے تو کسی کا امریکہ، طانیہ یا فرانس۔ ان کا سرپرست اللہ تعالیٰ اس لئے نہ بن سکا کہ وہ یہود و نصاریٰ کا دشمن ہے مگر ان کو یہود و نصاریٰ کی دوستی میٹھی لگتی ہے۔

ارضِ فلسطین اور خطہ کشمیر کا بھڑکتا الاؤ دھواں دھار تقاریر اور مذمت کی رازدادوں سے آئندہ دوچار صدیوں تک بھی حل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی دانشور ایسا سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں بتا ہے۔ ملت مسلمہ کے نمائندوں کی قراردادیں تو رہیں یک طرفہ ان کی حیثیت پر گاہ کی بھی نہیں کہ یہود و نصاریٰ و ہنود تو یو این او اور سلامتی کونسل کی قراردادیں گذشتہ نصف صدی سے جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں اور یو این او اس کی سلامتی کونسل ان کے معاملے میں ہمیشہ ہی منقارِ زیر پر رہی ہے۔ چیچنیا کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، بربریت کی انتہا ہو گئی اور ملت مسلمہ 'تشویش' میں مبتلا رہی۔

یہود اسرائیل میں آج بھی کھلی جارحیت کے لئے اس وجہ سے دیدہ دلیر ہیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

”اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف سے کسی ممکنہ جارحیت کے خلاف موثر دفاع کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہئے۔ اگر ہمارے اردگرد بننے والے باہم اشتراک سے ہم پر حملہ آور ہوں تو ہمیں اس مقصد کے لئے اسے عالمی جنگ کا رخ دینا پڑے گا تاکہ ہم بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔“ (Protocols, 7:3)

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی شروعات کا جائزہ لیں یہ بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوتی ہے مثلاً جب یہود ترک سلطان سے قیمتاً بھی ایک انچ زمین حاصل نہ

کر سکے تو انہوں نے طے شدہ منصوبہ کو آگے بڑھایا جس کے نکات مندرجہ ذیل تھے:

- (الف) عالمی جنگ ہوگی جس میں لازماً برطانیہ حصہ لے گا۔ (یہ جنگ 1914ء میں شروع ہوئی جس کی منصوبہ بندی 1905ء میں ہوئی)
- (ب) ترکی کو برطانیہ کے خلاف ہر حال میں صف آراء کیا جائے گا۔
- (ج) ترکوں کو ہر حال میں شکست سے دو چار کرایا جائے گا۔
- (د) اقوام متحدہ (لیگ آف نیشنز) کو تشکیل دیا جائے گا۔
- (ر) برطانوی سرپرستی میں اسرائیلی ریاست ارضِ فلسطین میں قائم کی جائے گی۔ (بحوالہ ”آخری صلیبی جنگ“ صفحہ 132)

یہ سب کچھ یہود کی 1905ء کی منصوبہ بندی کے عین مطابق عمل میں آیا کہ انہوں نے ترکوں سے بدلہ بھی لیا اور اپنی حکومت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر لیگ آف نیشنز بھی بنالی۔

عرب ریاستوں کے سربراہ آج اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اگر صرف مذمت کی قراردادوں تک محدود ہیں تو صرف اس لئے کہ کسی کے تحت و تاج کی حفاظت کا ذمہ امریکہ کے کندھوں پر ہے تو کسی کو برطانیہ یا روس اور فرانس نے گارنٹی فراہم کر رکھی ہے جبکہ ان حکومتوں کے لئے گارنٹی یہود کے پاس ہے جو آج کھلی آنکھوں سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے مثلاً تازہ ترین مثال امریکی صدارتی انتخابات ہے یا کلنٹن کی بیگم ہیلری کا یہود کے مقابلے میں مسلمانوں کا چندہ لینے سے انکار ہے۔

عرب ریاستوں کی ”حفاظت“ کے لئے اور وہ بھی مسلمانوں سے عراق سے امریکی افواج اور اس کا بحری بیڑہ کویت اور سعودیہ میں چھاؤنی بنا چکا ہے اور اسی امریکہ کا دفاعی معاہدہ ہے اسرائیل سے انہی عربوں کے خلاف اور عقل کے دشمن اسی عطار کے لوٹے کے پاس گروی ہیں۔ اسرائیل کی ہر جارحیت کی حمایت میں کل بھی امریکی ویٹو تھا اور آج بھی ہے مگر عربوں کی آنکھیں بند ہیں۔ امریکہ پھر بھی عربوں کا ”دوست“ ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

عرب ریاستوں کا مسئلہ حب الدنیا اور کراہیۃ الموت ہے۔ اسرائیل کے 300 ایٹم بموں کا خوف ہے، امریکی بحری اور ہوائی بیڑے کا خوف ہے، جو فلسطینیوں کی عملاً مدد کے راستے کی دیوار ہے اور اس پر مستزاد باہمی نااتفاقیوں ہیں اور لوگ طنز کرتے ہیں کہ "The Arabs they only agree to disagree" عربوں کا صرف نااتفاقی پر اتفاق ہے۔

عرب اگر لڑنا نہیں چاہتے نہ لڑیں، نہتے فلسطینیوں کو اسلحہ تو پہنچانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اپنے ملک کے اندر فلسطینیوں پر ہر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے مگر ایٹمی ہتھیار یا گیس بم نہیں کہ خود یہود ان کی زد میں آئیں گے لہذا فلسطینیوں کو خود کار ہتھیاروں سے مسلح کر دینے سے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ آج نہتے فلسطینیوں نے جانوں کی قربانی دے کر اسرائیل کا سکون چھین رکھا ہے۔ ذرا سہارا ملے تو افغانوں کی طرح اسرائیل چوڑی بھول سکتا ہے۔

قضیہ اسرائیل ہو، کشمیر ہو یا چیچنیا ہو اس کا مستقل حل صرف اور صرف جہاد ہے اور جہاد کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے اور خالق کا وعدہ ہر وعدے پر ہادی ہے۔ جہاد کا اجر دینی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ الحمد للہ۔ جہاد چھوڑنے یا اس سے پہلو تہی کرنے والوں کا مقدر دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہے جس میں سے دینی رسوائی پر ہم خود گواہ ہیں۔

عرب ریاستوں کے حکمرانوں کے نزدیک اگر ملت مسلمہ کے مفادات قابل ترجیح ہوں تو قضیہ کشمیر چند دنوں میں بطریق احسن حل ہو سکتا ہے، مثلاً سنجیدگی کے ساتھ عرب حکمران بھارت سے کہہ دیں کہ:

(الف) فلاں تاریخ تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں استصواب رائے کا انتظام کرو۔

(ب) اس استصواب رائے کی نگرانی اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی کریں گے کہ ناانصافی نہ ہو۔

- (ج) اگر اس جائز مطالبہ کو تسلیم نہیں کرتے تو:
- (۱) ہم سفارتی تعلقات عملاً ختم کرتے ہیں
 - (۲) تجارتی معاہدے منسوخ کرتے ہیں
 - (۳) آپ کے ملک کے باشندوں کو اپنے اپنے ملک سے نکال دیں گے۔

یقین کیجئے کہ بھارت ہو یا اسرائیل کے حواری ملک ہوں، عربوں کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ معاشی مارنہ بھارت سہہ سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل نواز یورپ و امریکہ، شاہ فیصل مرحوم کا تیل کا ہتھیار کس قدر موثر ثابت ہوا تھا ہر کوئی جانتا تھا۔ مگر بد نصیبی کی بات ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سامنے ہماری آنکھیں نہیں اٹھتیں۔

بھارت اور اسرائیل کے حواریوں کو یہ بات ذہن نشین کروانے کے لئے اگر ایک اور شاہ فیصل درکار ہے تو عملی جہاد کے لئے خالد و طارق و قاسم اور صلاح الدین ایوبی درکار ہیں جسے عیاش مسلمان قوم کیسے جنم دے سکے گی کہ یورپ و امریکہ کے چیل اور ویڈیو پروگرام نوجوان نسل کی گھٹی کا حصہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ بھی قوم کو فحاشی اور بے حیائی دینے میں یورپ و امریکہ سے کم نہیں ہیں اور ملکی آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کرنے والے اس ثقافت کا دفاع کرتے نہیں تھکتے۔ علماء و مشائخ کے نزدیک فحاشی و بے حیائی کے آگے بند باندھنا ان کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔

اگر ملت مسلمہ نے بھیڑوں کے میانے کے انداز میں مذمت کی قراردادوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور تشویش ہی میں مبتلا رہے تو بھیڑیا اپنی فطرت و خصلت کے عین مطابق مسلمانوں کی مزاحمتی قوت کو بھنبھوڑتا رہے گا، خون بہتا رہے گا، عصمتیں لٹی رہیں گی، تو عافیت پسندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان منطبق ہو جائے گا۔ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففستوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا۔ کیا مسلمان حکمران اس لمحے کے منتظر ہیں!

☆.....☆.....☆

ضمیمہ

فری میسنری	نام کتاب:
بشیر احمد (ایم۔ اے)	نام مصنف:
عبدالرشید ارشد	تبرہ نگار:
344	صفحات:
200 روپے	قیمت:
اسلامک سٹڈی فورم	ناشر:
پوسٹ بکس نمبر 639، راولپنڈی	ملنے کا پتہ:



دنیا تخلیق کے پہلے روز سے ہی خیر و شر کی قوتوں کے تصادم سے متعارف ہے کہ اسی تصادم میں سے دینی و اخروی کامیابی کا سورج طلوع ہوتا رہا ہے یا غروب ہوا ہے۔ یہ تصادم آج بھی پوری شدت سے جاری ہے اور فانی دنیا کے اختتام تک یہ جاری بھی رہے گا۔

بصیرت (Insight) کی تقسیم قادر مطلق نے بڑی فیاضی سے فرمائی اور یہ ہر انسان اور ہر قوم کا مقدر ہے کہ اس نے اس نعمت سے کس قدر استفادہ کیا۔ بصیرت ماضی سے سبق لینے میں مددگار ہے تو گذرتا حال سنوارنے کے بھی کام آتی ہے اور کوئی چاہے تو مستقبل پر اثرات مرتب کرنے میں بھی بصیرت نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ یہی بزرگوں سے سنا اور خود گرد و پیش دیکھا ہے۔

قرآن حکیم کی دوسری طویل سورۃ البقرہ ہمیں یہ بتانے کے لئے ٹھوس بنیاد ہے کہ بنی اسرائیل (یہود) نے اس بصیرت کو قدم قدم پر متنی انداز میں استعمال کیا اور رب العزت نے اس مغضوب قوم کو مکمل دلائل کے ساتھ بڑی تفصیل سے چارج شیٹ کیا۔

یہود اپنے آغاز سے ہی شرپسند ثابت ہوئے اور ہر ایک کے لئے سروردی کا باعث بنے۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ جب فرعون نے اہرام کی تعمیر پر انہیں لگایا تو ”روٹی کے ساتھ پیاز کے مطالبے“ کی دنیا میں پہلی ہڑتال کا باعث یہی تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنی خودسری کو ”آزاد معمار“ (Freemason) کا نام دیا اور پہلی انجمن سازی کی۔ بعد ازاں حوادثِ حیات نے انہیں مختلف خطوں میں پھیلا دیا تو یہ انجمن سازی اور خفیہ مشاورت بلکہ خفیہ سازشیں ان کا دھیرہ رہیں۔ یہ سلسلہ سروردی دو عالم ^{میں} تک اور آپ کے بعد آج تک جوں کا توں جاری ہے۔

فری میسنری پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگرچہ مختلف ادوار میں لکھا گیا اور اپنی اپنی جگہ ہر کسی کا کام قابل ستائش ہے خصوصاً مصباح الاسلام فاروقی مرحوم کا مگر تکنیکی بدستور رہی اور اس کی ایک وجہ مارکیٹ میں فری میسنرز کا اپنا لٹریچر نابود ہونا بھی ہے تو دوسرا سبب عوام کی عدم دلچسپی ہے۔

بشیر احمد صاحب کا اہل وطن پر احسان ہے کہ انہوں نے فری میسنری پر کام آگے بڑھانے والوں کے لئے ایک مدلل مبسوط راہنما کتاب مہیا کر دی جس سے ملت مسلمہ کے حقیقی دشمن کے کھل خدو خال سامنے آئے جارحیت کے انداز سے آگاہی ہوئی اور اس آکٹوپس کے عالمی سطح پر پھیلے ہاتھ پاؤں معاونین اور ان کا اندازِ تعاون سمجھنے میں اس پر تحقیق کرنے والوں کے لئے سہل ہو گیا۔

”فری میسنری“ میں 9 ابواب اور ضمیمہ جات ہیں علاوہ ازیں نادر اور نایاب تصاویر سے کتاب مزین اور بعض دستاویزات کے شامل کئے جانے سے مدلل بن گئی ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ فاضل مصنف نے کوئی اہم بات اہم واقعہ بلا ثبوت اور بلا حوالہ نہیں

بسم اللہ۔

ابتدائی باب میں فری میسنری کا تعارف، مختلف مراحل کے تنظیمی ڈھانچوں اور فری میسنز کے کردار پر بات کی ہے، خصوصاً اس میں مسلمانوں کی شمولیت پر دوسرا باب مختص ہے، خفیہ یہودی تنظیم کی نوعیت، آئین و دستور، مختلف عہدوں اور فری میسنری کے عملی ماخذوں کے لئے ہے۔ تیسرے باب میں ان کے اندر کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ لاجوں میں کیا ہوتا ہے، ان کی درجہ بندی کیا ہے۔ چوتھے باب میں سکاٹس لاج کے درجات 33 ویں ڈگری تک کے عہدوں کی کہانی ہے۔ پانچویں باب میں فری میسنری کا سیاسی کردار زیر بحث لایا گیا ہے اور مختلف ممالک مثلاً انگلستان، امریکہ، فرانس، اٹلی، جرمنی اور روس میں اس کے اثرات پر بحث ہے، دیگر ممالک میں ان کے اثر و نفوذ اور شراکتی پر بات کی گئی ہے، مختلف مذاہب پر اس کے بد اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

چھٹے باب میں میسنری مخالف تنظیموں کا تذکرہ ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی ریشہ دوانیوں کے خلاف وجود میں آئیں مثلاً پوپ کے احکامات۔ ساتویں باب میں یہود کے بدنام زمانہ پروٹوکولز پر تفصیلی بحث ہے تو آٹھویں باب میں مسلم ممالک میں فری میسنری کی سرگرمیوں کی تصویر پڑھنے والوں کے سامنے لائی گئی ہے۔ نویں باب میں فری میسنری کی ذیلی تنظیموں کے تعارف پر مبنی ہے جو خدمتِ خلق کی آڑ میں ہر ملک میں یہود کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ مثلاً لائینز انٹرنیشنل، روٹری کلب، آغا خان فاؤنڈیشن، متفرق این جی اوز کے چہرے بے نقاب کئے گئے ہیں۔ اور کتاب کے آخر میں انتہائی قیمتی ضمیمہ جات اور کتابیات کا سرمایہ ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انا ترک کو اپنا آئیڈیل کہنے والے اگر فری میسنری کے درج ذیل اقتباسات میں ان کا حقیقی چہرہ دیکھ لیں تو ان کا قبلہ درست ہو سکتا ہے۔

”1932ء میں ایک معروف یہودی مصنف ابراہیم گلانتی نے جو

یگ ترک انقلاب میں ملوث تھا، اس انقلاب کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فری میسنری اس کی قوتِ محرکہ تھی اس نے ترکوں کے دلوں سے مذہبِ اسلام کو نکالا۔ سو سائٹی آف یونین اینڈ پراگریس (اتحاد و ترقی کمیٹی) میں قروصو (دوئمہ خفیہ یہودی) اہم مقام پر فائز تھا۔ وہ اس وفد میں شامل تھا جو 1909ء میں سلطان عبدالحمید کو یہ بتانے گیا تھا کہ اسے تخت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ ترک پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ اس بات کو مذہبی طبقے نے بہت ناپسند کیا کہ ایک یہودی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر گیا۔“
(صفحہ 210)

”سالونیکا اور مقدونینہ کی فری میسنری نے سلطان کے اقتدار پر ضرب لگانے کے لئے فوج میں یگ ترک عناصر کو منظم کیا۔۔۔۔۔۔ یگ ترک قیادت (اتحاد و ترقی کمیٹی) ترکی النسل لوگوں پر مشتمل نہ تھی۔ انور پاشا کا تعلق پولینڈ سے تھا، جاوید بے دوئمہ یہودی فرقے کا فرد تھا، قروصو یہودی سالونیکا کا سفاردی یہودی تھا، طلعت پاشا بلغاریہ کے ایک خانہ بدوش قبیلہ سے تھا۔ احمد رضا مخلوط النسل قبیلے کا فرد تھا اور جرمنی کے کاتے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔۔۔۔“ (فری میسنری، صفحہ 211)

سر آغا خان اول کی سفارش سے ارضِ فلسطین میں سلطان عبدالحمید سے یہودی بستی کے لئے زمین خریدنے میں ناکامی کے بعد سلطان کا تختہ الٹنے کے لئے کس طرح فری میسنری لاجوں کے توسط سے یگ ترک تحریک منظم کر کے بغاوت کروائی گئی اور اس کے بعد کمال اتاترک کی سربراہی میں ترکی نے لادینیت کا جو سفر طے کیا اور جس کے بد اثرات آج بھی دیکھے جا رہے ہیں، ہر لحاظ سے چشم کشا ہے۔

امریکہ میں یہود نوازی کے جراثیم آج پیدا نہیں ہوئے بلکہ 1789ء سے

1993ء تک 17 امریکی صدور باضابطہ فری میسنری کے رکن رہے ہیں (صفحہ 316 پر عمل فہرست دی گئی ہے)۔ کابل کے امیر حبیب اللہ کو کنکارڈ لاج کلکتہ میں شمولیت کا دعوت نامہ بتاریخ یکم فروری 1907ء کا عکس صفحہ 318ء پر دعوتِ فکر دے رہا ہے اور سٹرکٹ گرینڈ لاج لاہور کے گرینڈ ماسٹر کال لاہور زون کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے نام تفصیلی خط کہ ہم تو بڑے معصوم قوم کے خدمتگار لوگ ہیں ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی نہ ہونی چاہئے صفحہ 319-321 پر دیا گیا ہے۔

’فری میسنری‘ کا ایک ایک لفظ مصنف کی مومنانہ بصیرت کا منہ بولا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے ہم وطنوں سے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ ہم وطنوں کی بصیرت کا امتحان ہے کہ وہ اس محنت سے کیا لیتے ہیں کیا چھوڑتے ہیں۔

’فری میسنری‘ کے حاصل مطالعہ کو جب آج کے زمینی حقائق پر منطبق کرتے ہیں تو بغیر کسی ادنیٰ تردد کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکمران جو یقیناً ”ینگ“ نہیں ”اولڈ“ ہیں ملک کو ترکی کے نقوش پا پر سیکولزم کی طرف تیزی سے دھکیل رہے ہیں کہ اپنی مہلتِ زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ اپنی آنکھوں سے کمال اتاترک کے ترکی کی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کو (معاذ اللہ) سیکولر جمہوریہ پاکستان دیکھ لیں۔ این جی او مانیا سے لئے گئے وزراء ہوں یا امریکہ سے درآمد شدہ یا اپنے ہی ملک کی فوج سے لئے گئے ”محسن“ سب کے سُر ملتے ہیں۔ کبھی جہادی تنظیموں کے کانٹے کھٹکتے ہیں تو کبھی دینی مدارس کی ”بنیاد پرستی“ چبھتی ہے۔ بس نہیں چلتا کہ بے عمل اہل وطن وقت پر دین کے لئے خون کا نذرانہ دینے میں بہت آگے ہیں۔

خدا کرے بشیر احمد صاحب نے جس حب الوطنی سے ”فری میسنری“ لکھی ہے ہر باشعور پاکستانی اسی جذبہ سے پڑھ کر اپنے دشمن کی چالوں سے تمام محاذوں کے متعلق آگاہی حاصل کر نیکے بعد اور ازلی دشمن کے خلاف ہر تعصب پر لعنت بھیج کر سیسہ پلائی دیوار کا جزو بن جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا ناقابلِ تسخیر قلعہ ثابت ہو۔ آمین

☆.....☆.....☆

خالق نے مخلوق کیلئے سود حرام کیوں کیا؟

ایک پہلو یہ بھی ہے، سود کی تصویر کا!

جب ہم گرد و پیش، سپریم کورٹ کے سود پر تاریخی فیصلے کے سبب، اپنی قوم کے باشعوروں اور دانشمندوں کو شاداں و فرحاں دیکھتے ہیں، اخبارات کے صفحات پر علماء اور دیگر سیاسی مذہبی راہنماؤں کے بیانات پڑھتے ہیں تو اپنی قوم کی عقل و دانش اور سادگی پر تعجب بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔

خدا نخواستہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ ہو یا کوئی دوسرا صاحب ایمان فرد یا ادارہ اگر بارگاہ رب العزت میں ایمان کے ساتھ حاضری پیش نظر ہوگی تو ہر کسی کا فیصلہ یہی ہوگا۔ اس بیادنی آفاقی فیصلے سے انحراف کرنے والے فکر آخرت سے عاری، ہوس زر میں مبتلا ترقی پسند طبقہ کے متعلقین کے علاوہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ الحمد للہ یہ فیصلہ بھی قابل تحسین ہے۔

ہماری ہنسی کا سبب یہ ہے کہ عقلمند اور باشعور ہونے کے دعویدار یہ نہیں سمجھ پاتے کہ سپریم کورٹ سے بہت پہلے، بلکہ ان عقلمندوں اور باشعوروں کی تخلیق سے بھی قبل ان کے خالق نے لوح محفوظ پر، تخلیق کائنات کے ضمن میں جو جزئیات درج فرمائی ہیں انہی میں اولادِ آدم کے لئے سود کو حرام لکھ دیا تھا اور لوح محفوظ کا یہ لکھا ہے:

صاحبِ محکمِ دین، محسنِ انسانیت ﷺ کی وساطت سے کم و بیش ساڑھے چودہ سو سال قبل نصیب ہو گیا تھا۔ خالق کے فیصلہ کے بعد مخلوق سے، صریح قرآنی نص پر فیصلہ طلب کرنا ایمان کی نفی ہے۔

ہمیں ہنسی اس بات پر بھی آتی ہے کہ عقل و دانش کے پتلے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو یک سر نظر انداز کر دیں، مگر سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے پر جشن منائیں۔ اس بات سے کون ذی ہوش انکار کرے گا کہ سپریم اتھارٹی خالق کائنات خود ہیں تو اس کے بعد دوسری اتھارٹی، اسی کے محبوب نبی آخر الزماں ﷺ ہیں اور تیسرے درجے میں اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور چوتھے درجے میں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو ہمارا سپریم کورٹ اس ہستی کے مقابلے میں لوئر کورٹ بھی مشکل سے بنتا ہے۔ اس صورت حال میں با آسانی دیکھا جاسکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس فیصلہ کا مقام کیا ہے۔

آج سائنسی ایجادات کا دور ہے اور مارکیٹ مختلف ایجادات سے بھری پڑی ہے۔ آپ مارکیٹ سے اپنی ضرورت کے مطابق ریڈیو یا ٹی وی سیٹ خریدیں، کمپیوٹر خریدیں یا کسی قسم کی دوسری مشینری، آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کے ڈبے میں ایک کتاب ہدایت اوپر رکھی ہوئی ملتی ہے۔ رقم خرچ کر کے چیز گھر لانے والا عقلمند ڈبہ کھولتے ہی کتاب ہدایت لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک اس متعلقہ چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ اس کتاب میں درج ہدایات کے مطابق اسے سیٹ نہیں کر لیتا کہ شعوری طور پر اس کا ایمان ہے کہ موجد اور بنانے والے کی ہدایات سے انحراف کر کے اس چیز سے مطلوبہ کام نہیں لیا جاسکتا۔ عقلمندی کا یہی تقاضا ہے، ورنہ معمولی کوتاہی اس چیز کو ہی تباہ کر دے گی۔

اسی عقلمند اور ماشعور کے موجد و خالق جل شانہ نے اسے بنانے سے قبل اس

کے ساتھ دی جانے والی کتاب ہدایت مرتب کر کے اس میں اس انسانی مشین کے استعمال کے ضمن میں انتہائی جزیات تک لکھ دیں اور پھر دنیاوی اشیاء بنانے والوں کی کتب ہدایت (Instruction Book) طرز پر 'صرف کتاب تک بات کو محدود نہیں رکھا کہ محض کتاب سے کوئی غلط معنی بھی اخذ کر سکتا ہے' اس نے کتاب کی عملاً تعلیم اور متعلقین کی عملی تربیت کے لئے محسن انسانیت ﷺ کو بھی مقرر فرمایا۔ اور نبی رحمت ﷺ نے تمام تر جزیات پر ہمہ جہت عملی تربیت کا حق ادا کر دیا جو آج بھی مکمل صحت کے ساتھ ہر کسی کے لئے محفوظ ہے۔

خالق کائنات نے سینہ دھرتی پر ہمانے کے لئے لولاد آدم کو اشرف المخلوق کے اعزاز کے ساتھ اپنی خلافت ارضی کے لئے چنا اور خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لئے نہ صرف ہر دور میں مطلوب راہنمائی کے لئے تحریری ہدایات (کتب مقدسہ) سے نوازا بلکہ کم و بیش سو لاکھ انتہائی معتبر اور خصوصی چنے گئے شارع کتب (انبیاء عظیم السلام) وضاحت (Interpretations) اور عملی مصنفہ (Implementation) کے لئے نوع انسانی کا مقدر بنائے جو خالق کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے اور آخری امت پر ہر احسان سے بڑا احسان یہ کہ اسے سرور دو عالم ﷺ کی امت بنایا۔

عقل مندوں کا اس بات پر کامل اتفاق ہے کہ جو جس چیز کا تخلیق کنندہ ہے وہی اپنی تخلیق کے ہر پہلو پر اتھارٹی ہے اسی کی بات حرفِ آخر اور پتھر پر لیکر ہے اور اس کی بات اگر سمجھ نہ آئے تو تصور اس کا نہیں اپنے عقل و شعور کا ہے۔ اسی کوٹی پر اسی اصول کے تحت اگر ہم اپنے خالق کے فرامین کا تجزیہ کریں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کے فرامین اپنی جگہ اٹل حقیقت ہیں 'خدا نخواستہ ہماری عقل ان کے حسن و جہ کا احاطہ کرنے میں ناکام رہے تو تصور ہماری فہم و فراست کا ہے 'ہماری شخصی کمزوریوں کا ہے۔ فرامین ربانی ہر جھول سے مبرا ہیں اور عملی زندگی کے ہر دور کے لئے ہم پہلو قابلِ عمل بھی ہیں اور سکھ کے ضامن بھی ہیں۔

دھرتی کی خوش نصیب ترین مخلوق آج مسلمان ہیں کہ خالق جل شانہ کے فرامین رسالت مآب ﷺ کی حیات طیبہ کا مکمل ریکارڈ، خلافت راشدہ کے طویل دور کی تاریخ ان کا محفوظ سرمایہ ہے جس میں ہمہ پہلو راہنمائی ہے کسی دوسری قوم کے پاس ایسا سرمایہ نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرامین کی عملی تشریح موجود ہو اور اس کی بلوغت وہ غیروں، محرف ادیان کے پیروں کے پاس راہنمائی کے لئے جائے تو انہیں عقل کے اندھے سے کم کوئی لقب نہیں دیا جاسکتا۔ ایسے مسلمان کہلوانے والوں کے متعلق تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ :

اغیار سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ
اپنے خورشید پر پھیلانے ہیں سائے ہم نے

اللہ رب العزت نے معاش و معیشت پر ہی نہیں عملی زندگی کے ہر پہلو پر مدلل ہدایات سے انسانیت کو نوازا کہ بلاشبہ خالق ہونے کے ناتے یہ اسی ذات کا حق بھی ہے کہ وہ اپنی تخلیق کی خوبیوں خامیوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ اس خالق نے انسانیت کو بالعموم اور امت خاتم النبیین ﷺ کو بالخصوص سود سے چنے کا حکم دیا۔ برا کہہ کر محض چنے کی تلقین نہیں فرمائی بلکہ سود کو حرام قرار دے کر اس میں طوٹ ہونے کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔

انسان کی سینہ دھرتی پر رہائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ضابطے وضع فرمائے ان پر ذرا غور کریں تو عقل و شعور تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت ارضی کا وارث معاشرہ ہمہ پہلو مربوط، محبت و اخوت و مودت پر استوار کیا جانا مطلوب ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں احترام آدمیت ہو، احترام اقدار ہو یا دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ معاشرتی دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہو لوریوں ہر جڑی اینٹ عمارت کی مضبوطی کی ضامن بن جائے۔

ہر دور کا انسان اس حقیقت پر بھی آگاہ ہے کہ زریا ہوس زر ہر دور کا فتنہ ہے اور

اس قدر شدید کہ خون کے قریبی رشتے اسی ہوس زر کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ صورت حال ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ اسلام نے اہل ایمان کو خصوصیت سے ہوس زر سے دور رکھنے کے لئے انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے۔ یہ انفاق زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں بھی ہے۔ یہ انفاق عشر فصلات کی صورت میں بھی ہے اور غرباء و مساکین و سائلین کو کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے کی صورت میں بھی ہے اور ضرور تمندوں کو قرض حسنہ دینے، پھر قرضہ حسنہ کی وصولی میں نرمی کرنے یا توفیق ہو تو قرض نہ لوٹا سکنے والے کو قرض معاف کرنے کی صورت میں بھی ہے۔ یہ اس لئے کہ اس سے معاشرتی زندگی میں افراد کے درمیان محبت و مودت بڑھتی ہے اور یہی بات خالق کو اپنے خلیفہ ارضی سے مطلوب ہے۔

ہوس زر کو ختم کرنے یا کم کرنے کے ان اقدامات سے معاشرہ میں سکھ سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ بعثت نبوی ﷺ کے دور سے خلافت راشدہ کے دور تک کی صورت حال کا بغور مطالعہ کریں تو یہ حقائق کھل کر سامنے آتے ہیں کہ ان خطوط پر استوار ہونے کے سبب مالی عدم استحکام کا شکار معاشرہ ہوس زر سے پاک ہوا تو اس طرح خوشحالی اس کا مقدر بنی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لئے مستحقین کی تلاش میں پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والے نہ ملتے تھے۔

ہوس زر کو ہمیز لگانے والی چیز سود ہے اور اس کی حقیقت کا مکمل ادراک خالق کائنات کو تھا لہذا اس نے اپنے ارضی خلیفہ انسان کے لئے اسے حرام قرار دے دیا اور تاکید فرمائی کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہ غلاظت ہے۔ اقدار کو پامال کرنے والا عمل ہے۔ سماجی و معاشرتی زندگی میں عملاً درازیں ڈالنے والا عمل ہے اور مزید یہاں تک فرما دیا کہ میری ہدایت کو ٹھکرانا میرے اور میرے رسول ﷺ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ ہادی برحق ﷺ نے بھی بڑی وضاحت اور بڑے دلائل کے ساتھ امت کو اس فعل بد سے روکا۔

ہم یہاں قرآن و حدیث کے 'سلسلہ شاعتِ سود' حوالے درج کر کے بیاد پرستی کے طعنہ کی زد میں آنا نہیں چاہتے، اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ نہ اسلام بیاد پرست دین ہے اور نہ اسلام کے طرز حیات پر شعور سے عمل کرنے والے بیاد پرست ہیں کہ اسلام اور مسلمان تونت نئے تقاضوں سے ہم آہنگ عملی زندگی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا نام ہے۔ جو دین مکمل ہو کر قیامت تک ہر گھڑی کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت و وسعت رکھتا ہو، وہ بیاد پرست کیسے ہو سکتا ہے۔ اس جملہ معترضہ کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مطمئن کرنے کے لئے 'ان' کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے 'جنہوں' نے ثمت کر دیا کہ سود یقیناً رحمت ہے، رحمت نہیں ہے۔

اسلام اگرچہ حضرت آدمؑ سے ہی انسانیت کے لئے طے پایا مگر گمراہوں نے اپنے اپنے دور میں اسے من پسند نام دے کر یہودیت اور عیسائیت یا ہندو اور بدھ مت کے نام سے متعارف کر لیا تا آنکہ نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت کے ساتھ یہ پھر خالص شکل میں انسانیت کے دکھوں کا مداوا بن کر یہ اسلام ہی کے نام سے متعارف ہوا۔ ساڑھے چودہ سو سال قبل متعارف اسلام سے پہلے سینہ دھرتی پر سب سے بڑی فسادی قوم یہود نے اپنے انبیاء کی تعلیم کو یکسر فراموش کر دیا اور من مانی پر اتر آئے۔

یہود کی ہمہ جہت بغاوت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہم دنیا کو اپنے لئے سودی کاروبار سے مسخر کریں گے۔ یہود کے بڑوں نے 929 ق م میں عالمی حکمرانی کے لئے جو منصوبہ ہمدی کی لور جسے ہر دور کے بڑے یہودی سینے سے لگائے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس منصوبہ ہمدی کی نوک پلک سنوارتے اس کی حفاظت کرتے آئے، سود کے حوالے سے اس کے انکشافات چونکا دینے والے ہی نہیں باشعور مسلمانوں کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں۔ نزولِ قرآن سے کم و بیش ساڑھے سولہ سو سال قبل جس خباثت کی بیاد پر دنیا مسخر کرنے کا یہود نے منصوبہ بنایا تھا خالق نے قرآن حکیم میں اس خباثت کا توڑ اہل ایمان کے سامنے سود کو حرام قرار دے کر 'اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان

جنگ قرار دے کر فرمایا کہ مجھ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس زہر سے محفوظ رہیں۔ یہود کی مذکورہ منصوبہ بندی (Protocols) وثائق یہودیت کے نام سے مصدقہ دستاویز کی صورت میں آج بھی محفوظ ہے۔ آئیے Protocols میں سود کے کرشمے دیکھتے ہیں:-

”یہودیت کے خفیہ ریکارڈ کی رو سے‘ 929 ق م سلیمان اور یہودیوں کے سربراہوں نے پرامن عالمی تسخیر کا عملی منصوبہ بنایا۔ تاریخ جوں جوں آگے بڑھتی گئی اس کام میں ملوث افراد نے اس منصوبہ کی جزئیات طے کیں جس سے بڑی خاموشی اور امن کے ساتھ یہود کے لئے تسخیر عالم کا یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔“
(وثائق یہودیت۔ اصلاحات، صفحہ 25)

☆ راز کی بات :

”آج ہم اپنے مالیاتی پروگرام کو زیر بحث لائیں گے جسے انتہائی مشکل ہونے کے ناتے ہم نے موخر کر رکھا تھا کہ دراصل یہی امر ہمارے تمام منصوبوں کی جان ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتادوں کہ میں نے آغاز میں اشارۃً اس پروگرام کا ذکر کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ ہماری تمام سرگرمیوں کا محور اعداد و شمار ہیں۔“
(پروٹوکولز، 20-1)

”غیر یہود کے مالیاتی اداروں اور ان کے زعماء کے لئے ہم جو اصلاحات کریں گے وہ ایسی شوگر کوٹڈ ہوں گی کہ نہ تو انہیں چونکائیں گی اور نہ ہی انہیں نتائج کا احساس ہوگا۔ غیر یہود نے اپنی حماقتوں سے اپنے مالیاتی امور کو جس طرح الجھا لیا اور بند گلی میں

کھڑے ہو گئے، ہم انہیں اصلاحات کے نام پر یہ راہ سمجھائیں گے۔“ (پروٹوکولز، 20-27)

☆ شکاری کا جال :

”غیر یہود کو بلا ان کی حقیقی ضرورت کے، قرضوں کی چاٹ لگا کر ان کی افسر شاہی میں رشوت خوری عام کر کے، انہیں کاہلی اور نااہلی کے بار میں دھکیل کر ہمیں ان سے دو گنا، تین اور چار گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ مال سمیٹنا ہے۔“ (پروٹوکولز، 21-2)

”ہمارے ’مزاحیہ‘ ڈرامے کا پردہ ہٹتے ہی یہ حقیقت سب کے سامنے آجائے گی کہ ہمارے قرض سے بوجھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ سودی بوجھ کم کرنے کے لئے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں جن سے نئے قرضے اور نئے سود کا بوجھ بڑھتا ہے اور یوں اصل زر کی ادائیگی تو رہی ایک طرف، صرف سود کی ادائیگی کے لئے عوام کی گاڑھے کی کمائی ٹیکسوں کی زد میں آجاتی ہے۔ یہ عوامی ٹیکس، قرض اور سود سے بڑھ کر قوم کے لئے اذیت ناک ثابت ہوتے ہیں۔“ (پروٹوکولز، 21-4)

”غیر یہود نے یہ سوچنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ جو قرض ہم سے لیتے ہیں اس کی ادائیگی یا اس پر سود کی ادائیگی کے لئے بھی وہ ہم ہی سے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں، دراصل یہ ہماری منظم سوچ کا عروج ہے جس سے ہم نے غیر یہود حیوانوں کو مسخر کر رکھا ہے۔“ (پروٹوکولز، 20-36)

☆ سود کا کرشمہ :

”غیر یہود کے ہاں جب تک معاملہ مقامی داخلی قرضوں تک محدود تھا تو بات یوں تھی کہ مال غریب کی جیب سے امراء کی جیبوں میں منتقل ہوتا تھا مگر جب ہم نے اپنے زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے غیر ملکی قرضوں کی چاٹ لگائی تو غیر یہود کے تمام تر سرمایہ نے ہماری تجویزوں کی راہ دیکھ لی، یوں کہنے کہ یہ خارجی قرضوں پر سود کی صورت میں غیر یہود کا خراج ہے جو وہ ہمیں باقاعدگی سے ادا کرنے پر مجبور ہیں۔“

(پروٹوکولز، 20-32)

”غیر یہود حکمرانوں کے بناوٹی معیار معاملات اور نااہل بے تدبیر وزراء شعور و احساس ذمہ داری سے عاری افسر شاہی اور ان سب کا اقتصادیات کی اجد سے ناشناس ہونا، سب پہلو مل کر ان ممالک کو ہمارا مقروض بناتے ہیں اور جب ایک بار سودی جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر نکلنا ان کے لئے ناممکن بن جاتا ہے۔“

(پروٹوکولز، 20-33)

”کوئی حکومت اپنے ہی ہاتھوں دم توڑ جائے یا اسکی اندرونی خلفشار اس پر کسی دوسرے کو مسلط کر دے، معاملہ جیسا بھی ہو، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے اور اب یہ ہماری (حقیقی) قوت ہے۔ سرمایہ پر بلا شرکت غیرے ہمارا کنٹرول ہے، جو جس قدر ہم چاہیں کسی حکومت کو (اپنی شرائط پر) دیں، وہ خوشدلی سے اسے قبول کر لے یا مالی بحران اپنا مقدر بنالے۔“

(پروٹوکولز، 1-8)

”غیر یہود حکومتوں (گوٹم) کی سیاسی موت اور غیر ملکی قرضوں کے

بوجھ تلے ہلاکت کی خاطر ہم بہت جلد مختلف شعبہ ہائے حیات میں اپنی اجارہ داریاں قائم کریں گے خصوصاً زر و دولت کے ذخائر پہ جو غیر یہود کو لے ڈوبیں گے کہ ان کی قسمتوں کا فیصلہ یہی سونا کرے گا۔“ (پروٹوکولز، 6-1)

مالیات پر یہود کی یہ اجارہ داری ورلڈ بینک (World Bank) آئی ایم ایف (IMF) لندن اور پیرس کلب جیسے بہت سے اداروں کے ذریعے ہے جنہوں نے آکٹوپس کی طرح ہر حکومت کے مالیاتی نظام کو بے بس کر رکھا ہے۔ سیاسی اجارہ داری کے لئے اقوام متحدہ (UNO) اور اس کی سلامتی کونسل (Security Council) ہے تو صحت پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کی اجارہ داری ہے۔ تجارت اور مزدور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (WTO) اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن (ILO) سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ تعلیم و صحت کے لئے یونیسف (UNISEF) ہے تو زراعت کے لئے ایف اے او (FAO) کا دستِ قدرت کار فرما ہے۔ سماجی معاشرتی میدان میں لائسنز اور روٹری انٹرنیشنل طرز کے سماجی ادارے ہیں۔

☆ قرض کی ری شیڈ یولنگ :

”قرض“ بالخصوص غیر ملکی قرض کی حقیقت کیا ہے؟ قرض فی الاصل ایسی گارنٹی کا نام ہے جو رقم کے ساتھ سود کی ادائیگی کے لئے لکھی جاتی ہے مثلاً اگر 8 فیصد شرح سود طے ہو تو قرض لینے والا حکمران 20 برس بعد قرض کی اصل رقم کے برابر سود ادا کرے گا (مدد وقت ادا نہ کر کے ری شیڈ یول کرائے تو) 40 سال بعد اسے دوگنا کر لیجئے اور 60 سال ہوں تو تین گنا اور مزے کی بات یہ کہ اصل زر پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔“ (پروٹوکولز، 20-30)

مذکورہ مختصر بحث کے بعد عقل کی قلیل مقدار ہی یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ انسان کے خالق کا علم اور اس علم کی روشنی میں راہنمائی کس قدر کامل، اعلیٰ و ارفع ہے۔ جو چیز آج مسلمان حکمرانوں کو یہود کا باج گزار بنا رہی ہے، جس غلاظت نے معیشت تباہ کی ہے جس تباہی پر ہر کوئی شاہد ہے، جس قباحت نے افراد کا، خاندانوں اور اداروں کا، سکھ چھین لیا ہے، اس کے نقصانات پر ساڑھے چودہ سو سال قبل ہمہ جہت مکمل راہنمائی دے دی گئی تھی۔ مگر کس قدر عقل کا اندھا پن ہے کہ خالق پر ایمان کے دعویدار ہی خالق کے فرامین سے بغاوت کے مرتکب ہوئے اور خالق کے باغی ہونے کے ناتے ناک تک دلدل میں دھنس گئے کہ اب سانس لینا مشکل ہے۔ یہ بھول گئے کہ خالق نے مخلوق کے لئے جو چیز بھی طے کی ہے وہ ہر دور کے لئے قابل عمل ہے۔ اگر کہیں مشکل سمجھی جاتی ہے تو انسان کی اپنی کم عقلی سدا رہا ہے۔

سور حرام ہے مگر جان چانے کے لئے، جان چانے کی حد تک کھا لینے کو اجازت خود خالق نے دی مگر سود کھانے کو کسی بھی حالت میں روانہ رکھا گیا کہ یہ معاشرتی اور سماجی غلاظت ہی نہیں اقدار پر اثر انداز ہو کر انسان کو حیوان بنا دینے والی چیز ہے۔ ایک حقیقی دنیوی تجربے سے سود کی تباہی کا یہ پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ اگر کسی انسان یا حیوان کے جسم میں بیماری کے سبب کیڑے پڑ جائیں تو چار مسلمہ سود خوروں کا نام کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں تو اس کے جسم میں کیڑے ختم ہو جائیں گے (یعنی مر جائیں گے) جس کا جی چاہے تجربہ کرے۔ سود کھانا (لینا دینا) تو رہا ایک طرف، محسن انسانیت ﷺ کی زبان مقدس سے یہ لفظ ادا ہوں کہ سود کی دستاویز پر گواہ بننے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی حقیقی مال سے ستر بار زنا کا ارتکاب کیا ہو تو آخرت کا شعور رکھنے والا رہ جاتا ہے۔ مگر فکر آخرت سے ملنے کے لئے یہ شیر مادر ہے۔

وہ یہودی نبی گزرا، وہ روح مزدک کا بڑوز

ہر قبیلوں نے وہی اس کے جنوں سے تار تار

خانہدانی منصوبہ بندی

اور

تخریف و تشریح

الحاج مولانا شاہ محمد جعفر چھپلواری کی تحقیق
اسلام اور خانہدانی منصوبہ بندی

اور

پروفیسر رفیع اللہ شہاب کی تحقیق
بہبود آبادی کا اسلامی تصور

تحقیق کے پردہ میں مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ

محکمہ بہبود آبادی کا تحریف شدہ آیات و الہام
متنازعہ کیلنڈر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS THE MOST MERCIFUL.

CALENDAR
995-96

ترجمہ انگریزی عبارات کیلنڈر سال ۹۴-۹۵

DESIGNED BY:
ACE Communications
Lahore.

CALLIGRAPHY:
Safeez Anjum

RESEARCH:
M Nasrullah

ڈیزائن کیلنڈر (تیار کنندگان) پیس کمیونیکیشنز لاہور

خطاطی: حفیظ انجم

تحقیق کنندہ: کے ایم نصر اللہ

APRIL 1995

FRI		14	28
SAT	1	15	29
SUN	2	16	30
MON	3	17	
TUE	4	18	
WED	5	19	
THU	6	20	
FRI	7	21	
SAT	8	22	
SUN	9	23	
MON	10	24	
TUE	11	25	
WED	12	26	
THU	13	27	

ناولا نجلنا
مالا طاقتا لتلبه

بار ۳ سورة البقرة آیت ۲۸۱

OUR LORD IMPOSE NOT ON US THAT WHICH WE HAVE NOT STRENGTH TO BEAR.

MAY 1995

FRI		12	26
SAT		13	27
SUN		14	28
MON	1	15	29
TUE	2	16	30
WED	3	17	31
THU	4	18	
FRI	5	19	
SAT	6	20	
SUN	7	21	
MON	8	22	
TUE	9	23	
WED	10	24	
THU	11	25	

اللہ لا یغیر ما یقومون
حتی یغیروا ما بانفسهم

بار ۱۳ سورة الرعد آیت ۱۱

LR. ALLAH CHANGES NOT THE CONDITION OF A FOLK UNTIL THEY CHANGE THEMSELVES

JUNE 1995

FRI		9	23
SAT		10	24
SUN		11	25
MON		12	26
TUE		13	27
WED		14	28
THU	1	15	29
FRI	2	16	30
SAT	3	17	
SUN	4	18	
MON	5	19	
TUE	6	20	
WED	7	21	
THU	8	22	

لیستعرفون الذین لا یجدون
تکاحا حتی یقینوا بالله من فضله

بار ۱۸ سورة النور آیت ۲۲

AND LET THOSE WHO CANNOT FIND A MATEUR KEEP SEARCHING TILL ALLAH GIVE THEM
RESPONSE BY HIS GRACE.

JULY 1995

	14	28
1	15	29
2	16	30
3	17	31
4	18	
5	19	
6	20	
7	21	
8	22	
9	23	
10	24	
11	25	
12	26	
13	27	

آیت قرآن میں لفظی تحریف

وتكاثرت في الأولاد كما تكثرت
الحب البقار نباته ما يحبو الدنيا الأمانع لغرور

اور ماں اپنے بچوں کو دوڑنے سے زیادہ طلب کی مثال دیکھئے جیسے بچے کھانے پینے سے ان پر ہونے کو نہیں

پارہ ۲۷

سورة الحديد آیت ۲۰

AND RIVALRY IN RESPECT OF WEALTH AND CHILDREN, IS AS THE LIKENESS OF VEGETATION AFTER AND, ITS GROWTH IS PLEASING TO THE FARMERS WHEREAS THE LIFE OF THE WORLD IS BUT THE MATTER OF ILLUSION.

AUGUST 1995

	11	25
	12	26
	13	27
	14	28
1	15	29
2	16	30
3	17	31
4	18	
5	19	
6	20	
7	21	
8	22	
9	23	
10	24	

يا ايها الذين آمنوا
عن ذكر الله من ثقل ما كنتم تكسبون

پارہ ۲۸

اور ماں اپنے بچوں کو دوڑنے سے زیادہ طلب کی مثال دیکھئے جیسے بچے کھانے پینے سے ان پر ہونے کو نہیں

O, YE WHO BELIEVE! LET NOT YOUR WEALTH NOR YOUR CHILDREN DISTRACT YOU FROM REMEMBRANCE OF ALLAH. THOSE WHO DO SO ARE THE LOSERS.

SEPTEMBER 1995

	15	29
1	16	30
2	17	
3	18	
4	19	
5	20	
6	21	
7	22	
8	23	
9	24	
10	25	
11	26	
12	27	
13	28	

والوالدات يحضرن اولادهن
سولين مكملين لمن اراد ان يتم الصلوة

پارہ ۲۴

اور ماں اپنے بچوں کو دوڑنے سے زیادہ طلب کی مثال دیکھئے جیسے بچے کھانے پینے سے ان پر ہونے کو نہیں

MOTHER SHALL Suckle THEIR CHILDREN FOR TWO MONTHS WHO WISH TO COMPLETE THE SICKLES.

Marfat.com

OCTOBER 1995

FRI	13	27
SAT	14	28
SUN	1	29
MON	2	30
TUE	3	31
WED	4	
THU	5	
FRI	6	20
SAT	7	21
SUN	8	22
MON	9	23
TUE	10	24
WED	11	25
THU	12	26

انعام اور اولاد

پارہ ۲۸ سورۃ السمعتہ آیت ۲

پہچانت کے دن تمہارے رشتے خاندان کے اور اولاد

YOUR TIES OF KINDRED AND YOUR CHILDREN WILL AVAIL YOU NAUGHT UPON THE DAY OF RESURRECTION.

NOVEMBER 1995

FRI	10	24
SAT	11	25
SUN	12	26
MON	13	27
TUE	14	28
WED	1	29
THU	2	30
FRI	3	17
SAT	4	18
SUN	5	19
MON	6	20
TUE	7	21
WED	8	22
THU	9	23

انعام اور اولاد

پہچانت کے دن تمہارے رشتے خاندان کے اور اولاد

انعام اور اولاد

پہچانت کے دن تمہارے رشتے خاندان کے اور اولاد

پارہ ۹ سورۃ انفال آیت ۲۸

پہچانت کے دن تمہارے رشتے خاندان کے اور اولاد

JANUARY 1996

1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

لَيْسَ لِلْأَمْوَالِ الْأُولَىٰ حِسَابٌ لِّمَن يَدُونُهَا

اللَّهُ لِيَسْئَلَهُمْ فِيهَا عَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا لِيَمْلِكَنَّهُمْ فِيهَا وَلَا لِيَصْنَعَنَّ الْفُلُوكَ سَائِرَاتٍ

پہ ۲۴ شعبۃ النجم آیت ۲۹

JANUARY 1996

1	23
2	24
3	25
4	26
5	27
6	28
7	29
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

فَلَا تَحْبِبَّكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَوْلَادُ وَلَا الْأَمْوَالُ الَّتِي يَكْتَسِبُونَ

لِيَسْئَلَهُمْ فِيهَا عَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا لِيَمْلِكَنَّهُمْ فِيهَا وَلَا لِيَصْنَعَنَّ الْفُلُوكَ سَائِرَاتٍ

پہ ۱۰ شعبۃ توبہ آیت ۵۵

لَيْسَ لَكُمْ فِيهَا حِسَابٌ وَلَا لِيَمْلِكَنَّهُمْ فِيهَا وَلَا لِيَصْنَعَنَّ الْفُلُوكَ سَائِرَاتٍ

SO LET NOT THEIR FATHERS NOR THEIR CHILDREN PLEASE THEE (O MUHAMMAD), ALLAH THEREBY INTENDS BUT TO PUNISH THEM IN THE LIFE OF THE WORLD AND THAT THEIR SOULS SHALL PASS AWAY WHILE THEY ARE DISBELIEVERS.

MARCH 1996

1	15	29
2	16	30
3	17	31
4	18	
5	19	
6	20	
7	21	
8	22	
9	23	
10	24	
11	25	
12	26	
13	27	
14	28	

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْفِتْنَةِ عَلَيْكُمْ عِنْدَنَا

پہ ۲۲ شعبۃ سبأ آیت ۲۴

لِيَسْئَلَهُمْ فِيهَا عَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا لِيَمْلِكَنَّهُمْ فِيهَا وَلَا لِيَصْنَعَنَّ الْفُلُوكَ سَائِرَاتٍ

AND IT IS NOT YOUR WEALTH NOR YOUR CHILDREN THAT WILL BRING YOU NEAR (O TO US), (BUT HE WHO BELIEVE AND DOES GOOD).

Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَہِ سِتْمِیْنِ ۝

رہنمائی:

روزمرہ کی عملی زندگی میں ہم اس شخص کو بہت ہی عقلمند تسلیم کرتے ہیں جو کسی کام کو شروع کرنے پہلے سوچ بچار کرے، مشاورت کر لے اور کئے جانے والے کام کے سلسلے میں تمام تر جزئیات کے ساتھ ساتھ اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لے کر قابل عمل منصوبہ بندی کرے اور پھر جب کام کا آغاز ہو تو کی گئی منصوبہ بندی کے مطابق تکمیل کے لئے کوشاں رہے۔

لوگ معمولی مکان کی تعمیر سے لے کر بڑی سطح کے منصوبوں تک کے لئے متعلقہ کام پر مہارت مند بننے والوں کو تلاش کر کے ان سے نقشے اور رپورٹیں (فیزیبلیٹی رپورٹس) زر کثیر کے خرچ سے حاصل کرتے ہیں۔ ان رپورٹوں میں وسائل آمد و خرچ اور مستقبل کے حوالے سے کام کو درست انداز میں چلانے کے لئے تمام تر باتوں کا ذکر ہوتا ہے اور یوں احسن منصوبہ بندی کم و بیش جزو ایمان شریعی ہے، یہ اس انسان کی سوچ، منصوبہ بندی ہے، جسے ایک تخلیق کنندہ نے تخلیق کیا اور جس کی اپنے خالق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اس کائنات کے خالق نے ارض سامیں بے شمار قسم کی تخلیق کی، جس میں سے احتمالی کم کا ہمیں قسم اور اک نصیب ہے اور بہت کچھ باوجود ترقی کے دعووں کے ہم سے لو مجمل ہے۔ سچ کہا جائے تو ابھی تک اپنی بات سے متعلق بھی ہمیں حقیقی علم نہیں ہے، مثلاً "زندگی کس چیز کا نام ہے؟ نیند کیا ہے؟ جینس کس طرح پیدا ہوئی ہیں۔ ہم علم کی اعلیٰ انتہاؤں تک بزم خویش پہنچنے کے باوجود ٹانگ ٹوئیں مارتے دیکھے جاتے ہیں اور ہم یقین کی دولت ہمارا مقدر نہیں ہے بلکہ ہم اپنے جسم کی ساخت پر بھی عمل فور نہیں کر پائے۔

خالق کائنات کے متعلق "ہم عقلمندوں" کا گمان ہی نہیں فیصلہ یہ ہے کہ اس نے تخلیق کائنات، بلا کسی منصوبہ بندی (Planning and Feasibility) الٹ ٹپ کر ڈالی ہے، خصوصاً "تخلیق انسان کے لئے" اس کا نظام قابل توجہ ہے کہ پیدائش کا سلسلہ ڈھیلا چھوڑنے کے نتائج جب سامنے آئے، تو قرآن میں اللہ بیان کو اس سے باز رہنے کی تلقین کرنا پڑی، نتائج بد اور عواقب سے دور رکھنے کے لئے صحیح صحت کا سہارا بنا پڑا۔ لَعَالِیْہِ وَاٰلِہٖہٗ رَاجِعُوْنَ۔

خالق نے اپنے آپ کو بہت عالیشان کی صفت سے متعارف کرایا مگر وہ بہبود آہلوی کا کام "معیاری" نہ رکھ سکا، تاکہ یو۔ این۔ لو، آئی ایم ایف اور ان کے ذیلی لواردوں کی سرپرستی میں، ملت مسلمہ کو، (غیر منصوبہ) کا ذکر کرنے والوں کی مفضوبین کی سرپرستی میں، خصوصاً "اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، بہبود آہلوی کے

لئے "عالمی بہبود" کے ان لوگوں کی امداد سے، محکمہ بہبود آبادی قائم کرنا پڑا، جو کبھی محکمہ خاندانی منصوبہ تھا اور آج پرانے فنکاروں کے نئے جہل کی طرح بہبود آبادی ہے، ریڈیو، ٹی وی پر بہبود آبادی کے لوگوں کی بہبود کی خاطر جو کچھ آج دے رہے ہیں ماضی میں انسانیت کو کبھی میسر نہ آ سکا تھا، کہ قرآن کریم سے راہنمائی بھی۔ آج معصوم بچے والدین سے معنی پوچھتے ہیں تو "گنوار" "جابل" "پرست" منہ پھیر لیتے ہیں اور اس سبب اولاد کا تجسس مزید بڑھ جاتا ہے۔ شاید کچھ روشن خیال کم موضوع پر باہم لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔

ملک کی وزیر اعظم صاحبہ بھری مجلس میں (بہبود آبادی کانفرنس میں خطاب کے دوران) گذشتہ سلاحت کے اگارت جانے کا برملا اقرار کر چکی ہیں کہ اس محکمہ پر اربوں روپیہ خرچ ہوا مگر نتائج ڈراما تین پات ہی رہے۔ محکمہ کو مزید مستعدی سے کام کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحبہ، بہبود آبادی، نعو، یومتی آبادی وسائل کو ہڑپ کر رہی ہے، کے برعکس، بیرونی سرمایہ کاری کے فیوض و برکات ہوئے، ٹی وی پر قوم کے نام اپنے خطاب کے دوران اس حقیقت کو بھی واشگاف الفاظ میں تسلیم کر چکا پاکستان میں بے پناہ وسائل ہیں۔ (جن کی لوٹ کے لئے غیر ملکی یہاں سرمایہ کاری کرنے آئے ہیں اور

کی یومتی آبادی کے سبب شبہ ہے کہ ان وسائل پر پلنے والے گدھوں کا حصہ کم رہ جائے گا) بیرونی ان وسائل کو پاکستانی قوم کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنانے کے لئے اربوں کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں لائسنز شیر لے جانے میں ان کو کھل آزادی ہو گی۔ یہ وہ کم وسائل ہیں جن کو پاکستان کی یومتی آپہ شدید خطرہ لاحق ہے۔

حکومت کے پراپیگنڈے اور وسائل کے ضمن میں اس کھلے تضاد کو، بین الاقوامی مالیاتی اور محنت اور مدد کے تناظر میں سمجھنے کے لئے عقل و دانش کی وزنی مقدار کی ضرورت نہیں ہے۔ خاندانی بندی یا بہبود آبادی کے نام پر مدد دینے والے ممالک اور ادارے اگر کثرت آبادی کو فی الواقعہ مصیبت ہیں تو ان کے اپنے یورپی یا غیر مسلم ممالک میں اس امداد کے سوتے کیوں نہیں پھوٹتے۔ صرف مسلم کثیر آبادی سے وسائل کو خطرہ کیوں ہے؟

ہم اختصار کے ساتھ یہاں بطور ثبوت ایک مغربی عیسائی کا حقیقت پر مبنی بیان نقل کرتے ہیں جو آئیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔

"سرب کہتے ہیں، ہم اسلام کو روک رہے ہیں۔" کے زیر عنوان، بوسنیا کی خود ساختہ سرب حکومت کے وزیر اطلاعات ویلبر آسٹو جک کہتے ہیں، "یورپ کے عیسائی لوگ ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ ہم تو ان کی محافظت کر رہے ہیں۔" "اسلام ہر جگہ پھل پھول رہا ہے۔ عیسائی لبنان اور سائپرس پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آرمینا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس مالیات ہے، ایک نظریہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یومتی

ہوئی آبادی ہے" "..... اس نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ اونچی شرح پیدائش مسلمانوں کو 2000 تک بوسنیا کا اکثریتی گروہ بنا دے گی۔" (رائٹر - ڈان ۹۲-۸-۱۳)

غیر مسلم اقوام کو ہے جس کے سبب مسلم ممالک میں خاندانی منصوبہ بندی پر زور ہے، اعداد و دی جا رہی

حکومت پنجاب کا شائع کردہ کیلنڈر برائے سال 1995-96ء ہمارے سامنے ہے جو بات سے مزین ہے بہود آبادی کے حق میں قرآنی فیوض و برکات اور تعلیمات و تہذیب کے لئے قرآنی پر "حقیقی کام" کسی نصر اللہ خان کی علمی کاوش کا ثمر ہے۔ بد محیسی کی بات یہ ہے کہ نصر اللہ خان نام اور اپنے کام پر نظر نہ رکھی۔

رب العزت کے 'قرآن حکیم کی حفاظت اپنے ذمہ لے لینے کے بعد' کہ "ہم نے اس ذکر (قرآن) کو ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے" لفظی تحریف کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا گذشتہ چودہ سو برس کا طویل سفر اس پر گواہ ہے مگر معنوی، تفسیری تحریف کے دروازے کھولنے والے بد بخت وار میں پیدا ہوتے رہے مثلاً "قادیانی طرز کے لوگ۔"

خالق نے 'آدم علیہ السلام سے جس انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا تھا اور جس کی انتہا قیامت سے نہ ہونے والے انسان پر ہو گی' اس تخلیق کی دعویٰ زندگی کے لئے اسے دوسری ہر طرح کی مخلوق کی کے بقا و فنا کے تقاضوں کے ساتھ مربوط کر کے، اپنے لئے رب العالمین کا صفاتی نام اپنایا، جس کے "اپنی مخلوق کی پرورش، بہود و بھلائی کا ضامن" جسے ہم صرف پالنے والا اور پرورش کنندہ کا ہلکا سا نام سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے رب مان لیا ہے۔

تخلیق کائنات سے آج تک رب العالمین ہی اپنی مسلم، غیر مسلم اور دہریہ وغیرہ ہر قسم کی مخلوق کو پال کر یکایک اس کی مخلوق ہی کے کچھ دانشوروں کی آنکھ کھل گئی، "عقل و بصیرت" کا سیلاب آٹھ آیا کہ نے اس دھرتی پر کثرت آبادی کے اثر دبا کو وسائل ہڑپ کرتے دیکھ لیا اور اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے، اس غم میں دبلے ہو رہے ہیں اور ان دانشوروں میں سے جو بد قسمتی سے مسلم گھرانوں میں پیدا ہو، بری عرق ریزی سے قرآنی آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملت مسلمہ کے سامنے لا رہے ہیں، کہ وہ کثرت کے مغربیت سے محفوظ رہے۔ نصر اللہ صاحب کی شاہکار تحقیق ملاحظہ ہو، جو اسی عرق ریزی کا نتیجہ ہے۔ کیلنڈر پر مندرجہ ذیل ۱۳ "آیات" لکھی گئی ہیں۔

بایضا الذین امنوا لایملکم اولادکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک

فاولک ہم الخاسرون ○ (الناسقون-۹)

"مومنو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارے والوں میں سے ہو گا۔"

☆ ۱- ولولدت برضمن ولادمن حولین کاملین لمن اراد ان یتیم لرضعته ○ (البقرہ - ۲۳۳)

”اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو پوری دودھ پلانا چاہے۔“

☆ ۲- لن یتیمکم اصلکم ولا ولادکم یوم القیامۃ ○ (المائدہ - ۳)

”قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناٹے کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد۔“

☆ ۳- وما اصلکم من مصیبه فیما کسبت لیدیکم ○ (شوری - ۳۰)

”اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے فعلوں سے ہے۔“

☆ ۵- وعلموا انما اولکم وولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم ○ (الانفال - ۲۸)

”اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس (نیکیوں) کا بڑا ثواب

☆ ۶- لیس للانسان الا مصلی ○ (الجم - ۳۹)

”انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔“

☆ ۷- فلا تصحبک اولکم وولادکم انما یرید اللہ لیصدبکم بصلواتہ لعلکم تاتقون ○ (التوبہ - ۵۵)

”اے محمد! تم کفار کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی

ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو یہ کافر ہوں۔“

☆ ۸- وما اولکم ولا ولادکم بالحق تقریکم عندنا زلفی ○ (الباقہ - ۳۷)

”اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔“

☆ ۹- وتکثر فی الاموال واولادکم کما عجب الکفار نہایہ و مال صیوۃ الدنیا

○ (الحمد - ۲۰)

”اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، کسانوں کو اس سے کھیتی بھلی لگتی ہے یہ دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔“

☆ ۱۰- وستصف الذین لا یجدون نکاحاً حتی یضربہم اللہ من فضلہ ○ (النور - ۳۳)

”اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامن کو اختیار کئے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔“

☆ ۱۱- لن اللہ لا یضیر ما یقوم حتی یضربوا ما ینفسہم ○ (الزمر - ۱۱)

”خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

☆ ۱۲- رہنا ولا تصعلنا ملا طلقہ لنبہ ○ (البقرہ - ۲۸۶)

”اے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔“

کثرت اولاد کی "معیشت" سے محفوظ رکھنے کے لئے خدائی حیسات آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ بلاشبہ
 نائب نیر اللہ خان صاحب اور محکمہ بہبود آبادی کا "احسان مند" ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑی محنت سے
 اس کو یہ سمجھایا ہے کہ ان کے خالق نے مال اور اولاد دونوں کو ہی پسند نہیں کیا اور "خدائی تعلیمات" کو
 راجو کوئی "زیادہ اولاد پیدا کرے گا" وہ خود ہی اس کا "وبال" بھگتے گا اور بندے کو ہر لمحہ یہ دعا کرتے
 ہیں کہ اے پروردگار! ہم پر اتنا بوجھ (اولاد کا) نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔

حکومت کے ارنے سے اعلیٰ ملازم اپنے لئے تو قدم قدم منصوبہ بنائیں اور ان کے خالق نے انہیں کسی
 کے بغیر پیدا کر دیا ہو، کس قدر عقل سے عاری سوچ ہے، حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ خالق نے انسان
 تین سے لاکھوں سال قبل وسائل پیدا کئے اور وسائل کے استحکام کے بعد حضرت انسان دنیا میں تشریف
 سلائی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم، پاکستان میں بے پناہ وسائل کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کر چکی ہیں بلکہ
 ان کے عوام کے گھروں تک ان وسائل کو پہنچانے کے خاطر (کہ پاکستانی قوم اپنے وسائل سے خود استفادہ
 کی "اہلی" نہیں ہے) انہوں نے غیروں کو سرمایہ کاری کے لئے دعوت دی ہے۔ (یا اپنی قوم کے منہ
 تمہ چھین کر غیر ملکی حقیقی آقاؤں کی جھولی بھرنے کی سعی کی ہے کہ اقتدار کو استحکام ملے یا اس نہانے
 کی "نعت" سوئیزرلینڈ قیام کے لئے مددگار بنے۔ قیام پاکستان سے آج تک یہ نعت کشن کم و بیش
 کا مقدر بنتی رہی ہے)۔ بہبود آبادی والوں کے دلائل، جو ان کے لٹریچر، ریڈیو اور ٹی وی کے اشتہارات کی
 تی میں سمجھ آتے ہیں، یوں کہے جاسکتے ہیں۔

وسائل دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔

☆ کثرت اولاد سے ماں کی صحت اور باپ کی معیشت تباہ ہو رہی۔ جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں دن بدن بڑھ
 رہی ہیں۔

☆ کثرت اولاد تعلیم کے راستے کی رکاوٹ ہے اور تعلیم نہ ہونے سے جرائم معاشرے میں بڑھ رہے ہیں
 ، روزگاری بڑھی رہی ہے۔ مذکورہ مسائل و مشکلات کا حل محکمہ بہبود آبادی کے فلسفہ علم و تحقیق کے مطابق
 ہے کہ :-

☆ رضا کارانہ، مرد اور عورت اپریشن کر کے مزید اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیں اور بچے دو ہی اچھے
 اکتفا کریں۔

☆ مرد، عورت اولاد میں خاطر خواہ وقفہ کے لئے مانع حمل ادویات اور کنڈوم وغیرہ استعمال کریں۔ وغیرہ
 لیرو۔

مذکورہ دلائل کا بوداہن تو سامنے ہے ہی کہ یہ عقلمند منصوبہ بندی کریں اور جو حقیقی پیدا کرنے والا
 عمل کل ہے، اس نے بلا منصوبہ بندی، انہیں مستقبل کی منصوبہ بندی کے لئے پیدا کر دیا ہے۔ رہے ان کے

منسوبہ کے مطابق تدارک کے طور طریقے تو پاکستان کا ہر ذی شعور شہری گواہ ہے کہ ان حروں بد معاشی اور بے حیائی بومی ہے لہذا اخلاقی سماجی اقدار کی موت واقع ہوئی ہے، مگر کسی پیدا ہونے پیدائش کو کوئی روک نہیں سکا۔ منسوبہ۔ مری کے داعیوں اور امداد دینے والوں کی پہلی خواہش اور کوشش مسلمان قوم سے اس کا اخلاقی و سماجی اقدار کا سرمایہ چھین کر بد معاشی اور فحاشی اسکی جھولی میں ڈالنا۔ کسی سطح پر بھی ان کے مذموم مقاصد کے حصول میں خطرہ نہ بنے اور ہر کوئی کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران ہیں۔ کہاں ہیں وہ اقدار جو ہمیں مذہب و اخلاق کے حوالے سے ورثہ تھیں؟ آج ہماری اقدار وہ ہیں جوئی وی 'ڈش وغیرہ سے مل رہی ہیں۔

"خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں" کے مصداق ہماری حالت عملاً یہ ہے کہ اپنے مقاصد ہونے کے اقرار کے باوجود تابع تعلیمات قرآن ہونے کے بجائے ہم نے قرآن کو اپنی خواہشات ڈھالنے کے لئے سعی و جہد پر توجہ دے رکھی ہے، جس کی مثال محکمہ بہبود آبادی کے کیلنڈر پر قرآن ہے، جو اسلامی تعلیمات سے محبت رکھنے والوں کو گمراہ کرنے کے لئے چنی گئی ہیں اور یہ قرآن پاک معنوی اور تنزیہی تحریف ہے۔

قرآن پاک ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں سماجی عزت و شرف اور معاشی استحکام کا ضامن بن گیا اور عملاً یہ ایمان لانے والوں کا مقدر بنا، جس پر تاریخ شاہد ہے اور خلافت راشدہ کے کم و بیش چالیس دور کی درخشندگی ہر جھول سے پاک ہے۔ اب اسی قرآن کا نام لے کر ہم اہل ایمان کو مختلف نوعیت کی خوف سے ڈراتے ہیں۔ قرآن حکیم میں مذکورہ 12 آیات کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں جو خاندانی زندگی بربادی کے ہوئے کی جڑ کاٹی ہیں، مثلاً "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِلَيْكُمْ مَرْجِعُكُمْ" (اپنی اولاد کو سنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرنا ہم انہیں بھی روزی دیں گے تمہیں بھی بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے) (الاسرا - 35) اللہ رب العزت نے تو یہ بھی فرمایا۔

قلو ربنا اللہ تم استقامتو تنزل علیکم الملکة ○ "جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پرورش کنندہ ہے (یقین و ایمان) کے ساتھ اپنی بات کے پکے ثابت ہوئے ان پر ہم نے فرشتے اتارے (اس خوشخبری کے ہم دنیا میں بھی تمہارے حامی و سرپرست ہیں اور آخرت میں بھی سرپرست و ولی ہونگے)"

جس قرآن حکیم سے محقق بہبود آبادی نے اپنے حق میں آیات کا انتخاب فرمایا ہے، اسی سورۃ انعام کی آیت 152 ملاحظہ فرمائیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِلَيْكُمْ مَرْجِعُكُمْ (اپنی اولاد کے سبب قتل نہ کرو ہم انہیں اور تمہیں سب کو رزق دیں گے)۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انسان کی لایحک کی گارنٹی پر تو ہمارا دل جمتا ہے، مگر دل کو اطمینان نہیں، تو خالق و مالک کی گارنٹی پر نوازشات، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کی "آج" تک تجربہ کر چکا ہے۔ خوف ہے تو اپنے "کل" اپنی اولاد کے کل کے لئے اور دعویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے سچی اور مستحکم محبت۔

ی ایمان میں کچھ بھی وزن ہے؟ کیا دنیا کا کوئی شخص اپنے لئے ایسے دعویٰ محبت کو قبول کر لے گا اگر یقیناً "نہیں" تو پھر کیا ہم اپنے خالق کو دھوکہ دیتے ہیں یا اپنی ذات کو!

مذکورہ تفصیل کے بعد اب ہم بہود آبادی کے حق میں لائی گئی قرآنی آیات پر گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کے لئے ان آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے غلط مقصد براری کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور یوں گمراہ کرنے کی سعی کی ہے مقام افسوس ہے کہ علماء کے پاس محاکمے کے لئے وقت نہیں ہے جس سے انھیں انھیں انھیں کو قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ کرنے والے کھل کھیل رہے ہیں۔ لانا لانا

ہون۔

☆ سورة بقرہ کی آیت 233 "وطولدت برضمن لولاد من حوطين کاملين لمن لاملن متم" اور مائین اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو پوری دودھ پلانا چاہے" کو خاندانی منصوبہ بندی میں وقفہ اولاد کے لئے (دو سال تک دودھ پلانے کو) بطور عمل استعمال کیا ہے جو صریحاً "غلط استدلال ہے کہ یہ آیت جس کا نصف حصہ محقق نے چھوڑ دیا ہے فی کسی عورت کے بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جانے کے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت یا بچے کی ولادت کے ایام میں طلاق ہونے پر بچے کے تحفظ کی خاطر (پالنے والے رب کا) ایک حکم ہے یوں اصلاً اس کی آبادی پر پڑتی ہے کہ پیدا کرنے والا ہی حقیقی پالنے والا ہے" وسائل مہیا کرنے والا ہے، ہم تو اپنی کم فہمی اور کمزوری ایمان کے سبب وسائل کی کمی اور آبادی کی بڑھوتری سے خائف ہیں۔

اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے معروف معری مفسر سید قطب شہید لکھتے ہیں "دودھ پیتے بچے تلے میں ماں پر ایک فرض ہے" یہ فرض خود اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیا اور اسے ماں کی فطرت اور اس پر --- جسے بعض اوقات میاں بیوی کے اختلافات خراب کر دیتے ہیں، نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی اپنی ذات سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کے والدین سے زیادہ ان پر مہربان ہے، اسی لئے کے سلسلے میں ماں پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اسے پورے دو سال دودھ پلائے! اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا کہ صحت اور نفسیات کے تمام پہلوؤں کے پیش نظر، یہ بچے کے لئے ایک مثالی مدت ہے۔ صحت اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دو سال کی مدت صحت اور نفسیات کے پہلو سے بچے کی ناک کے لئے ضروری مدت ہے...." (فی ضلال القرآن تفسیر آیت 233، صفحہ 612)

☆ ☆ سورة بقرہ ہی کی آیت 286 "رہنا ولا نصلنا مالا طاقہ لناہ" ○ "اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے" بھی مسلم گمراہوں کو اولاد کے بوجھ سے محفوظ رکھنے کے لئے سامنے لائے ہیں اور انتہائی بدیانتی اور بدینتی کے ساتھ آیت کا صرف مختصر حصہ لکھا ہے جو کھلی تحریف ہے کیونکہ پوری آیت 286 "نہ کر وہ مقصد براری نہ کر سکتے تھے۔ کمال آیت کا آغاز ہی قابل توجہ

بے لایکلف اللہ نفسا لا و سصھا لھا ما کسبت و علیھا ما کسبت رہنا ولا نتحمل علیہ
 کما حملتہ علی الذین من قبلنا رہنا ولا تحملنا ملا طاقة لناہ واعف عنا و اغفر لنا و رحمت
 مولنا فانصرنا علی القوم الکافرین ○ "اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جس قدر
 طاقت ہو۔ اسی کے لئے ہیں وہ نیک کام جو اس نے کئے اور اسی پر ہے وہل ان برے کاموں کا جو
 کئے۔ اے ہمارے رب! ہم سے مواخذہ نہ کر، اگر ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے۔ اے ہمارے رب!
 پر بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب! ہم پر آزمائشوں کا وہ
 ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم و کرم فرما، تو ہمارا
 مہربان ہے، تو اہل کفر کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت دے۔"

بصیرت اور عقل و شعور کی معمولی سی مقدار کے ساتھ بھی، اگر کوئی ایمان کی سلامتی کا طلبگار
 دعا پر توجہ دے گا تو اس میں سے بہبود آبادی کی روایتی ضرورت کی تکمیل میں کچھ دستیاب ہونے کے
 اسے تقویت ایمان کی دولت ملے گی کہ ہمارا رب ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہونے کے ناطے، ہماری ہر
 بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈالتا ہے اور نہ کبھی ڈالے گا مگر اس کے باوجود اسی کی سکھائی ہوئی دعا کرتے رہنا
 ہے کہ ہمارے رب ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ یہ دعا جس سورۃ کا اختتام ہے اس میں بنی اسرائیل
 چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ نافرمانی پر کیسا بوجھ ان کا مقدر بنا تھا۔ سورۃ بقرہ کے آغاز
 سے انجام تک اگر کہیں بھی بہبود آبادی کے موجودہ مروجہ لوازم کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاسکتا تھا کہ اختتام
 بندے کو تاکیداً یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ اولاد کے بوجھ سے بچے۔

۳- ☆☆ سورۃ الانفال کی آیت 28 'واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عنده اجر عظیم'
 "اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ (بڑی آزمائش) ہے اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر
 ہے" سورۃ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل شدہ سورہ ہے جس میں غنیمت کے ضمن میں اہل ایمان کے اندر
 جزیب کی کیفیت نبی اکرم ﷺ کے سامنے آئی۔ رب العزت نے اصلاح احوال کے لئے فوراً "نولس"
 اس سورہ میں اہل ایمان کو اپنی صفیں مستحکم رکھنے، باہمی تعلقات کی اصلاح اور اطاعت رسول ﷺ کے
 تقاضے پورے کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔

مذکورہ تقاضے بطریق احسن پورے کرنے میں جو محبتیں حائل ہو سکتی تھیں، مثلاً "مال اور اولاد
 محبت" ان کا ذکر بالتخصیص فرمایا گیا کہ دین کے تقاضے پورے کرنے میں کبھی مال رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو
 اولاد کی محبت غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا۔

مال کمانے کی کوئی حد نہ قرآن نے مقرر کی اور نہ ہی کوئی تحدید زبان رسالت ﷺ سے سنی
 البتہ یہ امر مسلّم ہے کہ فرض عبادت کی ادائیگی کے بعد حصول رزق حلال کی سعی و جہد بھی عبادت
 پابندی ہے تو حرام ذرائع سے بچ کر حلال ذرائع بروئے کار لانا اور حلال ذرائع سے ہی خرچ کرنے کی۔ لہذا

رح بھی مال غیر مطلوب نہیں ہے۔ بعینہ اسی طرح اولاد کی پیدائش کی اللہ نے قرآن میں حد مقرر نہیں فرمائی۔ بچے دو ہی اچھے وغیرہ۔ نبی اکرم ﷺ کا یہ معروف فرمان کم و بیش ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ نے فرمایا: "مخثر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کرونگا"۔ قادر مطلق نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے "پالتھار" لگانے پر زور دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ کے فعل عزل پر فرمایا: "تم جو کچھ کرو، آئے والی رح کو نہ روک سکو گے" (مفہوم)

☆ ☆ سورة توبہ کی آیت 55 'فلا تصحبکم اموالکم و اولادکم انما یرید اللہ لیتذہبکم بصلواتہ صلوٰۃ لدنیا و تزہف انفسکم و ہم کافرون' ○ "پس تم ان کے اموال و اولاد کو کچھ وقعت نہ دو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لئے اس دنیا کی زندگی میں موجب عذاب بنیں۔ اور ان کی جائیں حالت زمر میں نکلیں"۔ سے استدلال کر کے محکمہ بہبود آبادی، عامتہ الناس کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ کثرت اولاد کو خالق و مالک نے عذاب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان حکیم کی تفسیری تحریف ہے۔ سورة التوبہ، جہاں سے آیت لی گئی ہے، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ منافقین مدینہ کے دیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے خواہش تھی کہ منافقین کھلے دل و دماغ کے ساتھ ایمان لے کرے پن کے ساتھ، اسلام کی صفوں میں داخل ہوں اور یوں ان کے اموال اور اولادیں، دین حنیف کی پابندی کا حصہ بن جائیں۔ یہ خواہش رسالت تھی، اور خالق دونوں طرف کے دلوں کے بھید جانتا تھا۔

رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ سے فرمایا کہ تم ان کے اموال اور اولاد کو کچھ وقعت نہ دو، دیکھ لو گے کہ یہ ان کے لئے موجب عذاب ہونگے اور یہ سب حالت کفر میں مرس گے۔ اس سیاق سباق میں اس بات کی کہاں گنجائش ہے کہ اہل ایمان کی اولاد اور ان کے اموال بھی عذاب کا سبب ثابت ہونگے، نہیں رب العزت نے اپنا انعام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اموال اور اولاد کو قرب الہی اور ضائع الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا، اطاعت کی شرط کے ساتھ، نیک اولاد کے حصول کے لئے، حلال مائل رزق کی فراوانی کے لئے، اپنے امتیوں کو دعائیں سکھائیں۔ رہنا احنا ضا لدینا حسنه و ضا لضرۃ حسنه ○

☆ ☆ سورة الرعد کی آیت ان اللہ لا یضیر ما یقوم حتیٰ یمضیٰ و اعلم انفسکم ○ "اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے" یہ بھی اور اور استدلال ہے کہ قوم کو سعی و جہد کا درس دیا گیا ہے نہ کہ تحدید آبادی کا حکم۔ خالق کائنات نے تو اپنی مخلوق کے سامنے ایک سلسلہ اصول رکھا ہے کہ میری مدد و نصرت مشروط ہے، تمہاری انفرادی اور اجتماعی مثبت سعی و جہد کے ساتھ، ورنہ ہر شے اکارت جائے گی۔

اس آیت کریمہ میں سے کسی پہلو بھی یہ مطلب نہیں نکلا کہ قوم اگر کم بچے پیدا کر کے (حالانکہ اہل حقیقت کی رو سے پیدائش کسی انسان کے اپنے بس میں ہے ہی نہیں) اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہوگی تو اللہ

تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلے گا۔ بچے کم ہونگے تو لازماً خوشحالی ہوگی۔ امر واقع یہ ہے کہ کم اولاد خوشحالی کی ضمانت ہے اور نہ معیاری تعلیم و تربیت کی۔ دونوں چیزوں کے لوازم بہت کچھ ہیں بشرطیکہ شعور کے ساتھ جانا چاہیں۔ اور یہ مسلمہ حقیقت گردو پیش دیکھی جا رہی ہے۔

۶۔ ☆ ☆ سورة النور کی آیت 33 'وہستصف الذین لا یجدون نکاحاً' حتیٰ یضربہم اللہ . فضله ○ "اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ (نکاح لئے) اللہ ان کو غنی کر دے" کا مطلب براری کے لئے انتخاب بھی محل نظر ہے۔ سیاق و سباق سے اس آیت کو دیکھا جائے تو سورة النور میں عائلی زندگی سے متعلقہ احکامات ہیں۔ یہاں مجرہ (بے نکاح) لوگوں کے نکاح معاشرتی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلی آیت ثابت کرتی ہے "تم میں سے جو لوگ مجرہ اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے" اس کے بعد یہ کیلنڈر میں دی گئی آیت آتی کہ "جو نکاح کا موقع نہ پائیں....." اور یہ بھی نامکمل نقل کی گئی ہے جو سراسر زیادتی ہے، تحریف ہے۔

بہود آبادی کے حوالے سے اس آیت پر اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے حضرت عبداللہ مسوڈ سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان عرض کرنا کافی ہے، رحمت اللعالمین ﷺ نے فرمایا "نوجوان تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کہلینی چاہیے کہ یہ بد نظری سے بچانے اور عفت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کہ روزہ آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کرتا ہے" آیت سے شادی کا عدم جواز یا تاخیری حربے ثابت نہیں ہیں آج کے دور کے جرائم و رسائل، ہلکا پھلکا اور ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام جنہیں وی سی آر اور ڈش نے سہ آہستہ بنایا ہے اور جس کے عملاً ہم شہر ہیں، عفت مابی کا ماحول کے دیتے ہیں۔ یہ تو کسی کوچہ منجھار دھکا دے کر اس سے جسم و لباس کو خشک رکھنے کے بھونڈے اور مضحکہ خیز مطالبے کے مترادف ہے۔

۷۔ ☆ ☆ سورة الباء کی آیت 37 'وما اولادکم ولا اولادکم ہلنما تقرہکم عندنا لفظاً' ○ "اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے"۔ بدترین تحریف ہے کہ مکمل آیت نقل نہیں کی گئی، مکمل آیت یوں ہے کہ عندنا لفظاً کے بعد الامن لمن و عمل صلحاً "فاولادکم لہم جہا للصف بماعملوا وہم فیما لظرفات امنون" ○ "ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے"۔

نصرا اللہ خان صاحب نے محکمہ بہبود آبادی سے چند نکلوں کو "حلال" کرنے کے لئے جس طرح قرآنی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ مرنا پسند کریں تو انہیں تجدید ایمان طرف پلٹنا چاہیے۔ مکمل آیت تو مال اور اولاد کو جنت کی خوشخبری بتا رہی ہے اور یہ محقق اسے قرب الہی دوری بتا رہے ہیں ان کی عقل کا ماتم کیا جائے یا ان محترم علما کرام پر آنسو بہائے جائیں جنہیں ایسی ہرزایات

نوجہ ہونے اور قوم کو آگاہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔

☆ ☆ سورة الثوري کی آیت 30 'وما اصحابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم ○ "اور جو بیت تم پر آتی ہے سو تمہارے فعلوں سے ہے۔" اس آیت کو نقل کرتے ہوئے بھی 'وصفوعن کثیرہ اور بت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے' آخری حصہ حذف کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ف زدہ کیا جاسکے، حالانکہ رحمٰن و رحیم رب نے اپنی کتاب میں اور مزید اپنے حبیب ﷺ کے ذریعے، سنت مسلمہ کو ہمیشہ خوشخبری سے نوازا ہے اور مذکورہ تنبیہ تو نافرمانوں کے لئے ہے۔ بہود آبادی والوں نے بی سے مقاربت کو یہاں اپنے ہاتھ سے معیبت سمیٹنے کا نام دیا ہے جبکہ بنی رحمت ﷺ نے بیوی سے مقاربت کو صدقہ فرمایا۔ اس عنوان پر آپ ﷺ کے بے شمار فرامین گواہ ہیں علما اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خبر نافرمانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے فرمانبرداروں کے لئے تو مسیت، اللہ کی سنت کے مطابق آزمائش بن کر، جات کی بلندی اور گناہوں سے صفائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ولنبلونکم بہنما من الضوف ○

☆ ☆ سورة الحديد کی آیت 20 سے 'وتکائر فمنا الاموال ولاولاد کما کف غیث اعجب الکفار نباتہ بالحبوة الدنيا الامتناع الضر ○ "اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگی ہوئی کھیتی بھلی لگتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے" محقق نصر اللہ خان نے یہاں بھی آیت مقدسہ کو نقل کرتے ہوئے تحریف کی ہے۔ مکمل آیت کو نقل نہیں کیا بلکہ درمیانی حصہ بیان بوجہ کر نظر انداز کر کے، آخری حصہ کو پہلے حصہ کے ساتھ ملا کر مطلب براری کے لئے استعمال کیا اور یوں ملت مسلمہ کو قرآنی آیات کے حوالے سے دھوکہ دینے کا ارتکاب کیا جو ملکی قانون کی نظر میں بھی قابل گرفت ہے۔ مکمل آیت یوں ہے۔ لعلموا انما الحبوۃ الدنيا لصب و لھو و زینة و نفاخر بہنکم و تکائر فمنا الاموال ولاولاد کما کف غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یھج فتر مصفرا ثم یكون خطاما" و فمنا لاضرۃ عذاب شدید و مضفرة من اللہ و رضون و ما الحبوۃ الدنيا الامتناع الضر ○ "خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشت کار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی پھر وہ محس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹیپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔" یہ تحریف کی بدترین مثال ہے۔

محقق نصر اللہ خان کا تحقیقی چناؤ، آیت کو کثرت مال و اولاد کی حوصلہ شکنی کے لئے استعمال کرتا ہے، جبکہ عملاً یہ آیت دنیا کی بے ثباتی کے مقابلے میں آخرت کی حقیقی زندگی کے تصور کو محکم ثابت کرنے کے ساتھ، منقہ کردار کے لئے (تفاخر جتانے) جہنم، اور مثبت کردار کے لئے جنت کی خوشخبری دیتی ہے۔

۱۰- ☆ ☆ سورة النجم کی آیت 39 'لمس للانسان لا ملصقا' ○ "انسان کو وہی ملتا ہے جس کو شش کرتا ہے۔" محکم بہود آبادی نے اس آیت کو اپنے مطلب کے لئے مختص جانا کہ کثرت اولاد اپنا کیا دھرا ہوتا ہے جو وہ بھگتے ہیں حالانکہ سورة نجم میں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں پہلے انبیاء کی سعی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی عظمت کا ذکر فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ "کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔۔۔ اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں مگر وہ یعنی جس کے لئے اس نے کوشش کی یعنی بھلائی کے لئے کوشش کی تو اس کا پھل اس کا مقدر ہو گا" شر کے لئے محنت کی تو اس کے ثمرات اچھے بھولے میں ہوتے اور یہ بات عملی زندگی میں ہم جت دیکھی جاسکتی ہے، کسی مخصوص زاویہ نظر سے آیت کو دیکھنا بصیرت سے عاری ہونے کی دلیل ہے۔

۱۱- ☆ ☆ سورة الممتہ کی آیت نمبر 3 'لن تنفصکم لرحمکم ولا اولادکم یوم القیامۃ' ○ "قیامت دن نہ تو رشتے ناٹے کام آئیں گے اور نہ اولاد" آیت نقل کرتے یہاں بھی محقق نے ڈنڈی ماری کہ انسان کو رشتہ داری اور اولاد جیسی نعمت سے متنفر کرنے کے لئے یہی حصہ قائمہ مند ہے تاکہ آدمی یہ سمجھے کہ جو رشتے اور جو اولاد آخرت میں میرے کسی کام نہ آئے گی اس کے لئے میں اپنے دل میں محبت رکھوں؟ یہ بھی تحریف ہے۔

اصل آیت یوں ہے 'لن تنفصکم لرحمکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم و تصعلون بصر' ○ "قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد" اس تمہارے درمیان جدائی ڈال دیگا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے" یہ آیات جس سیاق و سباق میں ہوئیں اس کو جاننے کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں اس سے استدلال زمانہ نزول کے وقت دعوت اسلامی کے آغاز میں اسلام قبول کرنے والے نفوس قدسیہ کی رشتہ داریاں ہو چکی تھیں۔ آدھا گھر مسلمان ہے تو آدھا مشرک، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر (حضرت ابو بکرؓ میدان بدین عبدالرحمن بن ابو بکرؓ مشرک کے سامنے تھے) بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، ان رشتوں کو ایک لمحہ کے انداز میں جہاں کچھ کے نزدیک آسان تھا وہاں بہتوں کے نزدیک مشکل بھی تھا۔ یہ آیت ان مشرک رشتہ داروں اور اولادوں کے سلسلے میں وضاحت ہے جسے خاندانی منصوبہ بندی نے چرنا۔

قرآن و حدیث کے علم سے محبت رکھنے والا کم علم بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام نے قرابتداری اور اولاد کے حقوق کو کس قدر اہمیت دی ہے بلکہ ایک ایک رشتہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور ان کے والدین کی شفاعت کا ذریعہ بننے پر اقوال نبوت کس کی نظر سے اوچھل ہیں!

۱۲- ☆ ☆ سورة المنافقون کی آیت 9 'یایہا الذین امنوا لاتصلحکم اولادکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یفصل ذلک فاولادکم هم الخاسرون' ○ "مومنو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ دے اور جو ایسا کریگا تو وہ خسارے والوں میں شامل ہو گا" یہ سورة جس دور اور جن حالات میں نازل ہوئی

یوں کے جاسکتے ہیں کہ راسخ العقیدہ اہل ایمان کی تعداد کم تھی اور کم تربیت یافتہ مسلمان زیادہ تھے اور لہذا مدینہ کے منافقین کی زد میں رہتے تھے رب العزت نے اپنے بندوں کی عمومی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کو جس نصیحت سے نوازا اس کا یہاں آغاز اس بات سے فرمایا کہ بالعموم مال اور اولاد اللہ اور کے رسول ﷺ کے فرامین پر عمل کی راہ میں حائل ہوتے ہیں لہذا اس میں محتاط رہو۔

اگر کثرت مال یا کثرت اولاد اہل ایمان کے لئے خطرے کی لگتی تلواری ہوتی تو خالق کے لئے قرآن میں منجملہ دوسرے تفصیلی عائلی احکامات کے اس بات کی بھی وضاحت فرمانا مشکل نہ تھا کہ دیکھو اپنی اولاد سے حد سے آگے نہ بڑھنے دینا۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ خالق (اولاد کا حقیقی پیدا کنندہ) وہ خود ہے رب (یا پرورش کنندہ) وہ خود ہے اور کائنات کے تمام تر وسائل جن کی عملی زندگی میں انسان کو ضرورت ہو ہے کا مالک بھی وہ خود ہے۔ (تمام تر وسائل بھی اسی نے پیدا کئے ہیں)۔ اس لئے اس وضاحت کی رت ہی نہ تھی۔

مذکورہ تجزیہ ہر ذی شعور کے سامنے ہے خود فیصلہ کر لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کو قرآن سے ثابت کرنے کی انتہائی دیدہ دلیری سے کس قدر بھونڈی کوشش کی گئی ہے آخر میں رب کے بندے کی پرورش کے ضمانت پر نبی اکرم ﷺ کا فرمان درج کر کے بات ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ: "شاید کہ" سے دل میں اتر جائے میری بات"

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کوئی شخص اپنے حصہ کا مکمل رزق لئے بغیر نہیں مرے گا۔ پس تم خدا سے ڈرو اور اس سے اچھی چیز مانگو۔ رزق کی کمی (یا کمی خوف) تمہیں گناہ (حرام طریقہ سے حصول) میں مبتلا نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ وہ قلم توڑ ڈیئے گئے جن سے رزق لکھا تھا اور وہ کتب اشعالی گئیں جن پر رزق لکھا گیا ہے (اب نہ دانہ کم کیا جاسکتا ہے نہ ہی زیادہ)۔"

تم اسے بے گناہ رکھو عالم کردار سے

تابساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات!

خیر اسی میں ہے قیامت تب رہے مومن غلام

چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات



”اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی“

جعفر شاہ پھلواری

(محکمہ بہبود آبادی - کیلنڈر پر تحریف قرآن کے بعد)

مولانا حاج شاہ محمد جعفر پھلواری کی کتاب ”اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی“ کے از مطبوعات پبلسٹی ایشن آف پاکستان 3 اے ٹیپل روڈ لاہور، ہمارے سامنے ہے، جس کے اندرونی مضمون مصنف نے نام کے نیچے لکھا ہے ”جس میں قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں خاندانی منصوبہ بندی حقیقت و شناخت سے بیان کی گئی ہے۔“

قرآن و حدیث یا فقہ پر بات کرنے کی حقیقی صلاحیت رکھنے والے علماء اور طلباء آج تک اس بارے میں متفق ہیں کہ قرآن حکیم کی پہلی تفسیر قرآنی آیات ہی سے معتبر ہے اور اگر متعلقہ آیت کے کوئی واضح متعین کرنے کے لئے دوسری آیت نہ مل سکے تو فرامین رسالت ماب صَلِّ عَلَیْہِمْ کا سہارا لیا جائے یعنی قرآن و حدیث سے سمجھا جائے۔

کسی حدیث کے معنی متعین کرنے کے لئے بھی اس عنوان پر قرآن کی راہنمائی یا اسی عنوان پر احکام کے فرامین کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا انداز میں بات کی جا سکتی ہے اور فقہ بھی مرہون منت ہے قرآن و حدیث کی۔ قرآن و حدیث پر بات کرنے کے لئے یہ کوئی سند (اتھارٹی) نہیں ہے کہ کہنے والا چونکہ صحابی ہے اور مصر میں جامع ازہر ہے لہذا اس کی بات وزنی ہے۔

قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے اور اس میں بہت حد تک صداقت بھی ہے کہ قرآن نازل تو ہوا خط عرب میں، پڑھنے (قرات) کا حق ادا کیا خط مصر کے قراء نے، اور سمجھنے، عمل کرنے احترام کرنے کا حق ادا کیا انہوں نے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عرب یا مصر میں قرآن فہمی پر کام نہیں یا عمل سرے سے مفقود ہے۔ الحمد للہ اس بات پر کچھ ہے مگر عجم کے مقابلے میں یقیناً ”کم ہے۔“

مذکورہ کسوٹی پر جب مولانا الحاج محمد جعفر شاہ پھلواری کی کتاب ”اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی“ جائزہ لیتے ہیں تو یہ پوری طرح جمل مرکب نظر آتی ہے۔ مصنف اگر واقعی اس کتاب کے مصنف ہیں (جس کا نام ظن ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے کسی بزرگ ہونے نے خود اوث پٹانگ لکھ کر ان سے منسوب کیا ہے) تو قرآن و حدیث کے حقیقی علم سے کورے ہی نہیں، اپنی عاقبت سے بھی بے نیاز ہیں کہ چند سکوں کے عوض لو فودت کرنے کے مجرم ہیں۔ فرمان الہی ہے ”ولاتتشر و ابایشی ثمننا قلیلاً“ (البقرہ ۴۱) اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی میں قرآن و حدیث سے ایسے بودے استدلال کئے ہیں کہ علم اور

پاتے پھر رہے ہیں اس وقت مکمل کتاب کا محاکمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے بلکہ نمونہ مشتمل از خردارے مذاق بعض قبیح غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ عامۃ الناس، خاندانی منصوبہ بندی کے لئے کم از کم حدیث کی تحریف سے محفوظ رہیں۔ جنہیں عمل کرتا ہے وہ سائنسی بیداری کے حوالے سے کریں، دین کا تقاضا سمجھ کر نہ کریں۔

سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کے حوالے سے کی گئی تحقیق آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ کو ان ان فہمی کا اندازہ ہو جائے۔ ”اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی“ صفحہ 33 پر باب 6 میں تحریر ہے۔

”اس مسئلے پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلعم کا فیصلہ کیا ہے؟

ہمارے اس کتابچے کا سب سے اہم حصہ یہی ہے۔ اس لئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے قیاسی فیصلوں سے پہلے ہی دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں ضبط اولاد کی ممانعت کی گئی ہو۔ لے دے کے صرف ایک آیت لاتقلوا اولادکم خشية املاق.... الخ پیش کی جاتی ہے جس کا شانی جواب ہم ابھی باب نمبر 5 میں دے چکے ہیں۔ اب رہی سنت، تو اس کے کثیر شواہد سے ضبط تولید (بصورت غزل) کی اجازت اور جواز ثابت ہے“

ن کے کہ ہم مذکورہ اقتباس پر کچھ عرض کریں، اس میں جس شانی جواب کا ذکر ہے وہ بھی انہی کے الفاظ احاطہ فرمائیے۔

”کیا اس کا شمار قتل اولاد میں ہو سکتا ہے؟ ضبط ولادت کے خلاف دلیل دیتے ہوئے قرآن کا یہ حکم اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقہم و اباکم ان قتلہم کان خطا کبیرا۔ (۱۳:۱۷) دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو لوگ ضبط ولادت کے لئے مادہ تولید کو ضائع کرتے ہیں اور اسے اولاد بننے کا موقع ہی نہیں دیتے، وہ گویا اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ بہت خوب!

ایک شاعر کا شعر ہے

”گس کو باغ میں جانے نہ دینا۔ کہ ناحق خون پروانے کا ہو گا“.....

مادہ تولید کے ضائع کرنے کو قتل اولاد کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ:-

☆ ۱ جراثیم حیات اولاد نہیں ہوتے، وہ صرف تخم حیات ہوتے ہیں جن کے متعلق اولاد بننے کی صرف امید ہوتی ہے.....

☆ ۲ اگر تخم حیات کے اولاد بننے کی امید ہو بھی تو جب تک زندہ اولاد نہ بن چکے، اس وقت تک وہ اولاد نہیں کہی جائے گی۔ ہر درخت کا بیج درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایک بیج کے ضائع کرنے والے پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ اس نے پورا درخت برباد کر دیا۔ ہر مرغی کے انڈے میں مرغی بننے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن انڈا ضائع کرنے والے سے مرغی کا تادان نہیں لیا جاسکتا..... (وغیرہ وغیرہ) (باب 5، صفحہ 25، 26)

آئیے اب پھلواری صاحب کی قرآن و سنت سے متعلق بصیرت کا علمی جائزہ لیتے ہیں اور سنت سے ان کی محبت کو پرکھتے ہیں ان کا یہ استدلال کہ قرآن میں سرے سے ضبط ولادت کی ممانعت میں قرآنی بصیرت کی کمی کا ثبوت ہے۔ یہ کسی مومن کی سوچ نہیں ہے۔ خالق و مالک کا ہر باشعور بندہ بات کو یوں بیان کرے گا کہ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ضبط ولادت کے حق میں نازل نہیں ہوئی اس کی ممانعت میں اہل نظر کے لئے بہت کچھ موجود ہے، جسے کور چشم نہیں پاسکتے یا وہ جن کے پاپیہ تقاضے، قرآنی تعلیم کو سمجھنے میں سدراہ ہیں۔

سب سے بڑھ کر مصنف کا انداز مخاطب، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالہ سے گستاخانہ ہے خالق اور اس کی آخری کتاب، مکمل و مدلل کتاب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کسی عام مصنف کی تصنیف پر فرما رہے ہیں اور وہ بھی انتہائی غیر سنجیدہ لہجے میں، بقول ان کے، ان کے کتابچے (اسلام اور خاندانی مسائل) کا سب سے اہم حصہ یہی (قرآن و سنت کے حوالے سے جواز مہیا کرنا) ہے۔

جس کسوٹی کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کو قرآن سے یا احادیث نبوی صلعم سے ہی حقیقی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے اس کی رو سے، مندرجہ ذیل آیات بہود آبادی کے حامیوں کے نقطہ ہائے نظر پر پود بکیرنے کے لئے کافی ہیں۔

☆ ۱ واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل (۲-۲۰۵)

جب صاحب اختیار ہوا تو اس نے زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کیں۔

☆ ۲ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا (بنی اسرائیل - ۳۱) تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ان کو رزق دینے والے بھی ہی ہیں اور تم کو بھی، ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔

☆ ۳ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً بغیر علم و حرما ما رزقهم الله افترا

اللہ (انعام ۱۳) وہ لوگ گھانٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سوچے سمجھے قتل کیا ان نعت کو جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اللہ پر افترا باندھ کر اپنے اوپر حرام کر لیا۔

مذکورہ آیت نمبر 3 کی تفسیر میں قدیم مفسرین نے اگرچہ یہی بیان کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھا وہ حلال غذاؤں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں "مگر اللہ تعالیٰ نے جس کا علم ان تمام چیزوں پر حاوی ہے چکی ہیں یا ہونے والی ہیں" ایسے وسیع المعانی الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو ہر دور کے مسائل کے حل میں آئی مہیا کریں، لغت اور محاورے کے اعتبار سے رزق صرف سامان خوراک ہی کے لئے مستعمل نہیں ہے اس کا اطلاق ہر عنایت و نعمت خداوندی پر ہوتا ہے جس میں اولاد کا عطیہ بھی شامل ہے اور چونکہ یہاں اولاد کے ذکر کے بعد ہی تحریم رزق بیان ہوا ہے جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ سے میں ہیں جو اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں جو اولاد پر اپنی ہی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔

ولانتقلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم (انعام - ۱۵۶) اپنی اولاد کو مفلسی قوف سے قتل نہ کرو ہم تمہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔

ان آیات پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی شعور و بصیرت سے دیوالیہ قرار پانے والا ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے قرآن میں کسی جگہ ضبط ولادت کی ممانعت نہیں ہے۔ آئندہ سطور میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ فرمان رسول مسلم نامید بھی پیش کریں گے تاکہ کسی کے لئے قرآن و سنت سے ضبط ولادت ثابت کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے مگر پہلے مصنف کے ایک اور قرآنی استدلال کا تجزیہ ضروری ہے۔

"حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سعید بن مسیب کا مسلک (نہرا) میں بحوالہ المغنی گذر چکا ہے یہاں ان کا ایک استدلال بھی من لیجئے جو ان دونوں بزرگوں نے آیت قرآنی سے کیا ہے الفاظ قرآنی یہ ہیں نساؤکم حرث لکم فاتواحرثکم ان شئتم (۲-۲۳۳) عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ (عبداللہ بن عباس اس آیت کے یہ معنی بتاتے ہیں کہ شوہر چاہے تو عزل کرے اور چاہے تو نہ کرے) یہی تفسیر سعید بن مسیب سے بھی منقول ہے بلکہ عبداللہ بن عمرؓ بھی اسی آیت سے جواز عزل کا استدلال فرماتے ہیں" (اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی - صفحہ ۵۰-۵۱)

جس طرح قرآن پاک میں ضبط ولادت کے حق میں کوئی لفظ کوئی آیت نہیں ہے بعینہ اسی طرح ان کریم میں عزل کرنے یا نہ کرنے پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور اگر کوئی شخص بعض بزرگوں کا نام لے کر عام مسلمانوں کو دھوکہ دے تو وہ اس دھرتی پر بدترین شخص ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 کی شان

نزول پر احادیث کا ذخیرہ گواہ ہے جس کی روشنی میں اسے عزل کے فعل کے ساتھ نتھی کرنے کا کوئی جواز ہے۔ ہاں اگر قرآن حکیم میں کوئی بھی آیت عزل کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو سوچ کا یہ پہلو بھی سکتا تھا۔

تفسیر ابن کثیر صفحہ 88، 89 اور 90 پر مکمل تفصیل جو چاہے دیکھ کر خود فیصلہ کر لے کہ جو روای نے قرآن کی تفسیر میں کس قدر ڈنڈی ماری ہے اس آیت کے حوالے سے کسی ایک روایت میں ذکر نہیں ہے آیت کی شان نزول میں دو باتیں زیادہ وزنی بیان کی جاتی ہیں۔

☆ ۱ "بخاری شریف میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے جماعت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل شرجائے تو بچہ بھیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔" (ابن کثیر صفحہ ۸۸ کالم ۲)

☆ ۲ "مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے رسول ﷺ سے کہا کہ حضورؐ میں تو ہلاک ہو گیا آپ صلعم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ صلعم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت (انسائو کم حرث لکم....) نازل ہوئی اور آپؐ نے فرمایا سامنے سے آ، پیچھے سے آ اختیار ہے لیکن پاخانہ کی جگہ نہ آ، یا حالت حیض میں نہ آ" (ابن کثیر صفحہ ۸۹)

اب آئیے اس آیت کی حضرت ابن عباسؓ سے منسوب تفسیر عزل کی طرف مندرجہ ذیل روایات اس پر کافی ہیں۔

"حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے قرآن شریف سیکھا اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا اس آیت پر پہنچ کر جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا۔ (حضرت عمرؓ کے سوال پر نزول آیت) (ابن کثیر صفحہ ۸۹ کالم ۲)۔" (کسی جگہ عزل کا ذکر نہیں ہے۔)

"ابن عمرؓ کا وہم یہ تھا (معمول یہ تھا) بعض روایتوں میں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے کسی سے بولتے چالتے نہ تھے لیکن ایک دن تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت تک پہنچے تو اپنے شاگرد حضرت نافعؓ سے فرمایا، جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ عورتوں کی دوسری جگہ کی وطنی کے بارے میں اتری ہے۔ (عزل

کا کوئی ذکر نہیں ہے) (صفحہ ۸۹ کالم ۲)

”حضرت ابن عباسؓ سے ایک شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، کیا تو کفر کرنے کی بابت سوال کرتا ہے۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ میں نے ”انی شتم“ کا مطلب یہ سمجھا ہے اور میں نے اس پر عمل کیا تو آپ ناراض ہوئے اسے برا بھلا کہا اور فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ خواہ کھڑے ہو کر، خواہ بیٹھ کر، خواہ چپ، خواہ پٹ، جگہ وہی ایک ہو“ (اس میں بھی کہیں عزل کا ذکر نہیں ہے)۔ (ابن کثیر صفحہ ۹۰ کالم ۱)

حکیم سے، ممانعت ضبط ولادت پر بات کے بعد معلم قرآن کا ایک فرمان پیش کرتے ہیں، جس نبی رحمت کے بارے میں خود قرآن، اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وما اتکم الرسول فخذوه..... رسول جو سے لے لو، یا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنۃ ”رسول ﷺ تمہارے لئے نمونہ ہیں“ رحمت اللعالمین ﷺ نے فرمایا۔

نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مکاتر بکم ”رسول اللہ صلعم نے فرمایا تم بہت پیار کرنے والی، زیادہ بیچے بیٹھے والی سے شادی کرو، میں تمہاری کی وجہ سے کہہ سکوں گا کہ میرے پیروکاروں کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہے“ (مشکوٰۃ عن معقل بن کتاب النکاح بحوالہ ابو داؤد نسائی)

فی الواقعہ مولانا الحاج محمد جعفر شاہ پھلواری کی ”اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی“ کا تمام تر روز حدیث پر ہے رسالت ﷺ کی موجودگی میں، جب نزل قرآن ہو رہا ہے، بعض صحابہ کرامؓ اپنی لونڈیوں نزل کرتے تھے، جس پر نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عزل کی مذمت فرمائی اور نہ ہی معلم برحق ﷺ کو دک ٹوک کی، یوں یہ فعل جاری رہا۔

عزل کے محرکات اس وقت کسی طور پر بھی ان معنوں میں معاشی نہ تھے کہ مفلسی کے خوف نے عزل فیجیب دی تھی بلکہ سماجی اور معاشرتی مصالح غالب تھے مندرجہ ذیل روایت اس عنوان پر روشنی ڈالتی ہے معاش کی قلت بسبب اولاد کے نقطہ نظر کی جڑ کاٹی ہیں۔

۱ ☆ ”ابن محیرز نے کہا کہ میں اور ابو صرمہ دونوں ابو سعید خدریؓ کے پاس گئے اور ابو صرمہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی جناب رسول ﷺ کو عزل کا ذکر کرتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے جہاد کیا ہے، آپ صلعم کے ساتھ بنی المصطلق کا (یعنی جسے غزوہ مرسیح کہتے ہیں) اور عرب کی بڑی عمدہ، شریف عورتوں کو قید کیا اور ہم کو بدت تک (اپنی) عورتوں سے جدا رہنا پڑا اور خواہش کی ہم نے کہ ان عورتوں کے

بدلے کفار سے کچھ مال لیں اور ارادہ کیا ہم نے کہ ان سے نفع بھی اٹھائیں (یعنی صحبت کریں) عزل کریں (یعنی انزال باہر کریں) تاکہ حمل نہ ہو پھر ہم نے کہا کہ ہم عزل کرتے ہیں اور جناب رسول ﷺ ہماری درمیان موجود ہیں اور ہم ان سے نہ پوچھیں یہ کیا بات ہے پھر ہم نے پوچھا آپ صلعم سے تو آپ صلعم نے فرمایا کہ تم اگر نہ کرو تو بھی کچھ حرج نہیں (یعنی اگر کرو تو بھی کچھ حرج نہیں) اور اللہ تعالیٰ نے جس روح کا پیدا کرنا قیامت تک لکھا ہے وہ تو ضرور پیدا ہوگی" (مسلم شریف باب حکم العزل، کتاب النکاح صفحہ ۵۸)

عزل کے اس انفرادی فعل کو قرآن و سنت سے جواز فراہم کرنے کی بلاجواز کوشش سے ملکی

عالی سطح پر خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک بنانا، قرآن و سنت سے بدترین استخراج ہے جو کسی مسلمان کے والے کو زیب نہیں دیتا۔ ملت مسلمہ کے کسی باشعور عالم نے انفرادی جواز کو اجتماعی تحریک بنانے کے لئے نہیں بنایا۔ اور خاندانی منصوبہ بندی کے داعی جن بزرگوں کی تحریروں کو عامۃ الناس کی گمراہی کے لئے فتوے پیش کرتے ہیں وہ سیاق و سباق سے الگ کر کے مطلب براری کی قبیح ترین مثال ہے، ورنہ یہ سوالات کے جواب ہیں یا علمی مباحث ہیں۔

"اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی" کے زیر تبصرہ کتابچے کے آخر میں مصنف یا محکمہ نے عوام کو نام پر دھوکہ دینے کی غرض سے 42 ایسے کتب و جرائد کی فہرست دی ہے، مسلمانوں کے دل میں عزت و محبت ہے، مگر ان میں سے کسی ایک کتاب سے بھی خاندانی منصوبہ بندی کی کسی اجتماعی تحریک میں کوئی کلمہ خیر نہ ملے گا اور کسی کو اگر دعویٰ ہے سامنے لائے۔ انفرادی مسائل و مشکلات کے جواز "وقتا" "نوقتا" علما نے عزل کی اجازت پر بات کی ہے اجازت دی ہے جیسی نبی رحمت صلعم کے دور میں پہلے اجتماعی اجازت تھی نہ آج ہے۔

مذکورہ طویل بحث کے بعد اب مصنف کے اٹھائے گئے نفاذ، کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں مادہ منویہ کو رحم میں جانے سے روکنا، ادویات سے غیر موثر بنانا، قتل اولاد نہیں ہے بیخ ضائع کرنے والے درخت ضائع کرنے کا الزام نہیں لگ سکتا، انڈہ توڑنے والا مرغی مارنے کا کفارہ نہیں دے گا، وغیرہ کی ملاحظہ فرمائیے بحیثیت مسلمان ان سوالات پر غور کیا ہوتا تو خود مصنف کا ضمیر ان کے بودہ پن کا فتویٰ دیتا۔ نبی اکرم ﷺ کا بہت ہی معروف اور اساسی نوعیت کا فرمان کم و بیش ہر مسلمان کو زبانی ہے اور بخاری، شریف کی پہلی حدیث کا حصہ ہے فرمایا انما الاعمال بالنیات "اعمال کا دارو مدار نیت سے ہے جو جس نیت کے ساتھ عمل کرے گا اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گا۔ بیخ درخت، اگانے کے لئے مختص کوئی شرارت سے، بد نیتی سے، سادگی سے بیخ ضائع کر دینے تو لامحالہ اس کے اس عمل پر اسی مناسبت سے

مرغی سے بچے لینے کی غرض سے انڈے مختص ہیں تو ان انڈوں کو جو جس نیت سے ضائع کرے گا اسی سے مجرم یا بے گنا گردانا جائے گا۔ انسان کا بیج (مادہ تولید) نہ تو درخت کا بیج ہے نہ مرغی کا انڈہ اور نہ ہی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والے خالق نے اپنی کتاب میں خود اس کی غرض و غایت بیان فرمادی اور بالعکس سوچنے والے کی نشاندہی فرمادی۔

”بنا الذی اعطی کل شیئ خلقہ ثم ہدی (طہ ۵۰) ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خاص بناوٹ دی پھر اس کو ان اغراض کے پورا کرنے کی راہ بتادی جس کے لئے وہ پیدا کی گئی۔

”ومن اضل ممن التبع ہوہ بغیر ہدی من اللہ (القصص - ۵۰) ”اس سے زیادہ گمراہ گا جس نے اللہ کی راہنمائی کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔

”ولا امرنہم فلیغیرن خلق اللہ (النساء ۱۱۹) اور ان سے کہو ننگا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت دیں۔ (شیطان کا دعویٰ - بسلسلہ ترغیب)

مذکورہ نمبر 3 پر دیئے گئے آیت ۱۱۹ کے اس حصے میں، تغیر خلق اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جس غرض کے لئے بنایا ہے اس کو اس کی اصلی غرض سے پھیر کر کسی دوسری غرض کے بحال کیا جائے یا اس انداز میں اس سے کام لیا جائے کہ اصلی غرض ہی ختم ہو جائے۔ اس اصول پر مردت کی تخلیق اور ازدواجی تعلق میں خلق اللہ (فطری غرض) اور ضبط ولادت سے تغیر خلق اللہ لازم آتا نہیں۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ضبط ولادت کے طریقے یقیناً ”تغیر کا سبب ہیں۔ بد قسمتی سے ہم قرآن و بجائے مغربی سائنسی تحقیق کے نام پر ہر کڑوی گولی نکلنے پر ہمہ وقت آمادہ رہتے ہیں، لیجئے مغربی تحقیق فرمائیے:-

”عورت کے لئے وظائف تولیدی جو اہمیت رکھتے ہیں ان کا ابھی تک پورا شعور پیدا نہیں ہوا ہے اس وظیفہ کی انجام دہی عورت کی معیاری تکمیل کے لئے ناگزیر ہے پس یہ احمقانہ فعل ہے کہ عورتوں کو تولید اور زچگی سے برگشتہ کیا جائے۔“

("Man the unknown")

by Dr. Alixis Carrel 'nobale Prize Winner)

”جذبہ جنسی آخر کس چیز کا غماز ہے اور کس مقصد کے حصول کے لئے ہے یہ بات کہ اس کا تعلق افزائش نسل سے ہے بالکل واضح ہے۔ بیالوجی کا علم اس مسئلے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے یہ ایک ثابت شدہ حیاتیاتی قانون ہے کہ جسم کا ہر عضو اپنا خاص وظیفہ انجام دینا چاہتا ہے اور اس کام کی تکمیل چاہتا ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کیا ہے نیز اگر

اسے اپنے اس کام سے روک دیا جائے تو لازماً الجھنیں اور مشکلات پیدا ہونگی۔ عورت کے جسم کا بڑا حصہ بنایا ہی گیا ہے استقرار حمل اور تولید کے لئے۔ اگر عورت کو اپنے جسمانی اور ذہنی نظام کا یہ فطری تقاضا پورا کرنے سے روک دیا جائے گا تو وہ اضمحلال اور شکستگی کا شکار ہو جائے گی اس کے برعکس ماں بن کر وہ ایک نیا حسن ایک روحانی بالیدگی پالیتی ہے جو اس جسمانی اضمحلال پر غالب آجاتی ہے جس سے زچگی کے باعث عورت دوچار ہوتی ہے۔“

(The Psychology of sex 'page 17' Dr. Oswald Schwarz)

کیا قرآن و سنت اور مغربی سائنس دانوں کے مذکورہ دلائل کے بعد، خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک کا جواز رہ جاتا ہے، جسکے لئے (مولانا) جعفر پھلواری قسم کے لوگوں سے پیسے دے کر تحقیق کراہی سے بھرپور کتب لکھوا کر، عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ ایک حدیث عزل کی بنیاد پر علماء استعمال کر کے 100 صفحات کی کتاب چھاپنے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی خزانے کا لاکھوں روپے ہائے۔

خاندانی منصوبہ بندی ملت مسلمہ کے خلاف یہود و نصاریٰ کی گھناؤنی سازش ہے کہ مسلم بڑھتی آبادی ان کے لئے خطرہ ہے۔ مسلمان کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، وقت پڑنے پر دن کے لئے دھن نچھاور کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، جنہاں اس کے رگ و پے میں ہے جس کا ثبوت 65ء کی جنگ کی تحریک نظام مصطفیٰ، جسے قوم دیکھ چکی ہے۔ 67ء میں عرب اسرائیل جنگ میں سب سے زیادہ رونا کسی جگہ ہوا تھا تو وہ پاکستان تھا۔ جسے اسرائیل نے واضح طور پر محسوس کیا اور جس کا اسرائیلی وزیر اپنے اجلاس میں ذکر کیا۔ ملاحظہ فرمائیے:-

”علیٰ سطح پر یہودیت کو پاکستان سے جو خطرہ ہے اسے اسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور یہ کہ پاکستان ہمارا پہلا نشانہ ہونا چاہئے کیونکہ یہ نظریاتی ریاست صیونیت کی بقا کے لئے مستقل خطرہ ہے اور اس لئے بھی کہ مجموعی طور پر اہل پاکستان کو یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت ہے۔ عربوں سے ان کی محبت ہمارے لئے عربوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سبب سے عالمی یہودی تنظیم کو پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کرنے چاہیں۔“ (اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریاں، بحوالہ جیوش کرائسکل 19 اگست 67ء)

یہ مسلمان سے مغرب کی خیر خواہی نہیں، کہ پاکستان کے وسائل کم ہیں آبادی بڑھ رہی ہے، بلکہ

ری بات یہ ہے کہ غیر مسلم قوتیں مسلمان کے جذبہ جہاد اور افرادی قوت سے خائف ہیں۔ ملت مسلمہ
س بے پناہ وسائل پر ان کی حریص نظریں گڑی ہیں اور وہ مسلمان کو:

خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے تعداد میں کم دیکھنے کے متمنی ہیں کہ حقیقی آقا کا مقام انہیں ہی ملے،
خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے وہ ہماری اخلاقی، سماجی، معاشرتی اقدار کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں، فحاشی اور بے
پھیلانا چاہتے ہیں، (اخبارات، رسائل و جرائد اور ٹی وی پروگرام سامنے ہیں۔)

خاندانی منصوبہ بندی کے لئے آج کی امداد کے پردے میں کل کے وسائل اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں۔

ہماری بد نصیبی کہ ہم میں سے انہیں مولانا الحاج شاہ محمد جعفر پھلواری جیسے "محقق" مل جاتے ہیں جو

آیات سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ: "قرآن نے عام قاعدہ کلیہ دے دیا کہ چند نقصانات کے ساتھ

نوائذ ہوں تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔" اور بطور دلیل قرآن پاک سے آیت لائے ہیں۔ فیہما اثم

یر و منافع للناس "ان دونوں میں کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصان ہیں۔" صفحہ 17، 18 پر ان کی

فکی دلیلیں موجود ہیں تمام دلائل کی تان ٹوٹی ہے عزل پر کہ نبی رحمت نے منع نہیں فرمایا اور قرآن نازل

ہا تھا، اور شعور و عقل کا فقدان، کہ انفرادی فعل سے جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اجتماعی تحریک کے

حس کی کسی طرح بھی کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی پھر کسی جگہ بھی اسلام میں عزل کے لئے معاش کا

سامنے نہیں آیا۔ مگر خاندانی منصوبہ بندی کا لٹریچر ہو یا ٹی وی اور اخبارات کے اشتہار، وسائل کی کمی کو بنیاد

ہے ہیں۔

ہمارے ریڈیو، ٹی وی شور مچاتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے وسائل گھٹ رہے ہیں جالانکہ سرکاری

پر وسائل کی بہتات کا بھری مجالس میں اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ وسائل کی exploration کے لئے اربوں

کی سرمایہ کاری کے لئے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نوید مسرت بھی قوم کو سنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا

آبادی میں اضافہ کرنے والا ہر فرد، "وسائل ہڑپ کرنے کے لئے" ایک منہ لاتا ہے تو وسائل پیدا کرنے

لئے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں لاتا ہے اس حقیقت پر نہ ماہرین معیشت کی نظر پڑتی ہے اور نہ ہی مولانا جعفر

واروی صاحب کی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بہبود آبادی کا اسلامی تصور

(پروفیسر رفیع اللہ شہاب)

قرآن و سنت کے نام پر تحقیق کے پردہ میں دھوکہ

ابتدائیہ :

آج ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کر ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی محفوظ رہ گیا ہو جہاں اسلام کو Exploit نہ کیا گیا ہو۔ اسلام کا نام لے کر ہم سے ہماری اقدار چھین لی گئی اور اگر کوئی بچ گئی ہے تو اسے چھیننے کے لئے ہر طرح کے ہتھکنڈے بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ تعلیم، معاش و معیشت ہو، سماج و معاشرت ہو یا خالصتاً "دینی اقدار ہوں۔ انحطاط سے بہت آگے بڑھ کر اب دیوالیہ پن تک پہنچ چکی ہے۔

ہمارے ایمان پر ڈاکہ مارنے والے کچھ نام نہاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں جو قدیم و جدید علم کے حوالے مار دے رہے ہیں تو کچھ وہ ہیں جو خالص دین کے حوالے سے اپنی پہچان کراتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو ملت مسلمہ کے مستقبل کے غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ یہ کل کیا کرے گی، فاقوں بھی مرے گی اور سرچھاپا جگہ نہ ہونے کے سبب بے موت بھی مر جائے گی۔

یہ غمخوار، کبھی ضبط ولادت کے جھنڈے اٹھائے قوم کو خوشحال کا درس دینے آتے ہیں تو کبھی اسے نام دے کر خاندانی منصوبہ بندی کے علم تلے آگے بڑھتے ہیں، بات نہیں بنتی تو یہ پرانے شکاری نئے جال ساتھ بہبود آبادی کی نئی شوگر کوٹنگولی کے ساتھ ملت کے دروازے کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں۔

مسلمان کے متعلق یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اسے اسلام اور قرآن و سنت کے نام پر جس طرح چکر دے لو۔ ضبط ولادت کے حق میں کبھی قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو کبھی فرامین صَلِّ عَلَیْہِمْ سے مطلب براری کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی زعماء ملت کے فتووں کا سہارا لیا جاتا ہے مگر مسئلہ ہے کہ اس ساری تک و دو کے باوجود "مغربی خیر خواہوں" کی مرضی کے مطابق نتائج سامنے نہیں لایا۔ امداد بے کار گئی۔

اسلام میں، انفرادی مجبوریوں کے تحت اگر عزل کی گنجائش ہے (یہ مجبوریاں طبی ہوں یا اور طرح کی)

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی برحق ﷺ کی اپنے درمیان موجودگی کے دوران اگر عزل پر کیا، نبی ﷺ نے یہ فرما کر کہ ”تم عزل کرو یا نہ کرو“ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا“ پابندی عائد پائی، تو اسے اجتماعی عمل کا نام دینے یا اسے باقاعدہ تحریک کی بنیاد بنا لینے کا جواز کہاں ہے؟۔ کیا صرف لفظ ”عزل“ کا استعمال (ہم عزل کرتے تھے اور نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے) کرنے سے مراد یہ ہے کہ جماعت صحابہ کا عمل قرار پاتا ہے کہ اس لفظ ”ہم“ کی بنیاد پر اسلام میں اجتماعی ضبط ولادت کی عمارت رومی جائے۔

ستم بالائے ستم یہ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسی مفروضہ کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کے لئے آیات کی معنوی، تفسیری بلکہ عملی تحریف تک کر ڈالی گئی۔ فرامین رسالت ماب ﷺ سے غلط معنی ایمان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور عام مسلمان کو دھوکہ دینے کے لئے اصل ماخذ کا حوالہ دینے کی بجائے تفسیری ماخذوں کا انبار لگا کر اس کے بوجھ سے اسے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسی مثل مشہور کہ ”جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ“ جو اب ما ”تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولہو۔“ کہنے والے نے کہا شعر سے شعر کا وزن بنا نہیں۔ کہا گیا مصرعے کا وزن بنے نہ بنے کولہو کے بوجھ سے تیلی تو مرے گا۔ (ویسے

تصنیف کے آخر میں پروفیسر صاحب نے اپنی اردو، انگریزی کتب کی لمبی فہرست چھاپ کر قاری کو اپنی کتب کے بوجھ تلے دبانے کی کوشش بھی کی ہے۔) یہی صورت یہاں ہے کہ قرآن و حدیث کے ماخذ کا حوالہ کتب سے دیا گیا ہے جن کی حیثیت تفسیر کی ہے اصل ماخذ کی نہیں اور ہر کسی کی دسترس میں بھی یہ نہیں

ذکر کی حیثیت:

قرآن و حدیث کا آسان اور قابل فہم ہونا مسلمہ امر ہے۔ معمولی عقل و شعور والا شخص بھی ان میں ماخذوں سے استفادہ کر سکتا ہے بشرطیکہ کوئی مخصوص عینک لگائے بغیر کھلے دل و دماغ سے استفادہ کرنا ہے۔ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرٌ لِّمَنْ أَفْلَاهُ يَعْقِلُونَ (۱۰۰) ”بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔“ اس کتاب، قرآن حکیم، کا حقیقی مخاطب مومن ہے۔

ہم اپنے کسی عزیز کو خط لکھیں تو الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بات اس کی سمجھ میں آجائے، سرور دو عالم ﷺ نے فرمایا یا عربی کا معروف مقولہ ہے: كَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ قَوْلِهِمْ ”لوگوں سے ان کی سطح پر بات کرو“ پھر خالق و مالک سے یہ کیسے امید کی جاسکتی ہے کہ اس نے قرآن تو ہمارے لئے نازل کیا مگر اتنا مشکل، کہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئے یا یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے جو کچھ فرمایا، مقصود ہماری راہنمائی تھا مگر فرمایا اس طرح کہ ہمیں سمجھ نہ آسکے۔ رہے آئمہ کرامؓ تو انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آسان ترین بنایا مگر کسوں نے صرف قرآن و حدیث ہی ہے یا اجتماع۔

بہبود آبادی:

پیشتر اس کے کہ مصنف کی علمی کاوش "بہبود آبادی کا اسلامی تصور" کا جائزہ لیں، ہم قرآن سے تصور آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ تقابلی مطالعہ سے آپ خود مصنف کی علمی تحقیق کا علمی مقام و متعین کر سکیں۔ قرآن حکیم کا آغاز ہی ہر کسی کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔ کہ ہر مسلمان اپنی نماز آغاز بھی یہیں سے کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین، شکر و سپاس (تعریف) ہے تو اللہ (خالق) کے لئے جو (پرورش کنندہ) ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی اللہ نے خالق ہونے کے ناطے، جو مخلوق بھی تخلیق (پیدا) کی اس سب کا پرورش کنندہ ہے۔ اور پرورش کے سلسلے میں کسی کو بھی شک نہیں، کہ پرورش صرف کلام پلانے کا نام نہیں ہے بلکہ پیدائش سے زندگی کے اختتام تک، عملی زندگی کی ہر ضرورت کی تکمیل کا نام پرورش ہے۔ اور اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کے لئے شکر و ممنونیت کا ہم اظہار کرتے الحمد للہ رب العالمین کہہ کر۔

مقصد تخلیق:

☆ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجہا و منہما رجالا کثیرا و نساء و تقواللہ الذی تسائلون بہ والارحام (النساء - ۱)
☆ ☆ "اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کو جوڑہ اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد عورت پھیلائے۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا رکھو۔"

☆ ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء... (آل عمران - ۶)
☆ ☆ "وہی تو ہے کہ تمہاری تصویر (شکل و صورت) بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں۔"
☆ واذ قال ربک للملکة انی جاعل فی الارض خلیفة (البقرہ - ۳۰)
☆ ☆ "اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (پر) اپنا نائب (میرے احکام کو ٹھیک نافذ کرنے والا) بنانا چاہتا ہوں۔"

بہبود تخلیق:

☆ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا و یعلم مستقرہا و مستودعہا کل کتاب مبین (ہود - ۶)

☆ ☆ "اور زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں اور کہاں دفن ہو گا اور یہ سب کتاب میں لکھا ہے۔"

☆ الم تر و ان اللہ سخر لکم ما فی السموت و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعم

بِرَّةٍ وَبِاطْنَةٍ وَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
(نعمن - ۲۰)

☆ ”کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور تمہیں پور دیں اپنی نعمتیں۔ ظاہر اور چھپی ہوئی اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس طرح کہ نہ کے پاس حقیقی علم نہ عقل اور نہ روشن کتاب (اتھارٹی) ہے۔“

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الباقیہ - ۱۳)

☆ اور تمہارے لئے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے اور اس میں یاں ہیں غور کرنے والوں کے لئے۔“

مذکورہ آیات کو بار بار توجہ سے پڑھیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ خالق نے اپنی تخلیق، خصوصاً اپنے نائب (ان) اپنے خلیفہ کی پرورش کے لئے (بطور پالناہار) کیا کیا انتظام نہیں فرمایا، کیا کیا گارنٹی فراہم نہیں فرمائی۔ انسان ہے کہ مرا جا رہا ہے ناقوں مرنے کے خوف سے۔

اللق کی گارنٹی پر ایمان :

اللہ رب العالمین کو، خالق اور پرورش کنندہ تسلیم کر لینے والوں کی شناخت بھی خود خالق نے اپنی کتاب میں کرائی ہے۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا
ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا و في الآخرة
لكم فيها ما تشتهى انفسكم و لكم فيها ما تدعون نزلا من عفور الرحيم (م سجدہ
۳۱-۳۲)

☆ ”بلاشبہ جنہوں نے (پورے یقین اور عمل کی گواہی کے ساتھ) کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب (پرورش کنندہ) ہے اور اپنے قول پر استقامت دکھائی ان پر فرشتے اترتے ہیں (اس خوشخبری کے ساتھ) کہ نہ ڈرو اور نہ غم لو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لئے ہیں اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لئے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔“

انسانی تاریخ کا درخشندہ باب، خلافت راشدہ کی صورت میں اس بات پر گواہ ہے، کہ صحابہ کرامؓ کی شہادت نے جب اللہ کو پرورش کنندہ ماننے کا عملی ثبوت فراہم کر دیا تو بلاشبہ فرشتے خوشخبری لائے جو حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ کوئی ایک آواز آج تک اس حقیقت کو جھٹلا نہ سکی۔ یوں دنیا میں دوست بننے کا اللہ کا دعویٰ برحق رہا جس پر انسانی تاریخ گواہ ہے۔

خالق و مالک کی اپنی کتاب میں ان ضمانتوں کے ساتھ، جب ہم ”خاندانی منصوبہ بندی کے محتق کے قرآن و سنت سے، ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی کے نام پر دلائل اور ”گھنٹے بڑھتی آبادی“ سے واویلا کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقل کا ماتم کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔

مدینہ منورہ کے معروف قحط کے دوران، یا اس قحط کے آثار سامنے آتے ہی، اگر نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو عزل کا حکم دیا ہوتا یا کم از کم ترغیب دی ہوتی، تو ہم سمجھتے کہ معاشی تنگی میں اجتماعی طور پر کام کیا جا سکتا ہے یا کسی صحابی نے آنحضور ﷺ کی بارگاہ میں اپنی معاشی تنگی کا رونا رویا ہوتا اور انہوں نے اجازت دی ہوتی، تو فعل عزل کو جواز بنایا جا سکتا تھا۔ مگر خالصتاً سماجی مسئلہ کو معیشت کے ہونے نہتی کر کے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کبھی مصری علماء کے فتاویٰ سے تو کبھی امام غزالی کا ہم لے کر، دیوبندی بزرگوں کے فتوے دکھائے جاتے ہیں تو کبھی شاہ عبدالعزیز محدثؒ کا نام استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ سب علمی مباحث ہیں جنہیں مقصد براری کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ قرآن و سنت کو یقیناً اچھی جانتے تھے۔ اور کسی بھی بزرگ نے عزل کی انفرادی اجازت کو اجتماعی تحریک بنانے کا فتویٰ نہیں دیا۔ کسی دعویٰ ہے تو ایسا فتویٰ سامنے لائے۔

پروفیسر شہاب کا قرآن سے استدلال:

”امام ابو حنیفہ کی طرح امام شافعی بھی اس مطلب کے لئے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں..... امام شافعی نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اور جسے بڑے ثقہ مفسرین نے ترجیح دی ہے ایسے معترض حضرات کے بے جا اعتراضات کا مسکت جواب ہے۔ پہلے وہ آیت اور اس کے عام متداول معنی ملاحظہ ہوں:-

وان خفتن الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب
لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربیع فان خفتن الا
تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ذلک ادنی الاتعولوا
(النساء - ۳)

”اگر تم یتیموں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لئے یہ زیادہ قرین انصاف ہے۔“

امام شافعی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شادی کو ایک بیوی تک

Marfat.com

محدود رکھنے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ ...
 ”امام شافعی نے ان لاتعلوا“ کی تفسیر بیان فرمائی ہے تاکہ تم زیادہ عیالدار
 نہ ہو جاؤ“ (بہبود آبادی کا اسلامی تصور، صفحہ ۱۶، ۱۷)

مذکورہ آیت کی تفسیر کو درست ثابت کرنے کے لئے پروفیسر صاحب نے لمبی بحث کی ہے مگر حضرت
 کی اس توجیح سے اختلاف کرنے والوں کا سرسری ذکر کیا ہے بلکہ ان کے اسامی گرامی تک لکھنے کی
 را نہیں کی، ان کی ارا کا حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا ہے، ”بعض حلقوں
 سے اس تفسیر پر لغت کے اعتبار سے اعتراض بھی کیا گیا“ (صفحہ ۱۷)

یہی بھی تحریر کے معنی متعین کرنے کے لئے، اہل علم کا اتفاق ہے، کہ سیاق و سباق کو نظر انداز نہیں
 کیا۔ سورۃ النساء کی آیت ۳ (زیر تبصرہ) سے قبل اور بعد بلکہ سورۃ کے آغاز سے کئی رکوع تک
 کے حقوق پر بات کی گئی ہے، بیوگان اور یتیمی کے ساتھ عدل کی بات ہے، ایک ایک رشتہ کے حقوق و
 بات ہے، اس میں کثیر العیال ہونے کے نقصانات کا کہیں اشارہ بھی ذکر نہیں، اور اس حال میں ان
 سے عیالداروں کا مفہوم نکالنا انوکھی تحقیق ہے۔ ہم یہاں مختلف ملکی اور مصری مفسرین کی تفسیر آپ
 رکھتے ہیں تاکہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قرآن کا حقیقی پیغام کیا ہے۔ اور پروفیسر شہاب قوم کو
 نام پر کیا دے رہے ہیں۔

خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث
 فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا (النساء)

اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں
 نہیں، دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر ڈرو کہ بی بیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو یا
 جن کے تم مالک ہو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ (ترجمہ امام احمد رضا خان
 بریلوی - صفحہ ۱۱۳)

”اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں جو تمہارے
 زہوں ان سے دو دو، تین تین اور چار چار تک نکاح کر لو۔ اور اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ
 کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو یا پھر کوئی لونڈی، جو تمہاری ملک میں ہو۔ یہ طریقہ اس بات سے زیادہ قریب ہے
 انصاف سے نہ ہو۔“ (تذکر القرآن جلد دوم صفحہ ۲۳۹ - مولانا امین احسن اصلاحی)

”اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے
 تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر
 ایک ہی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لئے“

یہ زیادہ قرن صواب (صحیح) ہے۔" (تفسیر القرآن جلد اول صفحہ ۳۲۰-۳۲۱ سید ابوالاعلیٰ مودودی)
 ☆ ☆ "اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم تمہیں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے جو تمہارے
 پسندیدہ ہوں نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار! لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے
 ایک عورت یا اپنی مملوکہ باندیوں پر بس کرو، اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو
 ظلال القرآن ۱۰۵-۱۰۶ سید قطب۔ مصری)

مفسر اسی آیت کی تشریح میں "عدل و انصاف کے قیام" کے عنوان سے مزید تشریح فرماتے ہیں۔
 "آخر میں آیت واضح کرتی ہے کہ ان تمام احکام کی حکمت کیا ہے، ان احکام کی حکمت اور لم ہے، ظلم
 سے پرہیز اور عدل و انصاف کا قیام ذلک ادنی الاتعولوا" اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے
 ناانصافی نہ کرو"

☆ ☆ "اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں
 بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے لیکن اگر تمہیں برابر نہ کر
 خوف ہو تو بس ایک ہی، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ہی۔ ممکن ہے ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف
 پڑنے سے بچ جاؤ۔" (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۷۴ جلد اول۔ اسماعیل ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر)

مفسر نے اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے جو کچھ آخری حصہ الاتعولوا کے بارے میں
 قابل توجہ ہے۔

"اس کے بعد کے جملے کا مطلب، مفسر نے تو کہا ہے کہ یہ قریب ہے اس کے کہ تمہاری عیال
 فقیری زیادہ نہ ہو جیسے اور جگہ ہے "سورۃ التوبہ میں وان خفتن عیالکم یعنی اگر تمہیں فقر کا ڈر
 (سورۃ التوبہ کی آیت ۲۸ میں) جب مشرکین کو مکہ سے دور رکھنے کا حکم نازل ہوا، تو اہل ایمان کے اس
 پر کہ غیر مسلموں کے تجارتی قافلے نہ آنے کے سبب مکہ میں معاشی محتاجی ہو گی، انہیں آگاہ کیا گیا
 تمہیں غنی کر دے گا، محتاج نہ رکھے گا، یہاں لفظ عید کثرت اولاد کے لئے استعمال نہیں ہوا، (ارشاد)

عربی شاعر کہتا ہے "نمایدری فقیری متی غنا، نمایدری الغنی متی عیال" یعنی فقیر نہیں جانتا کب
 گا اور امیر نہیں جانتا کہ وہ کب غریب ہو گا، (اس میں بھی عیال کے معنی عیالدار کے نہیں ہیں۔ ارشاد
 کوئی محتاج مسکین ہو جائے تو عرب کہتے ہیں عال الرجل، یعنی یہ شخص فقیر ہو گیا، غرض اس معنی (فقرو
 کہ عیالدار) میں یہ لفظ مستعمل تو ہے لیکن یہاں یہ تفسیر کچھ زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ
 عورتوں کی کثرت فقیری کا سبب بن سکتی ہے تو لونڈیوں کی کثرت بھی فقیری کا سبب بن سکتی ہے۔ پس
 جمہور (علماء) کا ہے کہ مراد یہ ہے، کہ یہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم سے بچ جاؤ۔ عرب میں کہا جاتا
 عال فی الحکم جبکہ ظلم و جور کیا ہو۔ ابو طالب کے مشہور قصیدے میں ہے بمیزان قسط لایح
 شعیرة: لہ شاہد من نفسہ غیر عائل یعنی اگر ترازو سے تولتا ہے تو ایک جو برابر کی بھی
 کرتی: اس کے پاس اس کا گواہ اس کا نفس ہے جو ظالم نہیں ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ جب کوئی

عثمانؓ پر ایک خط میں کچھ الزام لکھ کر بھیجے تو ان کے جواب میں خلیفہ الرسولؐ نے لکھا کہ انہی میں بمیزان اعول میں ظلم کی ترازو نہیں ہوں۔ صحیح ابن حبان میں ایک مرفوع حدیث اس تہلہ (وا) کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس کا معنی ہے تم ظلم نہ کرو، ہاں یہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا قول

اسی طرح 'لا تعولوا کے بھی معنی یعنی تم ظلم نہ کرو، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عائشہؓ، مجاہدؓ، حضرت عکرمہؓ، حضرت حسنؓ، حضرت ابومالکؓ، حضرت ابورزینؓ، حضرت شعبیؓ، حضرت ضحاکؓ، عطا فرسانیؓ، حضرت قتادہؓ، حضرت سدیؓ، حضرت مقاتل بن حیانؓ وغیرہ سے بھی مروی ہیں۔ حضرت نے بھی ابو طالب کا مذکورہ شعر پیش کیا ہے۔ امام ابن جریرؒ نے اسے روایت کیا ہے اور خود امام نے بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔" (ابن کثیر جلد اول صفحہ 76)

ہم نے پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب کی تحقیق، کہ بعض نے یہ فرمایا اور بعض نے یہ کہا، کے مقابلہ میں ماخذوں سے پوری تفصیل کے ساتھ متعلقہ آیت کی جسے بہبود آبادی یا خاندانی منصوبہ بندی یا ضبط و تنظیم کے لئے استعمال کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ خود فیصلہ لیں کہ کثرت اولاد (عیال داری کا خوف مسلط کرنے کا کہاں تک جواز ہے۔) عربی لغت میں یہ لفظ تنگی اور تنگی کے لئے استعمال ہوتا بھی ہے تو اس کا سبب اولاد ہی کو کیوں گردانا جائے۔ کتنے دوسرے اسباب بھی کے سامنے ہیں جو معاشی تنگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔

بیٹ سے استدلال:

ان حکیم سے اس انتہائی بڑے استدلال، بلکہ تفسیری تحریف کی کوشش کی طرح، پروفیسر صاحب نے ایک حدیث رسول ﷺ کی تفسیر و تشریح میں بھی ڈنڈی ماری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

"قلت مال اور کثرت عیال کے متعلق حضور ﷺ کی دعا"

ہمارا خیال ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ کی اس دعا کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء اے اللہ میں جہد بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (رواہ فارسی، مسلم و نسائی بروایت ابو ہریرہ)

دوسری روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ جہد البلاء کیا ہے؟ حضور نے فرمایا المال و کثرة العیال مال کی کمی اور اولاد کی کثرت، کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ تشریح خود حضور ﷺ سے منقول نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے" (بہبود آبادی کا اسلامی تصور صفحہ 11) پروفیسر شہاب جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ کی تحقیقی تصنیف کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے "ہمارا خیال ہے" "کچھ اہل علم کا کہنا ہے" وغیرہ

پیشتر اس کے کہ ہم اولاد میں برکت کے لئے رحمت دو عام صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ کی دعاؤں کا ذکر کر کے تحقیق کی قلعی کھولیں۔ یہ امر بھی آپ کے لئے "علیت کے افسانے" کا سبب ہو گا کہ قرآن و حدیث میں بھی اولاد کے لئے عیال کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قرآن کریم میں خالق نے "اولاد کے لئے" اولاد استعمال فرمایا تو سرور دو عالم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا۔ محقق صاحب کے قلب و ذہن پر چونکہ عیال بھوت سوار ہے اس لئے ہر جگہ کھینچ تان کر اسی پر اپنی تان توڑتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اردو یا فارسی الفاظ اور عربی میں "معنی کے اعتبار سے فرق ہے مثلاً" مباشرت اردو زبان میں جماع کے معنوں بالعموم ہوتا اور عربی میں مباشرت محض بوس و کنار ہے، یہی حال عیال کا ہے کہ اردو میں عیالدار، کثیر الاولاد عربی میں اس کے معنی معاشی تنگی کے ہیں جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

اولاد میں برکت کی دعا:

رسول اکرم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ سے منسوب "اولاد کی کثرت سے پناہ" کے بالعکس اولاد میں برکت کی دعا ملاحظہ فرمائیں ☆ "جدثنا عبد اللہ بن ابی الاسود، حدثنا حرمی، حدثنا شعبة عن قتادة عن قال: قالت امی یا رسول اللہ خادمک انس ادع اللہ لہ، قال: اللہم اکثر مالہ وبارک لہ فی ما اعطیتہ" (بخاری باب دعوة النبی صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ - 361، صفحہ 234 جلد ہشتم) ☆☆ "ہم سے عبد اللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے حرمی بن عمارہ نے، کہا ہم سے شعبہ نے نے قتادہ سے انہوں نے انس سے، انہوں نے کہا میری والدہ نے آنحضرت صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ سے عرض کیا۔ یا اللہ، آپ کا خادم انس ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیے۔ آپ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ نے دعا کی یا اللہ! اس کو مال و اولاد بے انتہی دے اور جو اس کو دے اس میں برکت عنایت فرما۔" (اس عنوان پر اور بھی روایات ہیں۔)

جہد البلاء:

"عن ابی ہریرۃ کان رسول اللہ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ یتغوذ من جہد البلاء و درک الشقاء و القضاء و شماتۃ الاعداء... (باب التعموذ من جہد البلاء، حدیث نمبر 364 بخاری شریف) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بلا کی شدت اور بد بختی کی آفت اور تقدیر کی اور دشمنوں کی فرحت (جگ ہنسی) سے پناہ مانگتے تھے۔" (اس میں کسی جگہ بھی کثرت اولاد کا ذکر نہیں) (محقق کی کتاب کے صفحہ 11 پر درج حدیث کے الفاظ اور بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ میں بھی ہے)

ہر گوں سے بنا کرتے تھے کہ وہ گ سے حادوں بچے کہ سارا، گ کے ذائقے کا پتہ لگ جاتا ہے۔

انے محقق کے، قرآن و سنت کے حوالے سے ”بہبود آبادی“ کے اسلامی تصور کی ویک سے نمونے آپ کے اٹنے، بلا تاویل رکھ دیئے ہیں اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ رسول کریم ﷺ اپنی ذات کے لئے، کثرت اولاد کے ”عذاب“ سے پناہ مانگیں اور اپنے خادم خاص نبی حضرت انسؓ کے لئے کثرت اولاد کی دعا فرمائیں اور کوئی صحابی سوال کرے تو اسے زیادہ بچے جننے والی شادی سے ترغیب بھی دیں۔ (تم بہت بہار کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو.....)
 مسئلہ عن معقل بن یسار

عمل مسئلہ:

عمل مسئلہ ان محققین (مولانا الحاجہ شاہ محمد جعفر چلواری ہوں یا ابن کے شاگرد رشید پروفیسر رفیع اللہ شہاب) کے نزدیک مسلمانوں کے سامنے رہن و حدیث کی حقیقی تعلیمات کو رکھنا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ قرآن و حدیث کا نام لے کر ملت مسلمہ کو گمراہی کے راستے پر چلا کر اپنے ملکی اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا اور اپنی اہلی معیشت کو (بصورت تباہوں سے آمدنی) مستحکم کرنا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے نام پر یہ شوگر کوڈ گولی حلق سے نیچے یا آسانی اٹاریگا، ورنہ ایک باشعور مسلمان تو قرآن و حدیث سے خاندانی منسوبہ شادی ثابت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

ہفت روزہ تکبیر کے شمارہ 35، اگست 95ء میں یهود و نصاریٰ کے حقیقی منسوبے (یا ملکی آقاؤں کے اصل مسئلہ) کی جھلکیاں یوں دکھائی گئی ہیں :-

”شیطان منسوبہ (اصل مسئلہ) یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے ورلڈ بینک کے ذریعے پوری دنیا اور بالخصوص مسلم دنیا میں انسداد آبادی کے پر فریب نام سے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا جائے، بچوں کی تعداد کے تعین کا اختیار عورت کو دیا جائے (4 ستمبر کو بیجنگ میں عورتوں کی عالمی کانفرنس اس کی طرف عملی قدم ہے) اسے نہ صرف مانع حمل اشیاء اور ادویات کے استعمال کا حق دیا جائے بلکہ اسقاط حمل کا قانونی حق بھی دیا جائے۔ اس کے لئے گھر سے باہر ہر شعبہ زندگی میں آزادانہ اور پیشہ ورانہ مصروفیات کی آزادی تسلیم کر لی جائے اور انسداد آبادی کی تمام تدابیر کے ساتھ ساتھ جنسی آسودگی یعنی آزادانہ شہوت رانی (زنا) کا حق عورت اور مرد کے لئے ہی نہیں سکولوں کے بچوں کے لئے بھی قانوناً“ یعنی بنایا جائے اس کے لئے پرائمری سکولوں میں باقاعدہ جنسی تعلیم کا اہتمام کیا جائے اور اسکولوں کے علاوہ ہر ایسے ادارے اور فیکٹری وغیرہ میں

کنڈوم کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے جہاں لڑکے اور لڑکیاں یا عورت اور مرد ساتھ کام کرتے ہوں اور جنسی آسودگی میں ہم جنس پرستی کو بھی شامل رکھا جائے۔ منصوبے کے اہم نکات یہ ہیں:-

☆ ۱ جنسی عمل کی لازمی تعلیم جس کا عنوان "تولیدی صحت" رکھا گیا ہے نصاب میں کنڈوم پر لگا ہے۔

☆ ۲ جنسی تولید کو خاندان کی روایتی حدود یعنی شادی کی قید سے نجات دلائی جائے۔

☆ ۳ کنڈوم کو ہر جگہ قابل حصول بنایا جائے اور ناگزیر ادویات کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ مقامی تیاری کو فروغ دیا جائے۔

☆ ۴ ہر تولد ہونے والا بچہ "مطلوب" ہو گا۔ نامطلوب بذریعہ اسقاط ختم کر دینے کا حق عورت کو دیا جائے۔

☆ ۵ تمام ملکوں کی یہ ذمہ داری ہو گی کہ وہ مانع حمل اشیاء اور ادویات کو ابتدائی صحت عامہ کے نظام بنائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نو آبادیاتی دور سے آج تک مسلم دنیا کی تہذیب، ثقافت، اخلاقی اقدار اور عقائد پر جتنے حملے کئے گئے، ان میں تازہ منصوبہ سب پر بازی لے گیا ہے اور اقوام متحدہ نے اپنی اصول سے تجاوز کر کے اب نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا بھر میں مختلف العقائد ممالک کے لئے "فقہ" مرتب کیا اور اسے جبراً نافذ کرنے کا کام سنبھال لیا ہے۔ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی حدود بھی اب اسی کے مرتب اور نافذ ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے منشور اور اس کے منشور انسانی حقوق میں مذہب اور عقیدہ کی آزادی جو حق تسلیم کیا گیا ہے اسے اب یہ ادارہ صیونیت کے پروٹوکولز اور عالمگیر یہودی ریاست کے خواب کے لئے سلب کرنے کی راہ پر چل نکلا ہے۔

مذکورہ تجزیہ، ملک میں اسلام کے حوالے سے خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی کے لئے مشینری کی روز افزوں دوڑ اور محکمہ کے خرید کردہ محققین کی اسلام کی روشنی میں کاوشوں کی نقاب کشائی کے لئے کافی ہے ایک طرف ریڈیو، ٹی وی قوم کو، ایڈز جیسے موذی مرض کا سبب، آزاد جنسی اختلاط بتاتے تھکتے اور دوسری طرف اسی آزاد شہوت رانی کے لئے ہر دروازہ کھولتے جا رہے ہیں۔ اور ہر رکاوٹ دور کرنے کے لئے مستعد ہیں۔



تاریخ:

ہم اپنی قوم کے علماء اور تعلیم یافتہ باشعور افراد کی خدمت میں پوری درد مندی کے ساتھ یہ استدعا کرتے ہیں کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں، مستقبل کے حقیقی خطرات کا شعور حاصل کریں اور وطن عزیز کی سیر میں سوراخ کرنے والوں کو شناخت کریں، ان کے ہاتھ پکڑیں، کشتی ڈوبی (خاکم بدہن) تو کوئی نہ بچ سکے۔ یہ وقت ہر اختلاف کو بھول کر، یہود و نصاریٰ کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لئے، بنیادیں مرصوص بننے کا ہے ورنہ اس سیلاب بلا میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث گھرانے ہی نہیں، طاہر القادری گروپ، ڈاکٹر گروپ ہو یا نیازی اور فضل الرحمن گروپ سبھی بہہ جائیں گے۔

اراء

باسمہ الکریم سبحانہ و تعالیٰ

مری جناب عبدالرشید ارشد صاحب سلام مسنون! آپ نے طہرین اور محرفین قرآن کا جہاد بقلم کے ساتھ جو تعاقب شروع کیا ہے وہ قابل صدر تحریک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ بکری کی کھال میں بھیڑا کا کام کرتے ہیں۔ یہودیت نام ہی دجل و فریب ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ بھڑیل بہ کھورا و ہدی بہ کھورا و ما بھڑیل بہ الا الفلتن اللہ پاک کا فیصلہ اس آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ اپنے ٹھکانہ لہرات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود قرآن کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ نئی دائرہ اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی سہی سیما "مکھورا" بنا کر نجات آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین،

والسلام

خیر اندیش

مولانا غلام ربانی

مستتم و خطیب جامعہ اسلامیہ

بلاک نمبر 4 جوہر آباد

تاریخ 13-9-95

س پر فتن دور میں قرآن مجید کی صریحا "تخریف کا سلسلہ" فحاشی اور عرانی کو پھیلانے کے لئے 'خاندانی منصب' بندی اور ضبط ولادت کے جواز پر شروع ہے۔

اس کے جواب میں محترم برادر مولانا عبدالرشید ارشد صاحب نے کتاب و سنت سے استہلال کر کے ان اغوات کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبولیت کا شرف بخشے اور ان کو جہاد باالقلم کا اجر جلیل نوازے۔ میں نے ان کی تحریر کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کا حق ہے۔

مولانا ضیاء اللہ

تاریخ 13-9-95

ابتدائیہ

خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی اس وقت ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ 'اوپر' سے یہی حکم ہے۔ اوپر والے کون ہیں؟ ہر باشعور پاکستانی جانتا ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ ہیں اور ان کے کنٹرول میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہیں۔

اوپر والوں کی پہلی اور آخری خواہش اور اس کی تکمیل کے لئے سعی و جہد کا مستہا یہ ہے کہ مسلمان عددی برتری سے محروم رہے کہ استحکام اور حکمرانی کے لئے یہ ضروری ہے اور مسلمان کے قلب و ذہن سے اسلام کے حوالے سے سماجی، معاشرتی، تعلیمی، معاشی اور سیاسی اقدار کو کھرچ کر نکال دیا جائے اور یہ سب فحاشی اور بے حیائی کے پنپنے سے ہی کھرچی جاسکتی ہیں۔ یہ کام وہ بہبود آبادی کے کنڈوم کلچر اور ٹی وی کے لچر پروگراموں کو عوام کے گھر کے اندر پہنچا کر حاصل کر رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہو رہے ہیں کہ اسلام کے نام لیوا ان کے دست و بازو ہیں۔

توفیق باری تعالیٰ سے ہم پیشہ بہبود آبادی اور تحریف قرآن کے عنوان سے دو حصے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اسی سلسلے کی کڑی "بڑھتی آبادی" گھٹتے وسائل، سچ کیا ہے" حاضر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ وَبِہِ نَسْتَعِیْنُ ○

بڑھتی آبادی - گھٹتے وسائل - سچ کیا ہے؟

کوئی بھی شخص جو شعور کے ساتھ مسلمان ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ (خواہ بے عملی کو اسکی عملی زندگی میں خاصا عمل دخل ہو) دنیوی امتحان گاہ سے گذر کر بارگاہ رب العزت میں حاضری کا خواہشمند ہے تو اپنی ہر کمزوری کے باوجود وہ فرمان الہی اور فرمان رسالت کو پتھر پر لیکر سمجھے گا، سر تسلیم خم کرنے کے تقاضے پورے نہ بھی کر پائے تو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل و فکر کے گھوڑے نہ دوڑائے گا۔

آج ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ محض چند روزہ زندگی کے فوائد حاصل کرنے، مثلاً "سرکارِ دربار میں کرسی یا مستقل مقررین کی فہرست میں نام کا اندراج کرانے اور حق اللہمت کے نام پر چند روپوں کا لالچ، کئی مدعیان ایمان بلکہ سید زادوں تک کو شرف انسانیت سے گرا دیتا ہے عالمی یوم بہبود آبادی پر تقاریر اور بعض اخبارات میں اوٹ پٹانگ مضامین دیکھ کر دکھ ہوا کہ مسلمان کہلوانے والے اس کھلی گمراہی کا کس طرح شکار ہیں۔

فیزے بیلیٹی کی اہمیت

آج کا گیا گذرا انسان بھی عملی زندگی میں کسی کام کے آغاز سے قبل سوچ بچار کرتا ہے، مختلف قسم کے تخمینے لگاتا ہے اور پڑھے لکھے وسائل والے عقلمند تو فیز بیلیٹی (Feasibility) کے بغیر کام میں ہاتھ ڈالنے کو گناہ سمجھتے ہیں، ایسی رپورٹوں کے لئے لاکھوں روپیہ ماہرین کو ادا کرتے ہیں، مگر وہی عقلمند جب خود پیدا ہو کر اس دنیا کے شراکت دار بن بیٹھے تو انہیں عقل نے اس قدر عقل کر دیا کہ اپنے پیدا

کرنے والے کے متعلق انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اس نے انہیں بغیر فیزے نیوٹن کے پیدا کر دیا ہے اور انکے بعد مزید مخلوق بھی وہ اللہ ٹپ پیدا کر کے انہیں، یعنی اس عقل و دانش کے پتلوں کو "نت نئے مسائل میں الجھا رہا ہے اور معاشی مار دے رہی ہے انکی زندگی روز بروز عذاب بن رہی ہے۔"

خالق کائنات کی فیزے نیوٹن

تخلیق کائنات کے ضمن میں تمام "سیانے" اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت انسان کی تخلیق سے قبل 'ارہوں کھربوں سال گذرنے کے بعد' حضرت انسان کو 'مکمل کر کے اس میں اشرف المخلوقات کے اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ تھوڑی سی عقل استعمال کرنے پر یہ انسان، خلیفۃ اللہ، بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ خالق کائنات نے ان 'ارہوں کھربوں سالوں میں کچھ نہ کچھ ضرور بنایا ہو گا۔ انسان کی طرح ستیا نہ ہو جس فیزے نیوٹن میں انسان کی تخلیق سے قبل طویل عرصہ کی محنت شامل ہو، باریک ترین جزیات تک کا خیال رکھا گیا ہو اور ہر نوع کی تخلیق باہم مربوط ثابت شدہ ہو اس میں خالق کا پیدا کردہ انسان عقل کل بن کر، مین میخ نکال کر مزید منصوبہ سازی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو اس سے بڑا باغی، اس سے بڑا احمق اور عاقبت نااندیش کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ خالق کے منصوبہ تخلیق کا مرکزی نقطہ تخلیق انسان تھا اور اس مقصد کے لئے تیار کردہ فیزے نیوٹن میں ہر دوسری چیز کی تخلیق اسی انسان کی پر سکون اور خوشحال زندگی کے لئے رکھی گئی اور اس کا دائرہ کار ازل سے ابد تک طے شدہ ہے۔"

تکمیل فیزے نیوٹن کے لئے وسائل

ارہوں کھربوں سال میں 'پانی، پہاڑ، زمین و آسمان کے علاوہ بہت کچھ ایسا بھی تخلیق کیا گیا جو آج تک انتہائی ترقی کے باوجود ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے۔ بتدریج سائنسی تحقیقات کچھ نہ کچھ حصہ سامنے لا رہی ہیں۔ اس کے باوجود کل تک رسائی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ انسانی زندگی کی احیا و بقا کے لئے

کے اندر، پہاڑوں میں، سینہ دھرتی میں اور آسمان کی وسعتوں میں بادلوں سے پانی ہو یا سورج کی روشنی کی شکل میں، وہ سب کچھ موجود رکھا گیا جسکی ہر دور کے انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انسان کو عملی زندگی گزارنے کے لئے تخلیق آدم سے آخری دور تک قدم قدم راہنمائی کے لئے انبیاء و رسل اور الہامی کتب سے بھی نوازا۔ ایسی مکمل و مدلل راہنمائی پر تاریخ شاہد ہے۔

پانی جو بذات خود نعمت رب قدر ہے، اسکے اندر سمندروں اور دریاؤں میں انسانی خوراک کا نہ ختم ہونے والا حصہ رکھا، معیشت مستحکم کرنے کے لئے تیل و گیس کے ذخائر، معادن اور نہ جانے کیا کیا پیدا کیا گیا، پہاڑ اس بات پر گواہ ہیں کہ خوردنی نمک اور کوئلہ کے خزانوں سے لے کر تانبا، پتیل، سونا اور یورینیم وغیرہ کے بے بہا ذخائر سینہ کوہ میں کوہ کنوں کے انتظار میں ہیں اور رہی زمین تو اس نے محنت کرنے والے کو ہمیشہ ہی وافر خوراک کی خوشخبری دی ہے یہ ہماری اپنی محنت و ہمت کی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری منصوبہ بندی کا فقدان ہو سکتا ہے جو ہمارے مصائب و مشکلات کا سبب بنا۔

آبادی کہاں اور کس قدر

ہر دور میں آبادی بڑھی ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے اور ہر دور کے انسان کو اپنے وقت کے تقاضوں سے عمدہ برا ہونے کے لئے مطلوب صلاحیتوں اور وسائل کا ذمہ جو خالق نے لیا تھا بطریق احسن نبھتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ بغیر کسی تعطل کے آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہیگا کہ اسے جاری رکھنے والا کوئی انسان نہیں، صرف انسانوں کا خالق نہیں بلکہ وہ انسان سمیت اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو اپنی فیزے، بیٹلی کی تکمیل کے تقاضوں سے پوری طرح باخبر ہے اور قادر بھی ہے۔

آبادی کہاں کس قدر مطلوب ہے اور کہاں کس قدر غیر مطلوب ہے یہ آبادی کا حقیقی کنٹرولر، خالق و مالک بہتر جانتا ہے کہ پیدائش اور موت پر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو دسترس حاصل نہیں ہے۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے کہ جو کوئی بھی جس چیز کا خالق ہے، مینو کیلچر ہے، پروڈیوسر ہے، وہ اپنی تخلیق، اپنی صنعت اور پروڈیوس کے

لئے عملاً "منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے۔ دل و دماغ کو زحمت دے کر جواب دیجئے
 کیا واقعی انسان، انسان کا خالق ہے؟ کیا انسان اپنے خالق کی منصوبہ بندی کو توڑ
 اس کے مقابلے میں بہتر منصوبہ بندی پر قادر ہو سکتا ہے؟ تخلیق کائنات، تخلیق انسان
 اور تقسیم وسائل رزق و معیشت پر قرآن کی تعلیم ملاحظہ فرمائیے کہ یہ خالق حقیقی
 فرمان ہے:-

مخلوق کے رزق کی ضمانت (قرآن پاک میں)

1 ☆ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اَعْلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
 مُسْتَعْوَدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ (موم۔ 6)

(ترجمہ) "زمین پر چلنے والا کوئی ذی روح ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ
 نہ لیا ہو" اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں مقیم ہے اور کہاں دفن ہو گا۔ یہ سب
 ایک واضح کتاب (فیرے بیٹی) میں لکھا ہے"

2 ☆ هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً
 مَّذْكُوراً اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
 سَمِيْعاً بَصِيْرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا
 (الدھر۔ 1-2)

(ترجمہ) "بے شک انسان پر ایک لامتناہی دور ایسا گزرا کہ وہ اس دور میں کچھ نہ تھا
 (پھر) ہم نے انسان کو پانی کے ایک قطرہ (مادہ منویہ) سے آزمائش کی خاطر دیکھنے
 اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا اور بالتحقیق ہم نے اسے راہنمائی سے بھی
 نوازا" اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا کفر کا رویہ اختیار کرے۔"

3 ☆ قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ
 تَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَ جَعَلَ فِيْهَا
 رَوَاسِيًّی مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَامًا فِیْ اَرْبَعَةِ
 اَيَّامٍ سَوَاءٌ لِّلْسَائِلِيْنَ ۝ ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ
 فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا

طَائِفِينَ ۝ فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي
كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (خُدَّ السَّجْدَةِ - ۱۱۳۹)

(ترجمہ) ”اے نبی! ان سے کہو، کیا تم اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا
ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا، وہی تو سارے جہانوں کا
(مخلوق کا) رب (پرورش کنندہ) ہے اس نے (زمین کو وجود میں لانے کے بعد) اوپر
سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں (رزق کے خزانے) رکھ دیں اور
اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق
(پیدائش سے قبل طے کردہ) ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ
سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض
دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو نہ چاہو
”ہم آ گئے فرما تیرداروں کی طرح“ تب اس نے 2 دنوں کے اندر سات آسمان بنا
دیے اور ہر آسمان میں اسکا قانون وحی کر دیا اور آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ
کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست عظیم ہستی کا منصوبہ

مخلوق کے رزق کی ضمانت (حدیث میں)

فرمان الہی کے بعد اب فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بحوالہ فراہمی رزق، ملاحظہ فرمائیے۔

۱ ☆ قَدْ رَسَّوَلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ قَبْلَ أَنْ تُشْكَلَ رِزْقُهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَيَّ أَنْ
تَطْلُبُوهُ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَنْالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ
جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَرُفِعَتِ الصَّحُفُ ۝

(ترجمہ) ”رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ

قدرت میں محمد کی جان ہے کوئی شخص اپنے حصہ کا مکمل رزق لیے بغیر نہیں مرے

گا۔ پس تم خدا سے ڈرو اور اس سے اچھی چیز مانگو۔ رزق کی کمی (یا کمی کا خوف)

تمہیں گناہ (ذریعہ حرام سے حصول رزق) میں مبتلا نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی فرمانبرداری کے بغیر نہیں مل سکتا۔

نافرمانی یا کھلی بغاوت اور منافقت نہ ہو تو معمولی قتل و شہور والا مسلمان کوئی مزید شہادت طلب کیے بغیر مذکورہ جامع فرامین کے ساتھ سر تسلیم خم کر دے گا۔ خالق و مالک کے آبادی کو کنٹرول کرنے کے منصوبے پر مطمئن ہو جائے گا کہ یہی عقل و دانش کا تقاضا ہے آبادی کی تحدید بذریعہ فطری موت، وبا، زلزلہ اور سیلاب یا جنگ وغیرہ کیا غیر موثر ہیں کہ عدم اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ ان کے علاوہ تحدید آبادی کے حق میں عزل کی کھلی چھٹی کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ عمل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا گویا یہ اللہ اور اس کے محبوب کی اجازت ہے مگر یہ انفرادی اجازت ہے اسے تحریک بنانا یا اس کی ڈھال سے کنڈوم کلچر یا اسقاط کا جواز نکالنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

تحدید آبادی کے مقابلے میں کثرت آبادی کی ترغیب

جو لوگ قرآن و حدیث سے خاندانی منصوبہ بندی کا جواز نکالتے ہیں وہ سونی صد جاہل ہیں کہ قرآن میں اشارہ کنایہ بھی تحدید کے حوالے سے نہیں ہے اور یہی حدیث تو عزل و ابزات کے ساتھ یہ فرمان رسالت بھی تو عزل کو تحریک بنانے کی جڑ کاٹتا ہے فرمایا:

1 ☆ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْمَوْدُودِ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ○

(ترجمہ) ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت پیار کرنے اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو۔ کہ میں (محشر) میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں کے مقابلے میں کہہ سکوں گا کہ میری امت ہر امت سے بڑی ہے۔“

(مشکوٰۃ کتاب النکاح عن معقل بن بشار، ابوداؤد، نسائی)

رب العزت نے قرآن پاک میں بچے کو اپنی چھاتی سے دو سال تک دودھ پلانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ میڈیکل سائنس اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ بچے کو چھاتی سے دودھ پلانے کے عرصہ میں وہ تمام ہارمونز مشغول رہتے ہیں جن کی بصورت دیگر (چھاتی سے دودھ نہ پلانے کے سبب) فرصت عورت کے حاملہ ہونے میں مدد دیتی ہے (دودھ پلانے کے دوران حمل کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک سبب باقاعدگی سے دودھ پلانے میں کوتاہی بھی ہوتا ہے۔) یہ بھی فطری تحدید آبادی ہے جس کا خالق نے خود انتظام فرمایا ہے اور جو سائنس کی دی ہوئی منصوبہ بندی کی طرح عورت کی صحت کی قائل نہیں ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کیوں؟

ضبط ولادت ہو "خاندانی منصوبہ بندی ہو یا بہبود آبادی کا خوشنما پروگرام" اس کی تمہ میں یہود و نصاریٰ کی مشترک خواہش اور منصوبہ بندی ہے کہ مسلمان عددی برتری حاصل نہ کر سکیں اور ہماری برتری قائم رہے" اس قوم کو ہر لمحہ آبادی کی بڑھوتری کے عفریت سے خوف زدہ اور اس ضمن میں امداد سے ممنون احسان بھی رکھیں۔ یوں غلامی مسلمان کا مقدر بن جائے گی۔ وسائل ہم سیمیں گے۔

ماہر معاشیات رابرٹ مائکس (نصرانی) وہ پہلا شخص ہے جس نے کثرت آبادی کا شوشہ چھوڑا۔ 1798 میں اس نے مشہور زمانہ کتاب "اصول آبادی" لکھی جس کا پورا نام "An essay on the Principal of Population as it affects the Future Improvement of Society" تھا اس میں کثرت آبادی کے حوالے سے اس نے لکھا کہ :-

"آبادی" جب کہ وہ بے قید طور پر چھوڑ دی جائے جیومیٹری کے تناسب سے بڑھتی ہے اور اشیاء خوراک صرف ریاضی (ار تھمیٹک) کے تناسب سے بڑھتی ہیں۔" (یعنی آبادی اور خوراک ایک ہی نسبت سے نہیں بڑھتی مثلاً "آبادی میں اضافہ 1-2-4-8-16-32-64 کے تناسب سے ہوتا ہے اس کے برعکس خوراک کی اشیاء میں اضافہ کا تناسب 1-2-3-4-5-6-7-8-9 اور 10

رہتا ہے۔)

رابرٹ ماتیس پر کثرت آبادی کا خوف طاری ہوا اور ہر طرف اسے بھوک سے مرتے انسان نظر آنے لگے۔ اس کتاب نے بھی دنیا کو خوراک کی کمی کے خوف میں مبتلا کر دیا کہ کسی نے اس کا تجزیہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔

اعداد و شمار کی حقیقت

وسائل کی کمی بیشی پر بات کرنے سے قبل کچھ ان اعداد و شمار کی فراہمی کے ضمن میں، جن اعداد و شمار کے ہوئے سے امت مسلمہ کو ڈرایا جا رہا ہے بات کرنا ضروری ہے۔ تخلیق پاکستان سے قبل محکمہ دیہات سدھار، کی اعلیٰ قیادت نے دیہی سطح کے کارکنوں کو دیہات میں کھاد محفوظ کرنے کے لئے گڑھے کھدوانے کا حکم دیا کہ ہر دیہی کارکن اپنے حلقہ میں زیادہ سے زیادہ گڑھے کھدوائے۔ یہ ماہی گزرنے پر ہر کارکن سے اس ضمن میں کارکردگی رپورٹ لی گئی اور ہر ایک نے، حسب توفیق، یہ رپورٹ دی۔ صوبے کی سطح پر جب رپورٹوں سے ایک رپورٹ بنی تو پورے صوبے کی اصل اراضی سے گڑھے بڑھ گئے، یعنی گڑھے تھے تو اراضی نہیں بچتی تھی اور اگر اراضی دیکھیں تو اس قدر گڑھے نہیں تھے۔

آج کے دور میں اعداد و شمار بنتے ہیں جس طرح دوسری مصنوعات حسب ضرورت بنتی ہیں۔ آبادی بڑھتی ہے، وسائل بھی بڑھتے ہیں مگر مخصوص چشمہ لگے عقلمندوں کو صرف آبادی کی بڑھوتری نظر آتی ہے کہ آقا کا حکم یہی ہے۔ آبادی اور وسائل کے حقیقی سروے کی توفیق کسی کو نہیں ہے۔ ٹھنڈے کمروں میں گرم حقائق بنتے ہیں اور پھر پوری قوم کو ہراساں کرنے کے لئے، آقاؤں کے زیر قبضہ میڈیا پر پھیلائے جاتے ہیں۔

عالمی بینک کی عالمی ترقیاتی رپورٹ 1986ء

شائع کردہ بہبود آبادی ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد بحوالہ ”دنیا میں 5 اربوں بچے کی پیدائش کا دن 1987“

پاکستان (1965-84ء) بیس سال شرح پیدائش 12.5 فیصد - شرح اموات

28.9 فیصد - شیر خوار بچوں کی اموات 22.7 فیصد

نقشہ نمبر 2، صفحہ 32

یکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے پیغام برائے ”پانچ اربوں بچے کا دن“ کے مطابق

1930ء میں دنیا کی آبادی 2 ارب تھی

1960ء میں دنیا کی آبادی 3 ارب تھی

1975ء میں دنیا کی آبادی 4 ارب تھی

1987ء میں دنیا کی آبادی 5 ارب تھی

گویا 57 سال میں 2 سے 5 ارب ہو گئی کہا جاتا ہے کہ 2000ء تک یہ 9

ارب ہو جائے گی گویا 70 سال میں ساڑھے چار گنا ہو گئی

یہ صرف بڑھوتری کے اعداد و شمار ہیں مذکورہ رپورٹ کی طرح شرح پیدائش

مقابلے میں شرح اموات کی زیادتی کو پیش نظر رکھ کر اس بڑھتی آبادی کا جائزہ لیا

ئے تو یہ کھٹی نظر آئے گی خود UNO کہتی ہے کہ شرح پیدائش 12.5 فیصد ہے تو

ح اموات 28.9 فیصد (اگرچہ یہ پاکستان کے اعداد ہیں مگر بڑھوتری کا ہوا بھی تو اہل

پاکستان ہی کو دکھایا جا رہا ہے)

پاکستان سے متعلق یہی رپورٹ (بحوالہ غوث علی شاہ، صفحہ 8) ہمیں بتاتی ہے

کہ 1947ء میں آبادی تین کروڑ بیس لاکھ تھی جبکہ 1986ء میں (29 سال میں) یہ

کروڑ اسی لاکھ ہو گئی۔ تین سے نو کروڑ میں سے مذکورہ رپورٹ کی روشنی میں 12.5

فیصد پیدائش جمع کر کے 28.9 فیصد اموات منہا کرتے جائے اور مرتب کردہ اعداد و

مار کی صحت و حقانیت پر سردھنتے جائے۔

یہ رپورٹیں ورلڈ بینک بنواتا ہے جو یہودی عزائم کا رکھوالا ہے اور یو این او کا

ذیلی ادارہ F.A.O. ایسی یاسیت کی ماری رپورٹوں کی قلمی کھولتا ہے (حوالہ جات آگے

دئے جا رہے ہیں)۔

مطلوب کیا ہے!

امانت و دیانت اور جذبہ حب الوطنی کا حقیقی تقاضا تو یہ ہے کہ قوم کے مسائل کے اپنے ماہرین، ایمان و محبت وطن سے سرشار ماہرین، ہر شعبہ سے متعلق اہل دانش و شمار رکھیں: مثلاً

☆ 1947ء سے 1995ء تک آبادی اتنے فی صد بڑھی ہے۔

☆ 1947ء سے 1995ء تک زرعی رقبہ میں (نا قابل کاشت کو قابل کاشت بنا کر) اتنے فی صد اضافہ کیا ہے۔

☆ 1947ء سے 1995ء تک صنعتی شعبہ میں اتنے فی صد اضافہ ہوا ہے۔

☆ 1947ء سے 1995ء تک زرعی اور صنعتی شعبے میں سائنس دانوں کے اتنے فی صد ترقی کی ہے۔

☆ 1947ء سے 1995ء تک دریاؤں اور پہاڑوں سے اتنے فی صد وسائل پر تحقیق ہوئی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

وسائل نہیں تو بیرونی سرمایہ کاری کس لئے!

اس قوم کو بکطرفہ طور پر ایک ہی نعرہ دے کر کہ "آبادی ڈبل تھی گئی اور وسائل ہڑپ ہو گئے" اس کا خون خشک کیا ہوا ہے اس ملک کے تحقیقی اداروں۔ یقیناً بڑھتی ضروریات کے پیش نظر ہمہ جہت محنت کی ہوگی اور عملاً کی بھی ہے مگر قوم کو بے خبر رکھا جا رہا ہے اگر واقعتاً وسائل نہیں۔ تو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت کس بنیاد پر اور انہیں اگر وسائل مل سکتے ہیں تو پاکستانی قوم کو وہی کچھ نصیب کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصاریٰ کی غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں، بندش سے آزاد اور تمام تر سہولیات کے ساتھ جس قدر چاہیں پاکستان کے وسائل سے فیضیاب ہوں مگر اہل وطن ہر لمحہ وسائل کی کمی کا نغمہ سنتے رہیں اور بڑھتی آبادی سے سہمے رہیں۔

جو لوگ آبادی کی بڑھوتری کے عنقریب سے قوم کو ڈرا رہے ہیں اگر انہیں قوم سے ادنیٰ سی بھی محبت ہوتی، ایمان کی کچھ بھی رک ان میں ہوتی، تو یہ قوم کے

نے حقائق رکھتے، یا قوم کو اس تاریخ سے آگاہ کر دیتے جس تاریخ تک ان کے علم آئے وسائل، کفالت کر سکتے ہیں اور جس کے بعد وسائل بالکل ختم ہو گئے۔ روئے ن خصوصاً پاکستان کی آبادی بھوک کے سبب اوندھی مری پڑی ہوگی۔

و تحقیق کا دعویٰ ہے تو

م کو بتایا جاتا کہ:

ہمارے پہاڑوں میں ہمارے سروے کے مطابق فلاں فلاں قسم کے معدنیات کے قدر ذخائر ہیں جو اتنی آبادی کی کفالت کر سکتے ہیں، ہمارے دریاؤں اور سمندروں، آبی خوراک اور دیگر معاون کی مقدار و مالیت قدر ہے اور فلاں تاریخ سے یہ خزانہ خالی ہو جائیگا، ہماری زرعی اراضی فلاں سال تک ہماری بے بسی، بے علمی اور بے وسیلگی کے سبب بانبھ ہو جائے گی، ہمارے بادل فلاں سال سے بارش برسانے سے انکار کر دیں گے کہ انہیں پانی میں ملے گا،

لم و تحقیق کا حقیقی مصرف

ہم ہر منصوبہ کے دعویدار ہیں، مگر ہم سے گذشتہ نصف صدی سے اگر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو سکی تو وہ یہ ہے کہ:-

- ☆ زرعی معیشت میں استحکام کے لئے بنجر و بے آباد اراضی کو قابل کاشت بنانا اور قومی طلب سے ہم آہنگ فصلوں کی کاشت کے جامع منصوبہ کو متعارف کرانا،
- ☆ بے روزگاری کے خاتمے، زر مبادلہ کے حصول اور عامتہ الناس کے معیار زندگی میں استحکام کے لئے پہاڑوں کا سینہ چاک کرنے والی صنعتوں کا قیام،
- ☆ ملکی دفاع کے نقطہ نظر اور دیہی آبادی کی شہروں کو منتقلی روکنے، نیز بنجر اراضی کو زیر استعمال لا کر، زرعی اراضی بچانے کی غرض سے، صنعتی جگہوں کو غیر زرعی مقامات پر منتخب کرنا،

خاندانی منصوبہ بندی، تعلیم اور صحت

منصوبہ سازوں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر فی الواقع وہ قوم کے خیر ہیں تو انہوں نے قوم کی تعلیم اور قوم کی صحت کے لئے 1947ء سے آج تک قدر رقم بجٹ میں رکھیں۔ ہم پورے تین و اعتماد سے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں جس کا جی چاہے ہمیں جھٹلانے کے لئے خود ہر سال کے اعداد و شمار جمع کر کے تصدیق کر لے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر اخراجات کے مقابلے میں صحت عامہ، تعلیم پر مصارف کی باہم کوئی نسبت ہی نہیں ہے حالانکہ تعلیم کے ساتھ صحت یا صحت کے ساتھ تعلیم ہی ہے جو قوم میں وہ شعور بیدار کرتی ہے جس سے خود بخود خاندان بہبود جنم لیتی ہے۔ جس قدر رقم آج تک خاندانی منصوبہ بندی پر پاکستان میں خرچ ہوئی ہے اگر فوجی فاؤنڈیشن کی طرز پر ادارہ بنا کر یہی امدادی رقم اس کا حصہ بنتی ہے صنعت کے شعبہ میں کام ہوتا تو آج نہ بے روزگاری ہوتی اور نہ تعلیم و صحت کے مسائل ہوتے مگر یہ تو کسی طرح بھی مطلوب و مقصود نہ تھا کہ آقاؤں کا نہیں۔



خاندانی منصوبہ بندی کا حقیقی مقصد

خاندانی منصوبہ بندی یا ضبط ولادت کے خالقوں کے پیش نظر مقاصد میں 'مسلمانوں کی عددی برتری کے خاتمہ کے ساتھ ان میں اخلاقی بے راہ روی اور جنسی انار کی پیدا کرنا ہے اور ہر کوئی اس پر شاہد ہے کہ اس میں وہ کامیاب رہے انہوں نے مقاصد کی تکمیل کی خاطر مسلمان کھلوانے والوں کو ہی استعمال کیا ہے بلکہ بدستور استعمال ہو رہے ہیں محکمہ بہبود آبادی ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا کام تو مسلمان ہی کرتے ہیں۔

وہ وقت دیکھنے والے ابھی بہت سے لوگ زندہ ہیں، جب مائیں اپنے بچوں کو چڑیوں کا اختلاط تک دیکھنے نہ دیتی تھیں، نوجوان لڑکا محلے گلی میں کھیل کے دوران یا ویسے کسی لڑکی کا بازو پکڑ لیتا تو لڑکی خائف ہو جاتی کہ کہیں 'کچھ ہو نہ جائے' مگر بھلا ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں کا کہ انہوں نے میڈیا اور خاندانی منصوبہ بندی کے کنڈوم کلچر کے ذریعے وجوانوں کے دلوں سے ہر خوف نکال دیا اور اب مادر پدر آزاد قوم وہ سب کچھ کر رہی ہے جس کا شرافت اور اخلاقی اقدار سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ غیر مسلم اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اربوں روپے کی امداد دیتے ہیں اور گھر کی دہلیز کے اندر تک بے حیائی پہچانے کے لئے یہ خرچ ہو رہی ہے جبکہ اسکا زیادہ حصہ بعض کی 'انفرادی معیشت' کے استحکام' کا سبب بھی ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق لٹریچر کی بھرمار، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے غلیظ ترین اشتہارات کے بعد اسلامی اور اخلاقی اقدار کے نیچے ادھیڑنے والے ٹی وی ڈرامے مسلمان قوم کو بالالزام دکھائے جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی موسیقی پروگراموں میں حیا سوز حرکات سے نوجوان نسل کے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا کیا جاتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسی ایکٹ کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور منطقی انجام سے معاشرتی زندگی کس قدر مسموم ہوتی ہے اس نفا کی موجودگی میں نوجوان نسل سے

اسلامی و اخلاقی اقدار کی مکمل پاسداری کی توقع کرنا احمقانہ سوچ ہے کہ

بقولِ شاعر

درمیاں قعر دریا تختہ بدم کردہ ای۔۔ بازی گوئی کہ دامن ترکن ہشیار باش
(دریا میں بیچ منجھار دھکا دے کر کہا یہ جاتا ہے خبردار کپڑے گیلے نہ ہوں)

جو قوم اپنی اصل سے بے وفائی کرتی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کبھی بھی استحکام

اس کا مقدر نہیں بنتا۔ اس کا مقدر دنیا میں ذلت و رسوائی اور غلامی ہوتا ہے تاریخ
اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اسلام جن کا اصل تھا، انکی وفا اور بے وفائی کو دیکھ لیں پرکھ لیں
تاریخ کی شہادت پر اونچا نیچا گراف دیکھ لیں، کیمونزم اور سوشلزم کو اس کسوٹی پر پرکھ
لیں۔ اصل سے 'مقصدیت سے' غداری نہ تو فرد کو سنوارتی ہے نہ اقوام و ملل کو۔

ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، 1947ء سے 1996ء تک اسلامی جمہوریہ

پاکستان کی تاریخ، جو ہر پاکستانی مسلمان کے سامنے کھلی کتاب ہے پیش کرتے ہیں۔ خدا
لگتی کہینے، ضمیر سے پوچھ لیجئے کیا کوئی لمحہ (ماسوائے 65 کی جنگ کے 17 دنوں کے)

ایسا آیا جب ہم من حیث القوم اپنی اصل کے امین تھے؟ کیا ہمارا سارا قومی ماضی
ہمارے سیاسی، معاشی، سماجی و معاشرتی، اخلاقی و دینی عدم استحکام کا ثبوت نہیں ہے جو
ہمیں جھٹلانا چاہیے، وہ اس دور کی، مہ سال کی نشاندہی کر دے ہم ممنون احسان ہوں
گے۔ بالعکس اگر اصل سے وفا اور استحکام دیکھنا ہو تو اسلام دشمن یہود اور انکے
اسرائیل کو دیکھ لیجئے۔

عقل و شعور ہمارا سرمایہ ہے تو!

اگر ہم نے واقعتاً "اپنی قومی اجتماعی موت کا فیصلہ نہیں کر لیا اور زندگی کے
لئے کوئی چنگاری ہمارا مقدر ہے تو آخری انگڑائی سے ماضی کی کوتاہیوں کو جھٹک کر
نئے عزم و جذبہ کے ساتھ استحکام پاکستان کے لئے کمر ہمت باندھنے کا وقت ہے یہ ہاتھ
سے نکل گیا تو ہاتھ ملنے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ زندگی کی حفاظت کرنے والی قوم کے
شب و روز ہی اس کے منفی یا مثبت کردار کی گواہی ہوتے ہیں آپ بھی اپنے شب و
روز سے اپنی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔

اگر ہم باوقار انداز میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، عزت و وقار سے نئی صدی میں

داخل ہونا چاہتے ہیں اور مستقبل کی آئین نسل کو مضبوط و باوقار پاکستان دینا چاہتے ہیں تو

☆ ہمیں بڑھتی آبادی سے خائف رہ کر بہبود آبادی کے پردہ میں بے حیائی، فحاشی اور اخلاقی اسلامی اقدار کی تباہی کے لئے خرچ نہیں کرنا چاہیے

☆ ہمیں قومی صحت اور مقصد تخلیق پاکستان سے ہم آہنگ تعلیم پر زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرنی چاہئیں اور نصاب تعلیم کا قبلہ درست کرنا چاہیے۔

☆ ہمیں نئے سرے سے اپنی صنعتی اور زرعی پالیسی مرتب کرنا ہوگی مثلاً " معدنیات اور زراعت سے متعلقہ صنعتیں شہروں سے دور بے آباد اراضیوں پر جہاں خام مال قریب، لیبر سستی اور لیبر مسائل کم از کم، زرعی اراضی کی بچت اور بنجر اراضی کارآمد، ملکی دفاع کے نقطہ نظر سے بکھری صنعت دشمن کے ہوائی حملوں سے محفوظ بھی ہوتی ہے۔

☆ ہمیں غیروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دے کر پاکستان فروخت کرنے کے بجائے، ملکی سرمایہ داروں اور انکے سرمایہ کو تحفظ دینا ہو گا۔ زر مبادلہ ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ ہر سطح پر پاکستانی نوجوان کام کریں گے۔ غیر ملکی اثر نفوذ سے ملکی راز، ملی کمزوریاں باہر نہیں جائیں گی جو عدم استحکام کا سبب ہوتی ہیں۔ (اسی طرح کی ایک غلطی نے شام میں گولان کی پہاڑیاں، بہترین دفاعی مورچہ، چند گھنٹوں میں اسرائیل کے قبضہ میں دلا دیئے تھے)

☆ ہمیں کثرت آبادی کو صحتمند اور تعلیمیافتہ بنا کر (خاندانی منصوبہ بندی کا بجٹ بھی اس مقصد کے لئے استعمال کر کے) مسلمان لیبر، کاریگر اور منتظم بنا کر اپنے ملک کے پہاڑوں، دریاؤں اور میدانوں میں قدرت کے ودیعت کردہ لامتناہی وسائل کو ملک و ملت کی معیشت مستحکم کرنے میں لگانا ہے۔ فاضل مین پاور دوسرے ممالک کو دے کر زر مبادلہ کی ضروریات میں استحکام پیدا کرنا ہے کثرت کا خوف بلاوجہ ہے کہ آنے والا کھانے کے لئے ایک منہ اور کما۔ نہ کہے لئے دو ہاتھ لے کر آتا ہے۔

☆ ہمیں بہبود آبادی کے لئے قرآن و سنت کی راہنمائی پر مکمل توجہ سے عمل کرنا ہے کہ ولادت میں مطلوبہ صحتمند وقفہ " دو سال دودھ پلانے سے ممکن ہے

اور بچہ بھی محترم رہتا ہے حقیقی خالق، جو ہماری صلاحیتوں، ہماری نفسیات اور ہماری ضروریات بخوبی جانتا ہے، کی حکیمانہ ہدایات سے روگردانی کر کے ہم مسائل پر قابو نہیں پاسکتے۔

کچھ 'انہی' ہی کی زبان میں

قوی سطح پر ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہم شرماتے ہیں کہ ہمیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جائے گا، ہمارا رویہ معذرت خواہانہ ہوتا ہے کہ ترقی پسند ناراض نہ ہو جائیں اور جوئی کسی سمت سے تحقیق کے نام پر کچھ سامنے آجائے ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ اب ہم چار آدمیوں میں بات کرنے کے قابل ہو گئے۔ وہی لوگ جو ہمیں اعداد و شمار کے حوالے سے بڑھتی آبادی، گھٹتے وسائل سے ڈرا رہے ہیں ذرا ان کا یہ نقطہ نظر بھی دیکھ لیجئے کہ شاید اسی سے ہمارا قبلہ درست ہو جائے:

سب سے پہلے رابرٹ مالتھس کے چھوڑے شوٹہ کا ہی جائزہ ملاحظہ فرمائیے:
مالتھس کے نظریہ کا جائزہ سب سے پہلے مسٹر گوان ڈائر (Dyer)

"Dyer) نے اپنے ایک تحقیقی مقالہ میں لیا جس کا عنوان تھا

(Malthus: The False Prophet)

"مالتھس کی موت کو اب 150 سال گزر چکے ہیں اور اس کی سنگین پیشین گوئیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں۔ دنیا کی آبادی جیومیٹری کے حساب سے دگنا چوگنا ہو گئی جیسا کہ اس نے کہا تھا، اس میں جنگوں اور حوالوٹ کی وجہ سے بس تھوڑا سا فرق پڑا ہے۔ جب مالتھس نے کتب لکھی تھی اس وقت کی آبادی کے مقابلہ میں آج دنیا کی آبادی 8 گنا ہو چکی ہے مگر غذائی پیداوار بھی کچھ اضافہ ہی کے ساتھ بڑھتی رہی اور انسان کی موجودہ نسل کو اوسط سطح پر تاریخ کی سب سے بہتر غذا مل رہی ہے"

ن ڈائر نے اپنا مقالہ اس بات پر ختم کیا:
 ”ما تھس غلطی پر تھا۔ ہمارے لئے یہ مقدر نہیں کہ ہماری اگلی نسلیں قحط میں پیدا
 ہوں“

(G-Dyer-Indian Times-Dec:28'1984)

”اب سے ایک صدی بعد آبادی دگنی یا تگنی ہو جائے گی، یعنی اندازہ ہے کہ
 اکیسویں صدی کے نصف آخر تک آبادی 6 ارب سے 12 ارب کے درمیان ہو
 گی اب تخمینہ یہ ہے کہ موجودہ زرعی طریقوں پر کوئی غیر معمولی بوجھ ڈالے بغیر
 یعنی تمام دنیا میں ان طریقوں کو اختیار کر کے جو وہاں کے لئے موزوں ہوں اور جو
 فنی اعتبار سے اس معیار کے ہوں جو آج نیم صنعتی ممالک میں استعمال ہو رہے
 ہیں“ اس آبادی کی خوراک کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کافی ہیں۔ دوسرے
 الفاظ میں اگلے 100 سالوں میں قلت خوراک کے لئے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے
 اگر کوئی قحط آئے تو وہ انسان کی اپنی حماقت یا خود غرضی کی وجہ سے ہو گا۔“

(Bernal J.D. world without war - page 66)

”یہ تمام چیزیں اس یقین کے لئے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ اگلے سو سال کے
 اندر دنیا کے باقی دو تہائی حصے میں بھی وہی زرعی انقلاب واقع ہو جائے گا جو ابھی
 تک صرف ایک تہائی حصہ میں رونما ہوا ہے۔“

(F.A.O. - 10 year Report on Agricultural Dev: 45-55)

”یہ قطعی ممکن نظر آتا ہے کہ اس پروگرام کے مجموعی اثرات بالآخر ان تمام امید
 افزا اندازوں سے بھی کہیں زیادہ ہوں جو شدید ترین رجحانیت پسندوں نے قائم کئے
 ہیں۔“

(So Bold an Aim - Dr. La martine yates - F.A.O.1955. p-130)

”آبادی اور خوراک اور زراعت و صنعت کے متعلق بحث و مباحثہ میں جو انتشار
 فکری Confusion ہے اس کا سبب موجودہ اور آئندہ وسائل کے بارے میں
 ہماری معلومات کی کمی ہے کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زرعی زمین کی
 پیداواری حیثیت کو ختم ہو جانے والا Exhaustable سمجھ لیا گیا ہے بالکل اس

طرح جس طرح کہ کوئلہ کی ایک کلن ختم ہونے والی ہے بلاشبہ دور اندیشی کی کمی اور غلط طریقے پر کام کر کے اسے ختم کیا جاسکتا ہے مگر زمینوں کی پیداواری Productivity کو بحال بھی کیا جاسکتا ہے اور بڑھایا بھی جاسکتا ہے یا اس زور خیالات آج بڑے عام ہیں اور ان کا ٹیپ بند یہ ہے کہ قابل کاشت زمین اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے لیکن جدید ماہرین اس مایوسانہ نقطہ نظر سے قطعاً اتفاق نہیں کرتے۔

Dr. Lamartine yates.

("Agriculture in the World Economy"),

(Rome) F.A.O.1956, p-35

"اگر دنیا کی زمین ٹھیک ٹھاک استعمال کی جائے تو موجودہ معلوم طریقوں کو استعمال کر کے بھی موجودہ آبادی سے دس گنا زیادہ آبادی کو یعنی 28 ارب افراد کو مغربی ممالک کی خوراک کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھا جاسکتا ہے اور کثرت آبادی کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو گا۔"

(Clark, Colln, (Economist)

"Population and living Standards"

International Labour Review, Aug ; 53)

"آبادی میں عظیم اضافہ - ایسا اضافہ جو بے ضبط و بے لگام تھا - یورپ کو دنیا کی درجہ اول کی طاقت بنانے میں فیصلہ کن تھا، یورپ کی آبادی کے اس دھماکہ کے ساتھ پھٹ پڑنے ہی کا نتیجہ تھا کہ ملک میں نئی صنعتوں کو چلانے کے لئے کارندے بھی ملے اور دوسری طرف یورپ سے باہر دنیا بھی میں پھیل جانے کے لئے مہاجر اور ایسے سپاہی ملے جو دور دراز علاقوں میں پھیلی سلطنت کی سربراہی کر سکیں۔"

Prof: F.K. Organski and Stuart Laure

Population Explosion in Europe - July 17.1961

”غالبا“ جدید معاشرہ میں صنعتوں کی اکثریت ایسی ہے جو بڑھتی ہوئی آبادی سے خاص طور پر مستفید ہوتی ہے۔“

(Clark, Colin. "Population Growth and Living Standards.")

مذکورہ تفصیلی بحث کو جو قرآن و حدیث اور مغربی مفکرین کی آرا سے مزین ہے ہم آپ کے سپرد کر کے علامہ اقبالؒ کے اس فرمان سے سمیٹتے ہیں:

اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی! کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟



22-9-96
(جوہر آباد)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ وَبِہِ نَسْتَعِیْنُ ○

بہبودِ آبادی یا خاندانی منصوبہ بندی اور فتوے



اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پاپی پیٹ کے لئے ایمان فروشوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ عاقبت سے نالاں یہ لوگ مسلمان کہلوا کر یہود و نصاریٰ کی فوج کے ہر اول کے طور پر ہمہ وقت 'ہمہ جہت مصروف دیکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی ڈھٹائی کے بدترین مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً ایک 'جس پر اہل وطن کا چہ چہ گواہ ہے' ٹیلی ویژن پر روزانہ بہبودِ آبادی کا اشتہار قرآنی آیت کی روشنی میں آتا ہے 'جو بصورت دعا ہے کہ "یا اللہ ہم پر (کثرتِ اولاد کا) وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔"

امت مسلمہ نے گذشتہ ساڑھے چودہ سو سال سے سورۃ بقرہ کی اس آیت سے یہ مطلب کبھی اخذ نہ کیا تھا۔ آیت کا یہ حصہ کبھی بھی کثرتِ اولاد کے حوالے سے نازل نہ ہوا تھا مگر آج کا بدبخت انسان پیٹ کا دوزخ بھرنے کی خاطر چند روپے کے لالچ میں تحریفِ قرآن سے نہیں چوکتا۔ ماضی قریب میں اسی طرح کی ایک حماقت تحقیق کے نام سے بہبودِ آبادی کے کیلنڈر پر قرآنی آیات کی معنوی اور حقیقی تحریف کی صورت میں بھی کی جا چکی ہے اور اس سے بڑھ کر بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی

شہری کو حصہ مت کی اس دیدہ دلیری پر ٹوکنے کی توفیق نہیں ہوئی۔

عوام الناس کو ہر پہلو سے گمراہ کرنے کے لئے محکمہ بہبود آبادی نے اپنے زر خرید نام نہاد علماء و دانشوروں سے اپنے حق میں کتب لکھوائیں۔ ان لکھنے والوں میں جعفر پھلوری اور رفیع اللہ شہاب جیسے لوگ شامل ہیں جو چند ٹکوں کے مفاد پر بک گئے۔ ہم نے ان کے خیالات اور قرآن و حدیث سے متعلق توجیہات کا جائزہ عوام کی عدالت میں دو سال قبل پیش کر دیا تھا۔

اب ہمیں اپنے محترم دوست کی طرف سے ایک کتابچہ ”خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق علمائے دین کے افکار اور فتاویٰ“ موصول ہوا تاکہ اس ضمن میں ہماری رائے سامنے آسکے۔ اس کتابچہ میں فتاویٰ عالمگیری، فتویٰ مولانا محمد شفیع صاحب، فتویٰ مولانا ابو الکلام صاحب، فتویٰ حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر، فتویٰ شیخ عطا اللہ حاجی، شیخ بہاؤ الدین خلتی ایران، فتویٰ ابو بکر حصاص، فتویٰ شاہ عبدالعزیز بن امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور حاجی عبدالجلیل بن حاجی حسن مٹھی جاہور ملیشیا کے فتاویٰ ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں۔

دنوی مفادات کے کھوٹے سے بندھے گمراہ حضرات جب دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا بیڑہ اٹھاتے ہیں تو دوستی اور دین داری کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور طریقہ واردات کم و بیش سب کا ایک ہی جیسا دیکھنے میں آتا ہے اور وہ یوں کہ اسلام کے حوالے سے جو بات کرو اس کے لئے مسلمانوں میں بہت معروف و رگوں کے نام اور معروف دینی کتب کا نام استعمال کرو، خصوصاً ایسی کتب جن تک عام مسلمان کی رسائی نہ ہو۔ اس پر مستزاد یہ کہ عوام تو رہے ایک طرف، خواص بھی توجہ نہیں دیتے کہ ایسے دجل کا تار پود بکھیرا جا۔ جس کے سبب ایسے گمراہوں کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔

قوم کو تمہاری ہی کی رہا۔ لے جانے والے بے شمار ڈائجسٹ اٹھا کر دیکھئے ہر شمارے میں آپ کو ایک اسلامی تاریخ سانی ملے گی جس کے ماخذ کے حوالے سے آٹھ دہائی معروف اسلامی کتابوں کا نام آغا میں لکھا ملے گا، مضمون میں حقیقی اسلام کے نام پر جو گمراہی پہنچائی جا رہی ہے ان کتب میں اس کا کہیں ذکر نہ ہوگا۔ بعینہ یہی صورت حال محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے فراہم کردہ فتووں کی ہے جو محکمہ نے زر خرید بے ضمیر دانشوروں سے مرتب کروائے ہیں۔

مذکورہ فتویٰ کے حوالے سے ایک بیجاوی طور پر سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی عالم دین نے اس انداز میں کسی بھی عنوان پر فتویٰ جاری نہیں کیا۔ فتویٰ کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے انداز ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مذکورہ فرست میں بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی فتویٰ دیا ہی نہیں مثلاً مولانا ابو الکلام یا رسول اللہ ﷺ حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ۔ ان کی رائے ہو سکتی ہے۔ تیسری اہم ترین بیجاوی بات یہ کہ اہل ایمان کے لئے ہر بات کی کوئی قرآن و حدیث ہے۔ شخصیت نہیں ہے ہم یہاں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ سب فتویٰ ان بزرگوں کے نام انتہائی بیجاوی سے غلط منسوب کئے گئے ہیں۔ اگر بات وہی ہوتی تو ان کی تحریروں کے ثبوت میں کتب کے نام اور صفحات کے حوالہ جات ضرور دیئے جاتے یا الگ فتوے ہونے کی صورت میں عکس فتویٰ ضرور شائع کیا جاتا، مگر دجل و فریب کے پاؤں کہاں!

جن قابل قدر بزرگوں کے نام کو مسلمان قوم کو گمراہ کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ ان سے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ قرآن و سنت کی واضح ہدایت پر عکس اپنی کسی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم مختصراً جائزہ پیش کر کے تاکہ ہماری بات باآسانی سمجھی جاسکے۔ ویسے جو لوگ محکمہ بہبود آبادی کے کیلنڈر

انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ قرآنی آیات میں معنوی اور حقیقی تحریف کر سکتے ہیں۔ ان کے متعلق کسی حسن ظن کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے۔ حسن ظن کو زحمت دینے کا دوسرا نام گمراہی پر اطمینان ہے جو کم از کم کسی باشعور مسلمان کو قبول نہیں ہو سکتا۔

زیر نظر فتاویٰ کا تجزیہ کریں تو بہبود آبادی - غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے مثلاً فتاویٰ عالمگیری کے حوالے سے کسی گئی دو باتیں محل نظر ہیں۔

پہلی، اسلام میں بیوی کی اجازت سے عزل پر کوئی پابندی نہیں دوسری، حمل کے نتیجے میں ماں کے رحم میں جب تک بچے کے اعضاء نہیں جاتے اس وقت تک عورت کے لئے اسقاطِ حمل جائز ہے۔ (بہبود آبادی کی اپنی تشریح ساتھ ہے کہ اعضاء حمل کے 120 دن کے اندر مکمل نہیں ہوتے)۔ عقل و شعور رکھنے والا کوئی بھی شخص مذکورہ عبارت کو بار بار پڑھے تو اس عبارت سے خاندانی منصوبہ بندی کا جواز نہ نکال سکے گا۔ عزل میاں اور بیوی باہمی رضامندی سے کئی مقاصد کے لئے کر سکتے ہیں مثلاً بیوی بیمار ہے حمل اس کے مرض میں اضافہ کا سبب ہو سکتا ہے۔ رہا مسئلہ اسقاطِ حمل کا تو اس کی گنجائش صرف ایک ہی صورت میں نکلتی ہے کہ کوئی ماہر مسلمان طبیب اپنی ماہرانہ نصیحت میں یہ کہے کہ اگر اسقاط نہ ہو تو حاملہ مر سکتی ہے یا حمل پیٹ میں مردہ لو تھڑہ ہے یا پھر کسی حادثے کے سبب اسقاط تک نوبت پہنچے تو اسقاط جائز نہیں اس کی گنجائش ہے۔

مولانا مفتی محمد شفیعؒ کے نام منسوب تحریر جسے فتویٰ کا نام دیا گیا ہے اور جس کیلئے کسی کتاب اور اسکے صفحہ کا حوالہ دینا بھی بوجہ مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ایک مہمل تحریر ہے اور اگر اس تحریر پر ہی انحصار کیا جائے تو بھی اس سے ملک گیر موجودہ خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک کا جواز نہیں نکلتا۔ عزل کو نس بندی کا جواز بنانا عقل و دانش کی نفی ہے یا کسی دوسرے مصنوعی طریقے سے مادہ کورم میں جانے سے روکنے کو عزل سے مشابہت

دینے والے عزل کے وقت کی نفسیاتی اور ہیجانی کیفیت کو کنڈوم یا اپریشن وغیرہ کی اطمینان بخش حالت سے تطبیق دیں تو عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ علماء سے فتویٰ کا طریقہ یہ ہے کہ سائل مفتی کے سامنے ایک سوال رکھتا ہے اور مفتی اس سوال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ کر قرآن و حدیث و فقہ کے مصدقہ حوالوں کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے۔ کسی گول مول بات پر گول مول جواب یا کسی نجی مجلس میں گفتگو فتویٰ نہیں کہلاتی۔

مولانا ابو الکلام آزاد مفتی نہ تھے۔ انہوں نے ساری زندگی فتویٰ نہ دیا۔ ان کی ایک رائے ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں قبول یا رد کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص کے ایک مبینہ خطبہ سے لئے گئے اقتباس کی ہے جس میں ان سے منسوب کیا گیا کہ لوگو تم چار خصلتوں سے چو:

- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------|
| ☆ | کثرتِ اولاد سے | ☆ | بہت گھٹیا معیار زندگی سے |
| ☆ | مال ضائع کرنے سے | ☆ | لا یعنی گفتگو سے |

ہم یہاں صرف کثرتِ اولاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص جلیل القدر صحابی تھے اور کیا کوئی گیا گذرا شخص بھی اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ صحابیؓ فرمانِ رسالت ﷺ سامنے آنے کے بعد اس کے برعکس رائے رکھ سکتا ہے یا قرآن کے واضح احکامات کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کسی احمق کی تو ہو سکتی ہے کسی مومن کی نہیں۔ سرورِ دو عالم ﷺ تو امت کو حکم دیں کہ:

”تزوجوا الودود المولود فانی مکاثر بکم الامم تم بہت پیار کرنے والی زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو تاکہ محشر میں تمہاری کثرت پر فخر کر

سکوں۔ (مشکوٰۃ عن معقل بن یسار کتاب الزکات ابو داؤد نسائی)

قرآن میں فرمایا جاے۔ ”اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔“

کثرتِ اولاد مطلوب ہونے کے حوالے سے ایف اور روایت بخاری میں ملتی ہے کہ :

”ہم سے عبد اللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہ ہم سے مزی بن عمار نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے قنادہ سے انہوں نے انسؓ سے انہوں (انسؓ) نے کہا میری والدہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا خادم اس ہے اس کے لئے دعا فرمائیے۔ آپ ﷺ نے دعا کی ”یا اللہ اس کو مال و دولت اور اولاد بہت دے اور جو اس کو دے اس میں برکت عطا فرما۔“

(بخاری باب الدعوة صفحہ 361)

خاندانی منصوبہ بندی سے لال بھججہ جس طرح عزل کو غلط مقاصد کے لئے استعمال پر مصر ہیں بعینہ اس طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں فرمائے گئے ایک لفظ جہد البلاء کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے نزدیک اس سے مراد کثرتِ اولاد تھی حالانکہ عربی لغت سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس حدیث کا حقیقی مطلب کچھ اور ہے۔ ملاحظہ فرمائیے بخاری شریف باب الصوم ”من جہد البلاء“ حدیث نمبر 364:

(اصل حدیث کے الفاظ و معانی یوں ہیں)۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ بلا کی شدت اور بدحظتی کی آفت اور دشمنوں کی فرحت (جگ ہنسائی) سے پناہ مانگتے تھے۔“

اس میں کثرت اولاد کہاں! ویسے بھی یہ محسن انسانیت ﷺ پر (نعوذ باللہ) تہمت ہے کہ آپ ﷺ ایک طرف حضرت انسؓ کو کثرت اولاد کی دعا دیں اور دوسری طرف کثرت اولاد سے پناہ مانگیں۔

اگر یہ جان لیا جائے کہ خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی کی 'خیر خواہی' پس پردہ مقاصد کیا ہیں تو تحریف قرآن و حدیث و فقہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ یہود و نصاریٰ کی طے شدہ منصوبہ بندی جس کے دستاویزی شواہد ہمارے پاس محفوظ ہیں، کے مطابق ملت مسلمہ میں بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دے کر جذبہ ایمانی کو سرد تر کرنا اور ملت مسلمہ کو بانجھ بنانا وغیرہ ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی کے حوالے سے خاندانی منصوبہ بندی کے ذرائع 'پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا' ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور مسیحی سماجی اداروں کے

ذریعے حقوق نسواں کی آڑ میں خاندانی نظام کو درہم برہم کرنا ہے۔ ملت مسلمہ کو بانجھ بنانے کے لئے عالمی اداروں کے دباؤ سے آیوڈین ملائیمک کھلانا، خاندانی منصوبہ بندی کے اپریشن اور سبزیوں، فصلوں، باغات پر انتہائی مہلک کیڑے مار ادویات کی ترویج کہ اس سلوپائیزنگ سے انسان، حیوان بلکہ زمین بھی بدرتج بانجھ ہو۔ اور عملاً یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے عراق کو دی گئی زہر آلود گندم گواہ ہے جس کا انکشاف بھی امریکی اخبار نے کیا۔

اہل وطن کے لئے خصوصاً ذی شعور طبقے مثلاً علماء و وکلاء کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ان باتوں کا نوٹس لیں اور قوم میں شعور بیدار کریں، قوم کو اغیار کے ہمہ جہت ہتھکنڈوں سے آگاہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے اندر ان کے تعاقب کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہود و نصاریٰ ہوں یا پاکستان کے ازلی دشمن ہنود، باہم منظم بھی ہیں اور مستعد و فعال بھی۔ رہا مسئلہ خوراک کی کمی اور آبادی کی کثرت کا تو یہ محض پراپیگنڈہ ہے۔ ہر لحاظ

سے وسائل 'آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور یہ بات انکے اپنے کہتے ہیں ہم نہیں کہتے۔

خاندانی منصوبہ بندی والوں کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل (خوراک) گھٹ رہے ہیں۔ جب کہ حقائق برعکس ہیں 'پیدائش اور اموات کی شرح سے آبادی کی بڑھوتری نکالی جائے تو بڑھوتری کی شرح بہت کم ہے اور وسائل کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے۔

"خوراک کی فراہمی: دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح 'خوراک کی

عالمی پیداوار میں اضافے کی شرح سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کی فی کس فراہمی 'حتیٰ کہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی زیادہ ہے۔ افریقہ میں خوراک کی فی کس فراہمی جمود کا شکار ہے بلکہ اس میں کمی آرہی ہے مگر اس کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدرتی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ افریقہ کے قدرتی وسائل صحیح طور پر بروئے کار لائے جائیں تو افریقہ نہ صرف اپنی تمام غذائی ضروریات پوری کر سکتا ہے بلکہ خوراک برآمد بھی کر سکتا ہے اگر افریقہ میں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ قدرتی پیداواری صلاحیتیں کم ہیں بلکہ یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اصولی بات یہ ہے کہ شرح کچھ بھی ہو فراہمی خوراک کا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے۔"

"قدرتی وسائل: 1970ء کے عشرے سے ہمارے قدرتی وسائل ختم

ہونے کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں علم ہے کہ عالمی آبادی اور اقتصادی ترقی کے باوجود تیل سمیت تمام اہم قدرتی وسائل کے معروف ذخائر کم ہونے

نی بجائے بڑھ گئے ہیں..... گویا مقدار کے لحاظ سے قدرتی وسائل کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔“ (حوالہ ”دنیا کی آبادی۔ حرکیات اور امکانات“ معلومات جرمنی مارچ اپریل 198ء)

بڑھتی آبادی۔ گھٹتے وسائل پر یہ کسی رجعت پسند مولوی کی گواہی نہیں بلکہ ان کا کہنا ہے جنہیں ہم ہر سچائی کی سند دینے کے لئے بے قرار رہتے ہیں۔ پھر یہ ماضی بعید کی شہادت نہیں۔ بات کہنے والے نے صرف ایک سال قبل اپنی تحقیق عالمی سطح عامۃ الناس کے سامنے رکھی ہے۔

”اگر دنیا کی زمین ٹھیک ٹھاک استعمال کی جائے تو موجودہ معلوم طریقوں کے استعمال سے بھی موجودہ آبادی سے دس گنا زیادہ آبادی کو یعنی 28 ارب افراد کو مغربی ممالک کی خوراک کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھا جاسکتا ہے۔ اور کثرت آبادی کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا۔“

(Clark, Colin (Economist) "Poloulation and Living Standards" International Labour Review Ag. 1953)

مختصر ایک دو اقتباسات اور دیکھتے چلئے :

”..... یہ تمام چیزیں اس یقین کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ اگلے سو سال کے اندر دنیا کے باقی دو تہائی حصے میں بھی وہی زرعی انقلاب واقع ہو جائے گا جو ابھی تک صرف ایک تہائی حصہ میں رونما ہوا ہے۔“

(FAO-10 Year Report on Agriculture. Dec. 43-55)

”آبادی اور خوراک اور زراعت و صنعت کے متعلق بحث و مباحثہ میں جو انتشار فکری (Confusion) ہے اس کا سبب موجودہ اور آئندہ وسائل کے بارے میں ہماری معلومات کی کمی ہے۔“

(Dr. Lamartine Yates, "Agriculture. in World Economy", Page 35, FAO Rome)

امرواقع یہ نہیں ہے کہ کثرت آبادی کے سبب وسائل کم رہ جائیں گے بلکہ یورپ اور امریکہ کے لئے شدید ترین خطرہ ایک طرف مسلم ممالک کی عددی برتری ہے تو دوسری طرف یہ کہ مسلم ممالک کی آبادی کم ہونے کے سبب یہاں کے وسائل ہمارے کام آئیں گے بصورت دیگر سارے وسائل یہیں استعمال ہوتے رہیں گے۔

”مسلم ممالک کی بڑھتی ہوئی آبادی اگلے 25 سالوں میں امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان ممالک کی سیاسی، معاشی اور اقتصادی و عسکری قوت میں اضافہ ہوگا۔ ان ممالک سے نکلنے والا خام مال جس سے امریکہ و یورپ کے کارخانوں کی چیمیاں گرم ہوتی ہیں، آنا بند ہو جائے گا۔ لوگوں میں قدرتی وسائل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا شعور پیدا ہوگا اور مراعات یافتہ طبقہ (امریکی یورپی مفادات کی رکھوالی کرنے والا) کے خلاف نفرت باقاعدہ تحریکوں کی شکل اختیار کر لے گی جو تیسری دنیا میں امریکی مفادات کی نگرانی کرتا ہے۔“

(Amarican Report S-200 approved under No: 314 on 26-11-75)

مذکورہ تفصیل کے بعد ہر باشعور یہ جان سکتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود آبادی کی امداد کے پس پردہ 'خیر خواہی' کے بھیس میں اصل مقاصد کیا جن کے لئے ابلیس ایک گنجائش عزل کو توڑ مروڑ کر اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی خاطر معزز و محترم علماء کرام کے نام سے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ عزلی کی گنجائش انفرادی سطح پر ہے۔ یہ کسی طرح بھی منظم تحریک یا محکمہ کی بنیاد نہیں ہے۔ خصوصاً کسی رزق کے خوف سے تو عزل کی اجازت ہی نہیں کہ اس کا آغاز اس دور میں ہوا تھا جب غزوات میں لونڈیاں اصحاب الرسول ﷺ کے تصرف میں آئیں اور چونکہ لونڈیاں ایک سے دوسرے کی ملکیت میں آتی جاتی تھیں اس لئے ان سے اولاد کے سبب پیدا مسائل سے بچنے کی خاطر ایک تدبیر تھی اور جب کوئی لونڈی آزادی کے بعد کسی کے باضابطہ متد میں آتی تو اس سے بھی اولاد مطلوب شرتی۔ صحابہ کرامؓ کے متعلق فرامین رسول ﷺ کو نظر انداز کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ ۝

خاندانی منصوبہ بندی کے جسمانی اور اخلاقی نقصانات



اگرچہ عقل و شعور اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ خالق و مالک نے قرآن حکیم میں اور محسن انسانیت ﷺ کے ذریعے انسان سے جو بھی مطالبات کئے ہیں وہ انسان ہی کی بھلائی کے لئے ہیں مگر عقل و شعور کا دعویدار کم فہم انسان اسے ملا کی سوچ، قرآن و حدیث کے لئے ملا کی ”فرسودہ تاویلات“ کہہ کر رد کر دیتا ہے اور ”جدید ملا کی زمانے سے ہم آہنگ“ تحقیقات پر فریفتہ نظر آتا ہے اور دنیوی لذت کے لئے من پسند فتوؤں پر عمل کرتے ہوئے اپنی ”عملی زندگی مطابق شریعت“ پر نازاں ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی یا بہبود تباہی کی ”ملک گیر تحریک یا باضابطہ علمائے سرگرمیوں“ کے لئے قرآن و حدیث میں کوئی حکم کوئی اجازت یا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے البتہ ممانعت قرآن و حدیث میں واضح طور پر ملتی ہے۔ انفرادی سطح پر بہ امر حقیقی مجبوری اور ضرورت یا محدود گنجائش بہ کراہت پائی جاتی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ خدا خوفی کی ساتھ۔

انسان کے خالق کو اس امر کا حوصلی علم تھا کہ میری تخلیق کردہ انسانی مشین کے

فطری فعل میں رکاوٹ اس مشین کو اس کے اصل مقاصد سے نہ صرف یہ کہ دور لے جائے گی بلکہ پوری مشین ہی کو تھس تھس کر دے گی۔ عمومی زندگی میں اس بات کو کسی بھی شعبہ زندگی پر منطبق کریں تو یہی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی کچھ حال حضرت انسان کی اپنی جسمانی مشینری کا ہے۔

پیشتر اس کے کہ ہم خاندانی منصوبہ بندی کے انسانی جسم و جان پر اس کے اخلاق و کردار پر پڑنے والے اثرات بد کا ذکر کریں ہم قرآن حکیم کا حکمت و دانائی سے بھرپور حکم آپکے سامنے رکھتے ہیں تاکہ حکم کی حکمت کے انحراف پر آپ غوطی آگاہ ہوں۔

☆ فلیغیرن خلق اللہ (النساء : 119)

پس وہ ضرور ہی اللہ کی تخلیق میں ردوبدل کریں گے

خاندانی منصوبہ بندی والے فوراً کہیں گے کہ ہم تو کوئی قطع برید نہیں کرتے مگر اس دعوے کے باوجود وہ تغیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مثلاً عورت اور مرد کا مقصد تخلیق بندگی کے دیگر تمام تقاضوں کی طرح ایک تقاضے کے طور پر اولاد پیدا کرنا ہے اور اس میں رکاوٹ خواہ کسی بھی طریقہ سے ہو غیر حکیمانہ اور مقصد سے بغاوت ہے۔ جس کے مثبت نتائج کبھی سامنے نہیں آسکتے۔ یہ عملاً محال ہے اور فطرت سے کھلی جنگ ہے۔ تغیر کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ قطع برید کی جائے تغیر تو دریا کے فطری بہاؤ کو نیا رخ دینا بھی ہے۔

انسانی جسم و جان پر مرتبہ بد اثرات :

ہم یہاں بعض ماہرین کی آرا سامنے لاتے ہیں تاکہ فنڈامینٹلز کے طعنے سے بچ

س۔ یہ انہیں میں سے ہیں جو ہمیں تو گولیاں کھلانے اور نس بندی کرنے پر مصر ہیں مگر اس سے محفوظ رہتے ہیں :-

”جذبہ جنسی آخر کس چیز کا غماز ہے اور کس مقصد کے حصول کے لئے ہے؟ یہ بات کہ اس کا تعلق افزائش نسل سے ہے بالکل واضح ہے۔ حیاتیات (بیالوجی) کا علم اس معاملے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حیاتیاتی قانون ہے کہ جسم کا ہر عضو اپنا خاص وظیفہ انجام دینا چاہتا ہے اور اس کام کو پورا کرنا چاہتا ہے جو فطرت نے اس کی سپرد کیا ہے۔ نیز یہ کہ اگر اسے اپنا کام کرنے سے روک دیا جائے تو لازماً الجھنیں اور مشکلات پیدا ہو کر رہتی ہیں۔ عورت کے جسم کا بڑا حصہ بنایا ہی گیا ہے استقر از حمل اور تولید کیلئے۔ اگر ایک عورت کو اپنے جسمانی اور ذہنی نظام کا یہ تقاضا پورا کرنے سے روک دیا جائے تو وہ اضمحلال اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اسکے برعکس ماں بن کر وہ ایک نیا حسن، ایک روحانی بالیدگی پالیتی ہے، جسمانی اضمحلال پر قابو پالیتی ہے۔“

”ایک عورت کو اولاد کی ضرورت صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ اس کی مادری جبلت کا تقاضا ہے یا یہ کہ اس خدمت کی انجام دہی وہ لو پر سے نائد کردہ اخلاقی ضابطے کی بنا پر فرض سمجھتی ہے بلکہ دراصل اسے اس کی ضرورت بن لئے بھی ہے کہ اس کے جسم کا سارا نظام بنا ہی اس کام کے لئے ہے۔ اگر اسے جسم کے مقصد تخلیق سے ہی باز رکھا جائے یا محروم کر دیا جائے تو اس کی پوری شخصیت بے کیفی، محرومی اور شکست و رستخت کا شکار رہے گی۔“

Dr. Oswald Schwars, The Psychology of Sex).

حوالہ اسلام اور ضبط اولاد، صفحہ 76-75)

”.....وظائف تولیدی کی انجام دہی عورت کی تکمیل کے لئے ناگزیر ہے۔ یہ ایک احمقانہ فعل ہے کہ عورتوں کو تولید اور زچگی سے برگشتہ کیا جائے.....“

(Dr. Alexis Carl "Man the Unkown" حوالہ اسلام اور ضبط اولاد، صفحہ 75)

ان فطری تقاضوں کے آگے غیر فطری بند باندھنا ہی خلق اللہ کو بدلنے کی جرات ہے جس کے سبب نسل کی تباہی یقینی ہے کیونکہ ایک مرد کی یون تباہی کا دائرہ محدود ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عورت کی تباہی ایک خاندان کی تباہی پر رکتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نسل پر اثر انداز ہوتی ہے ذرا دیکھئے :-

”مانع حمل وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ عارضی طور پر ان میں مردانہ کمزوری یا نامردی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مجموعی حیثیت سے کہا جاسکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ بر اثر بظاہر مرد کی صحت پر نہیں پڑتا۔ مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ ہے کہ مانع حمل وسائل کے استعمال سے جب مرد کو دورانِ مباشرت اپنی خواہش کی مکمل تسکین نہ ہوگی تو اس کی عائلی زندگی کی سرسری غائب ہو جائیں گی اور وہ دوسرے ذرائع سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی صحت برباد کر دیں گے اور ممکن ہے امراض خبیثہ میں مبتلا کریں دیں۔“

”جہاں طبی لحاظ سے منع حمل ناگزیر ہو وہاں تو منع حمل کی (انفرادی) تفسیر عورت کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ لیکن جہاں یہ ناگزیر ضرورت نہ ہو وہاں

منع حمل کی تدابیر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے عصبی نظام میں سخت برہمی پیدا ہو جاتی ہے اس میں بد مزاجی اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی تو شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں میں زیادہ نمایاں دیکھے گئے ہیں جو 'عزل' (Coitus Interruptus) کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔"

(Report-British National Birth Rate Commission)

"..... ضبط ولادت کے طریقے، فرز جے ہوں، جراثیم کش دوائیں، کولیاں، کنڈوم وغیرہ جو بھی ہوں، کے مسلسل استعمال سے عورت میں عصبی ناہمواری، پشیمردگی، افسردہ دلی، طبیعت کا چڑچڑاپن، اشتعال پذیری، غمگن خیالات کا ہجوم، بے خوابی، پریشان خیالی، دل و دماغ کی کمزوری، دوران خون کی کمی، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، جسم میں کہیں کہیں ٹیسٹس اٹھنا، لیام ماہواری میں بے قاعدگی پیدا ہونا ان کے لازمی اثرات ہیں۔" (چالیس سالہ تجربہ کے بعد لیڈی ڈاکٹر کی

رائے۔ (حوالہ اسلام اور ضبط ولادت: Dr. Mary Scharlaib)

"اسقاط کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ایسے مریضانہ (Pathological) اثرات مرتب ہوتے ہیں جو آئندہ تولید کے امکانات کو بڑی طرح مجروح کر دیتے ہیں۔"

("The Abortion Problem"- Taussig Fredrick J.
Proceedings of the Conference of National
Committee on Maternal Health, Baltimore, Page 39)

”.....مائع حمل ذرائع میں کوئی طریقہ بھی ایسا نہیں ہے جو بد اثر ہے۔ چھوڑ دو۔“

(Family Planning- Dr. Sitawati, Pakistan Times Sept 21, 59)

”ضربہ وادت کی گولیاں خطرناک نتائج کی حامل ہیں۔ ان کے استعمال سے سر
پلانا اور دیگر اعصابی تکالیف ہی نہیں بلکہ سرطان (Cancer) جیسے موذی
مریض کے پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے۔“

(Dr. Ranial Deucas-Britisher) حوالہ صدق جدید لکھنؤ 18 نومبر 60ء

انسان، خصوصاً خواتین کی جس صحت کی محافظت کے نام پر خاندانی منصوبہ
بندی والے اس کو دم کٹی لومڑی کی طرح بہلا پھسلا کر اپنے ڈھب پر لا کر صحت اور
خوشحالی کے سبز باغ دکھاتے ہیں، وہ صحت کس طرح برباد ہوتی ہے، اس پر خود خالق
خاندانی منصوبہ بندی کے گھر کے بھید یوں کی جلتی آراجو طویل تجربات اور تجزیوں پر
ہے پانی پھیرنے کے لئے کافی ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات تو ملا کی تاویل سہی، یہ روش
خیال انگریز، کیا کہتے ہیں اسے بار بار پڑھیے اور ہمت ہے تو فنی بیادوں پر جھٹلائیے بھی۔

یہ آرا اپنی جگہ، امر واقع یہ ہے کہ ہمارے ہسپتال میں ایسی مریض خواتین عمارت
کے لئے آتی ہیں۔ جن کی ہسٹری لینے کے دوران اکثر مرض کی ابتداء کی تہہ میں چھلا
گولیاں، اپریشن پایا جاتا ہے۔ آج ریڈیو، ٹی وی پر قوم کو زیادہ بچوں کے سبب کینسر سے ڈرانا
جا رہا ہے حالانکہ بات الٹ ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طور طریقے
اور ادویات کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔

صرف یہی قابل توجہ اور عملاً تحقیق طلب مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خاندانی منصوبہ

ہندی کی داعی خواتین سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ خود ان واپنی برادری میں کتنے فی صد خواتین خود خاندانی منصوبہ بندی کے مانع حمل ذرائع سے مستمع ہیں یا وہ خود تو محفوظ و مامون ہیں مگر گرد و پیش ہر کسی کی ”دم کٹوانے“ پر مصر ہیں۔ یہ سروے بہر حال دلچسپ بھی ہوگا اور عبرت انگیز بھی۔ یہی سوال عمائدین حکومت سے بھی پوچھا جاسکتا ہے جو ورلڈ بینک اور IMF کی خوشنودی کے لئے ہر سیمینار میں خاندانی منصوبہ بندی کی برکات بیان کرتے نہیں تھکتے بلکہ ٹی وی پر اس فحاشی کو فروغ بھی دے رہے ہیں۔

خاندانی منصوبہ بندی اور اخلاقی کیفیت

مانسی اس بات پر نواہ ہے کہ آج سے نصف صدی قبل تک لڑے لڑکیوں میں ”کچھ ہو جانے“ کا خوف انہیں اخلاقی بے راہ روی سے بہت دور رکھتا تھا۔ برائی کی آٹے میں نمک سے بھی کم شرح اگر تھی بھی تو انتہائی زیر زمین تھی مگر بدرتج جوں جوں قوم کے قدم ”ترقی“ کی طرف بڑھتے گئے، قوم مغربی آقاؤں کے ”فیض“ سے فیضاب ہوتی گئی اور تعلیم و صحت کے لئے نہیں بلکہ تعلیم و صحت بذریعہ خاندانی منصوبہ بندی کی چھت پھاڑا دیا، کاہن برسناس شروع ہوا اسی تدرتج کے ساتھ قوم اخلاقی زوال کے راستے کی راہی ہنتی چلی گئی اور آج پہلے کے ”کچھ ہونہ جائے“ کو اس خاندانی منصوبہ بندی نے ”چھ نہ ہوگا“ کے یقین میں بدل دیا۔ اس تبدیلی سے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر قومی اخبارات سے بڑھ کر کس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے۔ کسی ایک دن کا اخبار اٹھا کر جنسی بے راہ روی کی خبریں دیکھ لیں۔

خاندانی منصوبہ بندی کے ”محفوظ طریقوں“ نے قوم کے نوجوانوں میں بے راہ روی کو مخلوں، گلی کوچوں تک پھیلا دیا اور یوں ملک میں اخلاقی بے راہ روی کا سیلاب آگیا۔ جس کے افراد پر انفرادی حیثیت میں اور معاشرہ پر اجتماعی حیثیت بدترین نتائج مرتب

ہوئے۔ اس پر گواہی درکار ہو تو ہسپتالوں سے ہٹ کر چھوٹے ذاتی کلینکوں اور دایوں کے خصوصی کیسوں کا محتاط سروے کر لیجئے اس بھیاںک تصویر کا شاید آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ اسی پہلو سے ذرا ماہرین کی آرا پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ آپ مذکورہ سطور کو مکالمات کی دقیقانوسیت کہہ کر رہ نہ کر دیں۔ فطری بات ہے کہ جب 'کچھ نہ ہونے' کا یقین ہو تو لذت کی جلت بے قابو ہونے لگتی ہے خصوصاً جب چاروں طرف بے ہودہ فحش لٹریچر اور ٹی وی چینل مصروف عمل ہوں۔

”مانع حمل ذرائع کا علم ہو سکتا ہے کہ شرح مناکحت کو بڑھادے لیکن اس کے ساتھ ساتھ (یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ) یہ بیرون نکاح جنسی تعلق کے مواقع کو بھی عام کر دیتا ہے جن کا عام ملن خود ہمارے اپنے زمانے میں شادی کے تنگ و تاریک مستقبل کا ایک اور منظر سمجھا جاتا ہے۔“

(Dr. Westermarck-"Future of Marriage in the West")

”مرد کی زوجیت کا رخ اگر کلیہ نفسانی خواہشات کی بے ادبی کی طرف پھر جائے اور اس کو قابو میں رکھنے کے لئے کوئی (اخلاقی) قوت ضابطہ نہ رہے تو اس سے جو حالت پیدا ہوگی وہ اپنی نجاست و دنائیت اور زہریلے نتائج میں ہر اس نقصان سے کہیں زیادہ ہوگی جو ”بے حد و حساب بچے پیدا کرنے“ سے رونما ہو سکتی ہے۔“ (حوالہ اسلام اور ضبط ولادت۔ Dr. Foster)

خاندانی منصوبہ بندی کے طور طریقوں نے دراصل ملک میں زنا کے محفوظ لائسنس جاری کئے ہیں مگر اس کے باوجود 'کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر اور گندے نالوں سے پھول برآمد ہونے کی خبریں روزمرہ کا معمول ہیں۔ ان کے (مانع حمل ذرائع)

سب لذت پرستی بڑھ گئی ہے بلکہ یہ وبا کی طرح چہر سو پھیلی نظر آتی ہے۔ بچوں کے درمیان جس غیر فطری (کیونکہ فطری وقفہ قدرت کا طے کردہ ہے) وقفے پر زور دے کر ”خوشحال اور صحت مند گھرانے کی خوشخبری“ اکثر دی جاتی ہے اس پر ان کے اپنے طبی ماہرین کی رائے کیا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، یہ لوگ عمرانیات اور نفسیات کے شعبے میں برس ہا برس تجربہ کی بنا پر یہ رائے رکھتے ہیں۔

”..... قریب العمر بچوں (بہن بھائیوں) کی کمی منجملہ اور چیزوں کے بچے کو مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ چیخنے چلانے یا تخریبی نوعیت کے کام کرنے میں لگ جاتا ہے۔“

(*"The Middle Class Child and Neurosis"* Arnold W. Green)

”اگر دو بچوں کے درمیان عمر کا بہت فرق ہو تو بڑے بچے میں قریب العمر ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی خلل (Neurosis) تک واقع ہو جاتا ہے بلکہ بعض ماہرین اس پر بھی متفق ہیں کہ بچے کا ذہنی ارتقارک جاتا ہے۔“

(*"Maternal Over Protection"* Dr. David M. Lovy)

اختصار کے نکتہ نظر سے ہم مذکورہ چار آرا پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ آرا بھی مغربی آقاؤں کی ہیں کہ ہمارے نزدیک بالعموم ”سچ ہے ان کا فرمایا ہوا“ معتبر ٹھہرتا ہے ورنہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے جسے خود ہمارا قلب و ذہن قبول کرتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کا تعارف جوں جوں بڑھ رہا ہے توں توں ہماری سماجی، معاشرتی اور اخلاقی اقدار دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ہمہ جہت اقدار کا معیاری سرمایہ رکھنے والی ملت مسلمہ اخلاقی دیوالیہ پن

کا شکر ہی نہیں ہر طرح کی اقدار سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی اور ملکی دفاع :

خاندانی منصوبہ بندی کے داعی 'کم بچے خوشحال گھرانہ' کی مالا بچتے نہیں تھکتے کہ اس 'ورد' پر انہیں مغربی آقاؤں نے لگایا ہے۔ عقل کے یہ اندھے اس خیر خواہی کی تہہ میں چھپی بد خواہی کی تہہ تک نہیں پہنچتے یا دانستہ پہنچنا نہیں چاہتے۔ جبکہ انہیں خاندانی منصوبہ بندی کی ثانی دینے والے اپنے لئے یہ رائے رکھتے ہیں کہ :

”آبادی میں عظیم اضافہ ایسا اضافہ جو بے ضبط و بے لگام تھا یورپ کو دنیا کی درجہ اول کی طاقت بنانے میں فیصلہ کن تھا۔ یورپ کی آبادی کے اس دھماکہ کے ساتھ پھٹ پڑنے ہی کا نتیجہ تھا کہ ملک میں نئی صنعتی معیشت کو چلانے کے لئے کارندے بھی مل گئے اور دوسری طرف یورپ سے باہر پھیل کر حکمرانی کرنے کے لئے فوج میسر آئی جس کے دائرہ میں دنیا کے رقبے کا نصف اور آبادی کا تہائی حصہ آگیا۔“

(Steurt - "Population Explosion" حوالہ اسلام اور ضبط ولادت صفحہ 117)

”شادی شدہ جوڑوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کے لئے اعلیٰ سطح کی کونسل قائم کر دی گئی۔ جاپان میں بوڑھے زیادہ اور بچے اقلیت بن گئے۔ شرح پیدائش میں اضافہ کیا جائے گا۔ جاپانی حکومت کچھ عرصہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر زور دے رہی ہے۔“ (روزنامہ اوصاف (اسلام آباد) صفحہ 4، 24 مئی 99ء)

جنگ ایٹمی ہو یا کنوینشنل ہتھیاروں سے 'نیوی اور ہوائی فوج' کتنی ہی موثر

روائی کرے، ہر کاروائی کو موثر تر اور مستحکم بنانے کا بیادہی کردار بری افواج ہی ادا کرتی ہیں اور یہ بات کس سے چھپی ہے کہ بری فوج کی عدوی برتری ہر ملک کی بیادہی ضرورت ہے۔ اہل ایمان اس عدوی برتری کی کمی دولت ایمان اور جذبہ جہاد سے پوری کرتے ہیں۔ جذبہ جہاد اور ایمان کے تقاضوں میں یہ کہیں شامل نہیں ہے کہ ان کی بیادہی فوج کی بند اولا لازم آکم رہے۔

خاندانی منصوبہ کے 'خالق' دو اہم باتوں کے سبب ہمیں "منصوبہ بندی کی محفوظ اور مر لگی تصدیق شدہ" گولی کھلانے پر مصر ہیں کہ :

☆1 عالم اسلام میں صرف پاکستان ہے جس سے یہود و نصاریٰ کے عالمی مفادات کو حقیقی خطرہ ہے اور اس کی بڑھتی آبادی لمحہ لمحہ خطرے میں اضافہ کر رہی ہے۔ لہذا ہر قیمت پر انکی آبادی کو بالخصوص اور دیگر مسلم ممالک کی آبادی کو بالعموم روکنے کیلئے معاشری، سماجی، تعلیمی اور ثقافتی ذرائع استعمال کئے جائیں۔

☆2 عالم اسلام قدرتی ذرائع سے مالا مال ہے اور یہ زرعی، صنعتی اور معدنی وسائل ان ممالک کی آبادی سے چھین کر یورپ و امریکہ کی کفالت پر خرچ ہونے چاہیں لہذا ہر حربہ استعمال کر کے ان کی آبادی میں کمی کی جائے اور جو آبادی ابھی آبادی نہیں بنی، مستقبل کی آبادی ہے اس کے سامنے خاندانی منصوبہ بندی کا ہند باندھا جائے۔ جس سے آبادی بھی کم ہوگی اور فحاشی بے حیائی بھی پھیلے گی۔

مذکورہ مقاصد کے حصول کے لئے یہ آقا :

☆1 مسلم ممالک میں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے 'یو این او اور اس کے ذیلی اداروں کی چھتری تلے' کارروائی کرتے ہوئے کبھی آیوڈین ملا نمک کھلانے پر مصر ہیں تو کبھی بار بار تھوڑے وقفوں کے ساتھ پولیو کے قطرے پلانے پر مصر ہیں۔

☆2 عراق کو زہر آلود گندم سپلائی کی جاتی ہے۔ (اس کا انکشاف بھی امریکی اخبارات نے ہی کیا)

☆3 زرعی ادویات کی بھرمار جو دشمن کیڑوں کے ساتھ دوست کیڑے اور پرندے بھی ختم کر دیں بلکہ بتدریج معیاری زمین کو بانجھ کر رہی ہیں۔ یہ ادویات باغات اور سبزیوں پر پیرے ہو کر پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے 'سلوپائزن' بن کر انسان میں پیچیدہ بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔

☆4 کچے ممالک میں عرصہ دراز سے متروک ادویات، ملٹی نیشنل کمپنیوں یا

امپورٹرز کے ذریعے 'انسانی علاج کے لئے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ادویات جن کے اثرات بد پر زمانہ گواہ ہے، ڈاکٹر کے لئے 'گاڑی کی چابی' کے ساتھ مشروط ہو کر مریضوں کے حلق تک پہنچتی ہیں۔

کیا یہ امر واقع نہیں ہے کہ افراد سے قوم بنتی ہے اور بیمار افراد سے بیمار قوم ہی تشکیل پاسکتی ہے اور بیمار قوم کے افراد نہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی قومی سطح پر وطن کا۔ بیمار جسم کے اندر طاقتور ایمان اور جذبہ جہاد ٹھکانہ کرے تو آخر کس بیاد پر! یہی کچھ ہم سے اقوام غرب چھین لینے کی فکر میں شب و روز کرتے ہیں۔

گذشتہ دنوں ملک کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر خاندانی منصوبہ بندی کی وکالت کرتے یہ فرمایا کہ ملک کی آبادی بہت ہو چکی اب پیدائش روک دینی چاہئے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اخبار کے ذریعے اور ذاتی طور پر بھی خط لکھ کر سوال کیا کہ ایٹم چلانے کے بعد پابندی کا نام بھی اگر چلائیں گے اور نتیجتاً ملک کی افواج میں بدرجہ بھرتی ختم ہوتی جائے گی تو پھر ایٹم چلانے کے لئے آپ نے کس ملک کو ٹھیکہ دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی تک موصوف کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔ آبادی نہ ہوگی تو دفاع کے لئے ٹھیکہ ناگزیر ہوگا۔

خاندانی منصوبہ بندی سرے سے معاشی خوشحالی کا مسئلہ نہیں ہے۔ فلپائن میں ہر گھرانے میں اوسطاً 10، 12 بچے ہیں وہاں تو آج تک قحط نہیں پڑا۔ ہمیں فلپیڈیوں کے ساتھ برسوں اکٹھے رہنے کا بھی موقع ملا ہے۔ ہم نے ان کے چہروں پر محنت کی عظمت اور اطمینان ہی دیکھا کسی ایک کے منہ سے ہائے وائے نہیں سنی بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ گھر میں 10 بچے یکدم تو آ نہیں گئے جو پہلے پیدا ہوئے انہوں نے پہلے کمانا شروع کر کے والدین کا ہاتھ بٹایا پھر چھوٹے بڑے بچے گئے گئے کماتے گئے اور 20 سال بعد جب سب کی آمدنی آنے لگی تو خوشحالی نے ہمارے گھر ڈیرے ڈال دیئے۔ ہمیں الٹ پٹی پڑھائی جا رہی ہے اور ہم عقل و شعور کو زحمت دیئے بغیر گردن ہلائے جا رہے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر دم ہلانا نہیں لکھا، ورنہ ہماری وفاداری کا ثبوت تو اس بھی بڑھ کر ہے۔

انا لله وانا اليه راجعون

ضمیمہ

خراب صحت سے چھٹکارا

شاہدہ پیٹھے کے اعتبار سے ایک سائنس دان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شادی سے میرے لئے صحت کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن شادی کے بعد جب میں نے مانع گولیاں استعمال کیں تو وہ گولیاں میری بیماری کا سبب بن گئیں، لیکن صرف میں ہی نہیں میرے شوہر بھی بیمار رہنے لگے۔ اس طرح ہم طرح طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے مبتلا رہنے لگے۔ پھر ہم نے خرابی صحت سے متعلق اپنا رویہ تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد خرابی صحت کی گرفت سے چھٹکارا مل گیا۔ شاہدہ لکھتی ہے:

میرے ہونے والے شوہر سے پہلے پہل میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ہم ڈگری کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ پھر جب ہماری شادی ہوئی تو ان دنوں ہم پی ایچ ڈی کیلئے ریسرچ کر رہے تھے۔ تعلیم کے دوران ہمارے لئے بچے کی ولادت دقتیں پیدا سکتی تھی لہذا مانع حمل گولیوں کے استعمال ہی میں عافیت نظر آئی۔ چنانچہ ہم نے ان گولیوں کا استعمال شروع کر دیا۔ اور اب ہمیں یہ سوچ کر قطعی حیرت نہیں ہوتی کہ ہماری صحت خرابی کی وجہ سے گولیاں تھیں۔ مانع حمل گولیوں کے استعمال کے تقریباً ایک سال بعد ہمارے صحت خراب رہنے لگی۔ میرا وزن گھٹنے لگا۔ مزاج میں ہيجان اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا۔ اکثر و بیشتر مجھ پر افسردگی طاری رہنے لگی۔ اس وقت میری سمجھ میں قطعی نہیں آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں میرے ساتھ ہی میرے شوہر بھی صحت خراب رہنے لگے۔ بلکہ ان کی صحت مجھ سے زیادہ بگڑ گئی۔ وہ اعصابی بد نظمیوں کا شکار رہنے لگے۔ کبھی کبھی ان پر بھی ہيجانی کیفیت طاری ہونے لگی۔

ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا اور اپنے پیشے میں لگ گئے۔ اب ہمارا کنبہ باضابطہ وجود میں آنے لگا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ دورانِ حمل میری صحت کافی بہتر ہو گئی۔ میں خود کو تندرست محسوس کرنے لگی۔ اس طرح میری فکر مندی بڑی حد تک دور ہو گئی۔ شادی کے بعد سے اب تک مجھے اپنی صحت کبھی اس قدر بہتر نہیں معلوم ہوئی تھی۔

بشکر یہ ہمدرد صحت، جولائی 1985ء

کیا ضبطِ تولید کی گولیوں سے فالج ہوتا ہے؟

ضبطِ تولید کی گولیاں استعمال کرنے والی خواتین فالج کا شکار ہوتی ہیں۔ اوٹار یو کینیڈا کے ایک ممتاز ماہرِ امراضِ اعصاب کے مطابق اس نے اب تک جو مشاہدات کیے ہیں ان کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ضبطِ تولید کی گولیاں جب سے استعمال ہونے لگی ہیں خواتین پر فالج کے حملوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ اس ماہر کے مطابق اس نے اوٹار یو میں جو مشاہدات کیے ہیں ان کے مطابق 1967ء اور 1968ء کے دوران ان گولیوں کو عوام میں متعارف کرانے کے بعد انہیں استعمال کرنے والی 57 فیصد خواتین فالج کے مرض میں مبتلا ہوئیں۔ جب کہ 1958ء اور 1959ء میں یہ صورتِ حال نہیں تھی۔

ڈاکٹر والدیمیر ہاچنسی کے مطابق اوٹار یو میں فالج کے مریضوں کی مجموعی تعداد میں 17 فیصد اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر ہاچنسی نے یہ بات سپریم کورٹ میں دائر کردہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران بتائی۔ پالین عخان نامی ایک خاتون نے اور تھو فارماسیوٹیکل (کینیڈا) لمیٹڈ کے خلاف عدالت میں اپنی درخواست میں بتایا ہے کہ اس کمپنی کی تیار کردہ ضبطِ تولید کی گولیوں کے استعمال سے اس پر 1971ء میں فالج کا حملہ ہوا جسکی وجہ سے اس کا بایاں ہاتھ اور پاؤں مستقل طور پر بیکار ہو گیا ہے۔ اس پر یہ حملہ 23 سال کی عمر میں ہوا تھا۔

بشکر یہ ہمدرد صحت، ستمبر 1985ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِہِ نَسْتَعِیْنُ ۝

ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اسلام

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہریوں کے دلوں میں انتہائی محبت و احترام سے بننے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ٹیلی ویژن مذاکرہ لور روزنامہ خبریں 27 جنوری میں رپورٹ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ ایٹم کے حوالے سے محسن پاکستان اسلام کے حوالے سے کس قدر کورے ہیں اور آبادی و وسائل پر ان کی نظر کس قدر سطحی ہے دفاع وطن کے حوالے سے ان کا کتنے نظر کس قدر کمزور ہے۔

انتہائی آزاد خیال امریکہ زدہ (ان کی پی سی سی آئی BCCI سے حسن عابدی کی بانہوں میں ڈانس تصویر اس پر گولہ ہے) وزیر بہبود آبادی عابدہ حسین کے پہلو میں بیٹھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ کہنا کہ: (تو خبریں)

”آبادی میں اضافے کا سوچنا بالکل غلط ہے، ٹیلی ویژن پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بہت مہادے دیے ہیں جو اس وقت ایک بلین سے زیادہ ہیں اور اب یہ ضرورت نہیں رہی کہ ہم بہت زیادہ بچے پیدا کریں۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان کریں، بچہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں انہیں تبلیغ کر کے مسلمان بنائیں اور وسائل کو اپنی بہتری کے لئے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ملکی دفاع پر دباؤ کا باعث بنتی ہے جبکہ اس سے ماحولیات کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔“

ایٹم بم کی تخلیق کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اتھارٹی ہو سکتے ہیں، ان کا ہر فتویٰ حریف آخر کھلوا سکتا ہے (اگرچہ ایسا حقیقتاً ہوتا نہیں) مگر اسلام کے حوالے سے ان کا ”مبلغ علم کی جیاد پر“ مفتی جانا ہر لحاظ سے محل نظر ہے۔ ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے محبت ہے اور اسی لئے ہم نے پوری دردمندی کے ساتھ ان کی دین حنیف سے لاعلمی کا نوٹس لیا ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان بن کر مالک حقیقی کے روبرو پیش ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کریں۔ انہیں علم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول ﷺ کی اطاعت سے مشروط کیا ہے اور محسن انسانیت ﷺ نے فرمایا کہ:

”رسول اللہؐ نے فرمایا کہ تم بہت پیار کرنوالی اور زیادہ پیچ پیدا کرنوالی سے شادی کرو کہ میں (محشر میں) تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں کے مقابلے میں کہہ سکوں کہ میری امت ہر امت سے بڑی ہے۔“

(مشکوٰۃ باب النکاح، ابو داؤد سنائی)

رہا مسئلہ وسائل کی کمی کا تو یہ قادر مطلق پر بہتان ہے کہ ڈاکٹر عبدالقادر خان کوئی پراجیکٹ کی نینرٹیلٹی پر اطمینان قلب سے ہر طرح کے وسائل کا جائزہ لے کر کام شروع کریں مگر خالق کائنات وسائل کا نظام کئے بغیر انسان پہ انسان پیدا کئے جائے۔ حکمران ٹولے کی کھلی منافقت کہ آبادی کے حوالے سے بات کریں تو یہ کہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے وسائل گھٹ رہے ہیں اور بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو تو ریڈیو، ٹی وی پر، سیناروں اور تقاریر میں یہ کہتے نہ تھکیں کہ پاکستان میں بے پناہ وسائل ہیں جن کے لئے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، سولتیس دی جائیں گی (کہ سب کچھ سمیٹ کر اپنے وطن لے جائیں)۔ عالمی اداروں کی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ آبادی کے مقابلے میں وسائل بہت زیادہ ہیں۔

دفاع پر بوجھ کے ضمن میں ڈاکٹر قدیر خان کا موقف معصومہ خنز ہے۔ پیدائش کا تسلسل بقاء کی ضمانت ہے۔ آج ڈاکٹر قدیر کے قیمتی مشورہ پر عمل کرتے ہوئے دو تین چوں والے اپریشن کروالیں، نسل کشی نہ ہو جائے یا یورپ کی طرح کم ہو جائے تو کل کے دفاع کی فوج کہاں سے نئے گی۔ ڈاکٹر قدیر مستقبل کی دفاع کا ٹھیکہ کس ملک کو دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ ہوائی فوج کتنی ہی موثر کارروائی کرے، ہارجیت کا فیصلہ، قلیل ہوائی بیڑے کے برعکس کثیر بری فوج کی کارروائی پر ہوتا ہے۔ انولج کے جذبہ لوز تہیت کے ساتھ سامان حرب اور اسے استعمال کرنے والوں کی عددی برتری سے آنکھیں بند کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔

ماحول کی آلودگی والا جملہ بھی کم معصومہ خنز نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ لوزون کہ تہ میں شکانف ڈالنے کا جرم مسلم ممالک میں کثرت لولاد کے سبب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ کثرت لولاد کے سبب ماحول کی آلودگی کی سطح چین، جاپان، فلپائن، دغیرہ میں انتہاء تک ہوگی۔ بعض یورپی ممالک انتہائی احمق ہیں کہ کثرت لولاد کے لئے اپنے عوام کو ترغیب دیتے ہیں لوزیوں ماحول کو جان بوجھ کر آلودہ کرنے کے در پہ ہیں مگر ہمیں چاہنا چاہتے ہیں۔ انتہائی احترام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال، کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری وجہ سے بھی ماحول خراب تو ہوا ہوگا۔ تاریخ کیاباتی ہے؟

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار

پر

آزادی و حقوق نسواں



کی آڑ میں

نام نہاد مسیحی سماجی اداروں کی نشر زنی

مسلمانوں کے لئے

ایضاح

بقول لاء فشر حدود وقت و قصاص
کے قوانین پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔



صلیب میں عورت اور عورت میں صلیب
خبرنامہ 1994ء، جلد 6، شماره 1، صفحہ 3

حرف اول



اقلیتوں کے وجود سے کوئی ملک خالی نہیں ہے، کسی ملک میں مسلمان اقلیت میں ہیں تو کسی میں عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ، پارسی اور سکھ وغیرہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دوسری طرز کی جمہوریہ ہے جس میں اکثریت کا مذہب اسلام ہے۔

ہر ملک کی یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک میں آباد اقلیتوں کو ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت دے۔ اسی طرح ہر ملک کی اقلیتوں کی قانونی اور اخلاقی

ذمہ داری ہے کہ وہ اکثریت کے دین، مذہبی عقائد و رسوم اور مروجہ ملکی قوانین احترام کریں۔ اپنے دستوری تحفظات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔

اسلام کی ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اپنے ہر حکمرانی میں، ہر خطہ میں، اس نے اپنی اقلیتوں کو تمام تر تحفظات سے نوازا اور تاریخ

اس بات پر بھی گواہ ہے کہ اقلیت ہوتے ہوئے یہود و نصاریٰ نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھانے کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ اپنے اپنے طرف کی بات ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عیسائی اقلیت کو ہر تحفظ میسر ہے، شہری حقوق میں برابری کی نعمت میسر ہے مگر اکثریت کے دینی تقاضوں کو پامال کرنے کی جہاں صورت

میسر آئی، یہ بھرپور استفادہ کرنے کے لئے میدان عمل میں، ہر اخلاق سے عاری و مصروف عمل پائے گئے اور یہود و ہنود نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہماری اس بات

پاکستان کی نصف صدی کی تاریخ گواہ ہے۔

مذکورہ بات، جسے سطحی نظر رکھنے والے الزام تراشی کہہ سکتے ہیں، کی تائید میں، ہم نے وطن عزیز میں مسیحی اداروں کی، سماجی اداروں کی بہروپ میں، سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے اور مسیحی سماجی ادارے "شرکت گاہ" کی سرگرمیوں میں اشتراک کرنے

لے ملکی اور غیر ملکی اداروں / تنظیموں سے، انہی کے ترجمان ”خبرنامہ“ کے ذریعے وطن کو روشناس کرایا۔ اس طویل فہرست میں یہودی اور مسیحی عالمی تنظیموں کے موجود ہیں اور اس کے علاوہ وہ بھی جو بالواسطہ ان کی سرپرستی میں پیش پیش ہیں۔ اس سماجی ادارے ”شرکت گاہ“ لاہور اور اس کے اشتراک عمل والے دیگر سماجی اداروں کا دائرہ کار بقول ان کے، ”خواتین زیر اثر مسلم قوانین“ ہے گویا عورت کے حقوق اور عورت کی آزادی دنیا کے ہر خطہ میں تو محفوظ و مامون ہے مگر شدید بین خطرات لاحق ہیں تو ان ممالک میں جہاں کسی نہ کسی پہلو اسلام اور اسلام کے رابطہ موجود ہیں۔ اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ممالک میں مسلمان خواتین کی اکثریت کو بالخصوص اور اقلیتی خواتین کو بالعموم، اسلام کے ضابطہ یات سے جو ”ممکنہ خطرات“ ہو سکتے ہیں، ان سے بچاؤ یہود و نصاریٰ اور ہنود کے ”سماجی اداروں“ کے توسط سے ہی ممکن ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی بعض دین بیزار بیگمات کو اپنی صفوں میں شامل کر رکھا ہے کہ انہیں بطور ڈھال استعمال کیا جاسکے۔

یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ آغاز اسلام سے ہی یہود و نصاریٰ اس دین کے دشمن رہے ہیں اور ہر دور میں ہر خطہ میں جو کچھ ان سے بن پڑا وہ عملاً کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہود و نصاریٰ کی تحقیق کا نقطہ عروج یہ ہے کہ مسلمان کی تعداد بھی ہمارے لئے خطرناک ہے اور اسلامی اقدار سے اس کی وابستگی تو خطرناک ترین ہے۔ دونوں مقاصد کے حصول کی خاطر مردوں پر محنت کرنا وہ نتائج نہیں دے سکتا جو ہماری منزل (مسلمان کو مغلوب رکھنا) کو قریب تر کریں اس کے برعکس اگر عورت کو ترجیح دے کر اس پر محنت کی جائے، پوری توجہ دی جائے، اسے محرومیوں کا احساس ہی نہیں یقین دلا دیا جائے، اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر اور مغرب کی چکا چوند کو حسین ترین بنا کر اس کے سامنے رکھا جائے، تو اس کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے اور منزل قریب ترین آجائے گی۔ ایک مرد کا بگاڑ صرف ایک اکالی کا

بگاڑ ہے مگر ایک عورت کی گمراہی ایک خاندان کی گمراہی ہے، لہذا عورت کے گرد گونگ سے تنگ کیا جائے، پھر یہی عورت مرد کے بگاڑ کا سبب خود ہی بن جائے گی۔
 نے ”شرکت گاہ“ کے لٹریچر سے اسی زہر کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔

کاش مسلمان عورت اپنی ان مسیحی ”محسنات“ سے سوال کر سکتی کہ

ممالک میں (ان کی سوچ اور دعویٰ کے مطابق غیر مسلم ممالک) عورت کو تمام تحفظات حاصل ہیں، وہاں جنسی تشدد، اغوا، قتل، گینگ ریپ، خود کشی کے معاملات شرح فیصد مسلم ممالک کی نسبت کیا ہے؟۔ سوڈن، ناروے اور ڈنمارک میں عورت جس ”آزادی کے مزے“ چکھتی ہے اور امریکہ میں حقوق کے علمبرداروں کی ٹاک عین نیچے نیویارک میں، چند گھنٹے بجلی بند ہونے پر، حقوق یافتہ خواتین کی کتنی تعداد۔ ”آزادی اور حق“ کا مزہ چکھا تھا، مغرب زدہ خواتین کا سر جھکانے کے لئے تو اسی جواب کافی ہے۔

آزادی و حقوق کی ضمانت ہر اکثریت و اقلیت کے لئے صرف اور صرف اسلام کے نظام عدل کے عملی نفاذ میں ہے۔ اس پر خلافت راشدہ کا 40 سالہ دور گواہ ہے۔ اگر ہمارا عقلمند ہونے کا دعویٰ محض و مجذوب کی بڑ، نہیں ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ اسی نظام کو واپس لانے اور عملاً نافذ کرنے کی کوشش کیجئے کسی کو آزادی حقوق نہ ملنے کا شکوہ ہی نہ رہے گا۔ یہ سنہرا دور تو آزمودہ ہے۔

عبدالرشید ادریس

آزادی و حقوق نسواں

لکھنے کے لئے قلم ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ اپنی فکر کے ساتھ سامنے آکھڑے ہوئے اور جو بات انہوں نے میرے کان میں کہی وہ سو فی صد درست ہے کہ تجربہ میں اکثر آتی رہتی ہے۔ یہ راز کی بات آپ بھی سن لیجئے پر ”آگے نہ کہنے گا“۔

کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب: پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش: مجبور ہیں، معذور ہیں، مردان خردمند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ: آزادی نسواں کہ زمر کا گلو بند

میرے سامنے اس وقت ایسے لٹریچر کا انبار ہے جو مسیحی سماجی ادارے ’شرکت گاہ‘ لاہور نے، ’خواتین زیر اثر مسلم قوانین‘ کے حوالہ سے 91ء سے آج تک طبع کیا اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ’خبرنامہ‘ لاکھوں کے خرچ سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پھیلا یا گیا۔ اہل وطن یقیناً ’خوش نصیب‘ ہیں کہ پاکستان کی مسیحی اقلیت کو، عالمی نصرانی اور یہودی تنظیموں کی عملی سرپرستی میں، مسلم معاشرے کی خواتین کو مسلم قوانین کے شکنجے سے نجات دلانے کے لئے، میدان عمل میں آکر اس ’کار خیر‘ کے لئے بارش کا پہلا قطرہ ثابت، رہنا پڑا۔

’خواتین زیر اثر مسلم قوانین‘ کے نعرے (سلوگن) سے یہ ’حقیقت‘ بھی

ہمارے سامنے آئی کہ دنیا کے ہر اس ملک میں، جہاں مسلم قوانین کے ’ناگ‘ نہیں

ہیں، عورت ہر طرح آزاد اپنے تمام تر حقوق سے ’فیضیاب‘ زندگی گزار رہی ہے مگر

صرف مسلم ممالک میں ہی، اقلیت و اکثریت کی تمیز کئے بغیر، عورت آزادی و حقوق

کے ناٹے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور سکندے نیوین ممالک میں تو حقوق و آزادی

کا "معیار" ہر ملک سے اونچا ہے۔

نصف صدی کا سفر یقیناً ایک طویل سفر ہوتا ہے، خصوصاً "ایک قوم کے لئے" اور اگر بصیرت اس کا ساتھ نہ چھوڑ گئی ہو تو نصف صدی پر محیط اقوام کی تاریخ کے نشیب و فراز، سیانوں کی باتوں کو پرکھنے اور مستقبل کے حوالے سے اپنی راہیں متعین کرنے کے لئے بہت لمبا عرصہ ہے۔ مفکر ملت شاعر مشرق نے تہذیب فرنگی کے حوالے سے فرمایا تھا۔

تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت: ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن: کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن: ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنرموت

تہذیب فرنگی نے عورت کو عملاً آزادی و حقوق کے نام پر جو کچھ دیا، اس کے ثمرات بد پر تو خود فرنگی معاشرہ چیخ اٹھا ہے۔ جس طرح ان کا سماجی و معاشرتی ڈھانچہ ہلا، ان کی عائلی زندگی تباہی کے وہانہ پر پہنچی وہ کھلی کتاب کی طرح ہر صاحب بصیرت کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے تہذیب یورپ کی: مگر یہ جھوٹے ٹگینوں کی طبع سازی ہے

یہ بات کہنے والا کسی مسجد کا "بنیاد پرستی" کا طعنہ زدہ مولوی نہ تھا بلکہ برسوں تہذیب یورپ کو وہاں رہ کر پرکھنے والا اعلیٰ تعلیم یافتہ بالغ النظر شخص تھا جس نے مغربی تہذیب کے لئے بہ بانگ و ہل فرمایا تھا کہ:

فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب: کہ روح اس مدینت کی رہ سکی نہ عقیف

مغربی عورت نے، جس کی اپنی "دم کٹ چکی تھی" گروو پیش بننے والی مسلم عورت کی دم کٹ کر اپنے زمرہ میں اسے شامل کرنے کے لئے آزادی و حقوق نسواں کے ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ اپنے دین کے حوالے سے ملنے والے حقوق و تحفظات کو یکسر نظر انداز کر کے وارفتہ اس کی طرف لپکی۔ اس کے لپکنے پر میں اور آپ سبھی

شاہد ہیں۔ آج تک کوئی ایک ایسی مغرب گزیدہ یا مغرب زدہ ترقی پسند اور آزادی و حقوق سے "فیضاب" خاتون متعین انداز میں ان "برکات" کو گنوا نہیں سکی، جو آزادی اور حقوق نے فی الواقع اس کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ اس کے برعکس جو کچھ اس نے گنویا ہے اس پر وہ خود بھی گواہ ہے، اقرار کرے نہ کرے، اور ہر صاحب بصیرت بھی گواہ ہے۔

انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اسلام نے عورت کو جن اعلیٰ و ارفع اقدار سے متعارف کرایا۔ جن حقوق سے اسے نوازا اور جس حقیقی آزادی سے وہ متمتع ہوئی، کوئی دوسرا معاشرہ، کوئی دوسرا دین اسے نہ دے سکا۔ یہ اس لئے ممکن ہوا کہ جس خالق نے اسے تخلیق کیا، اس کی نفسیات اور اس کی ضروریات سے وہی کماحقہ واقف ہو سکتا ہے، لہذا اس نے اس کے حقوق، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بیٹی اور بہن بلکہ لونڈی کی حیثیت میں بھی، اس کے حق میں طے کر کے، اپنی کتاب قرآن حکیم، کے ذریعے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیئے۔ کیا کسی باعزت اور شریف عورت کی ان کے علاوہ کوئی اور حیثیت بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ ترقی پسند خدا ہزار معاشروں نے آزادی اور حقوق کے نام پر عورت کو داشتہ اور بیسوا بنا کر رسوائی اس کی جھولی میں ڈالی ہے۔

بات آزادی نسواں اور حقوق نسواں کی نہیں ہے، سچی اور کھری بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے سے دینی اقدار کا سرمایہ چھیننے کی خاطر جو منصوبہ بندی یہود و نصاریٰ نے کی ہے، اور ہنود مسلم دشمنی کے سبب جس میں مددگار ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت کو ترقی کا سبز باغ دکھا کر اپنے ڈھب پر لے آیا جائے اور پھر اس گمراہ عورت کے ذریعے مردوں کی عقل پر پردہ ڈالتے ہوئے، مسلم خاندانوں کو بڑی آسانی سے تباہ کیا جائے۔ اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر، کہ بے پردہ عورتوں سے پوچھا تمہارا پردہ کدھر گیا، جواباً کہا کہ "عقل پہ مردوں کی پڑ گیا"۔ گویا اسلامی اقدار کا شکار مسلم عورت کے ذریعے۔

آزادی و حقوق نسواں کے کسی علمبردار سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا آپ نے

شعور سے قرآن و حدیث سے حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی سنجیدہ علمی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں ناکام ہو کر آپ نے یہود و نصاریٰ کے ذریعے حقوق و آزادی کے لئے اس "مقدس جہاد" میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ آٹے میں نمک کی شرح سے بھی کم آپ کو حقوق نسواں کے چیمپین ملیں گے جنہیں یہ معلوم ہو کہ قرآن میں ہر کسی کے محفوظ حق کا ذکر ہے، ہر کسی کے لئے آزادی کی حدود و قیود متعین ہیں۔ اگر کسی کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تو یہ وہی ہیں جو بصیرت سے عاری کور چشم ہیں اور تقلید مغرب میں اندھے ہو چکے ہیں۔

آزادی و حقوق نسواں کی علمبردار خواتین، غیر مسلم خواتین کی لے میں لے ملا کر جس طرح کی آزادی اور حقوق کی طلبگار ہیں، اس کے تصور سے ہی ہر ہوشمند شخص کو جسے خالق نے فطرت سلیم سے نوازا ہے، گھن آتی ہے۔ عورت اپنے آپ کو عقل کل منوانا چاہتی ہے مگر خود ہی اپنے ناقص العقل ہونے کا اٹل ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اس کے خالق نے تو عزت و احترام اور حقوق کے حوالے سے، اسے اپنے اپنے جیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں کے ناطے سے تیسرے نمبر پر رکھا اور مرد باپ ہونے کی حیثیت میں چوتھے نمبر پر آیا، اب مرد کے برابر حقوق لینے کے چکر میں عورت نمبر 3 ہونے کے اعزاز کو چھوڑ کر چوتھی چلی بیڑھی پر مرد کے برابر کھڑی ہونے پر مصر ہے۔ یہ کیسی عقلمندی ہے جس کے سبب یہ اوپر کی بیڑھی سے چلی بیڑھی پر آنے کے لئے، سڑکوں پر آنے تک کو تیار ہے کہ یہ "حقوق کی جنگ" ہے۔

مجلسی اقلیت کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آزادی و حقوق کی سعی و جہد بھی محل نظر ہے۔ موجودہ حالات میں اقلیتی خواتین جن سرگرمیوں میں عملاً ملوث ہیں وہ

مملکت کے آئین کے صریحاً خلاف ہے بلکہ نرم سے نرم الفاظ میں اکثریت کے

مذہب پر متعصبانہ حملے کے علاوہ آئین کے خلاف لوگوں (عورتوں) کو بغاوت پر آمادہ

کرنے کے مترادف ہے، جسے کوئی ملک برداشت نہیں کرتا۔ ایسی قبیح حرکات کے باوجود

گلا ہے کہ یہاں عورتوں کو آزادی نہیں، یہاں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ اسلامی

ملک میں اکثریت کے مذہب کو نشانہ تمسخر بنایا جائے اور پھر عوام الناس اور حکومت

دونوں اس کو برداشت کر لیں، کسی رد عمل کا اظہار نہ ہو اور اس پر بھی شکوہ ہو کہ عورت آزاد نہیں ہے، عورت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ کوئی عقل کا اندھا ہی کہہ سکتا ہے اور عقل سے عاری ہی اسکا یقین کر سکتا ہے۔

ریڈیو، ٹی وی اور اخبار و جرائد میں عورت کے حوالہ سے جو سماجی ثقافتی پروگرام عامتہ الناس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ باشعور مسلمان مرد و زن کی دینی حمیت و غیرت کے قائل ہیں، دینی غیرت و حمیت کیلئے چیلنج بھی ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری شدت اور محنت کے ساتھ منظم ہو کر تباہ کن ثقافتی سیلاب اور تحریری مواد پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ اگر آج ہم اپنی ذمہ داری پہچان کر میدان عمل میں نہ نکلے تو کل ہماری گمراہ اولاد محشر میں ہمارا گریبان پکڑے بارگاہ رب العزت میں ہمیں مجرم ثابت کرے گی اور اگر اولاد والدین کے خلاف مدعی ہو تو کسی دوسرے شاہد کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

عقل مند اقلیت وہ ہوتی ہے جو اکثریت کے ملکی آئین و قانون، مذہبی عقائد، رسوم و رواج اور سماجی معاشرتی اقدار کا خیال رکھے، احترام کرے اور جواباً اپنے عقائد اور رسوم کا احترام کرائے۔ بعینہ اسی طرح کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کسی بھی چھوٹے یا بڑے ملک کے اندرونی معاملات کو درہم برہم کرنے کے لئے وہاں کی اقلیت کو امداد کے نام پر خریدے یا اکثریت میں سے بعض گمراہوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لئے بطور چارہ استعمال کرے۔ یہ حرکت تو عمومی انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے۔

پاکستان میں آزادی و حقوق نسواں کی تحریک کی پشت پر بلاشک و شبہ یہود و نصاریٰ اور ہنود کی سوچ، منظم منصوبہ بندی اور سرمایہ کار فرما ہے جس کا دل چاہے تحقیق کر لے پھر تسلی ہونے کے بعد یہ چاہئے کہ وہ اپنی ہر صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس شرکار راستہ روکے اور قومی اخبارات بھی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نتیجہ ہے ہماری ان کوتاہیوں کا کہ ہم نے اپنا نظام تعلیم قرآن اور مدرسہ یعنی رحمت سے لینے کے بجائے، سب کچھ مغرب سے لیا ہے۔ شاعر مشرق نے قیام

پاکستان سے قبل ہماری راہنمائی کیلئے جو کچھ فرمایا تھا ہم نے اس سے بھی استفادہ کیا، اپنی راہیں متعین نہ کر سکے۔ انہوں نے فرمایا تھا۔

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر: لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائیگی فراغتِ تعلیم: کیا خبر تھی کہ چلا آئیگا الحاد بھی ساتھ آزادی و حقوق نسواں کے علمبردار ہمیں اگر متعین طور پر یہ بتا دیں کہ قرآن

و سنت نے عورت کو کس کس حق اور کس باوقار آزادی سے محروم کیا ہے تو ہم ان کے ممنون احسان ہونگے۔ اسلام نے جو ”حق“ سلب کیا ہے، جو آزادی ”چھینی“ ہے اسے ایک جملہ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اسلام عورت کو جسمِ فروشی کا حق نہیں دیتا، بن ٹھن کر گڑیا بن کر گھر سے نکلنے کی آزادی نہیں دیتا۔ نادان عورت اپنے جسم پر جس ”حق“ کی طلبگار ہے اور جو حقوق نسواں کے علمبرداروں کی حقیقی منزل ہے، اس حق اور آزادی پر ہر شریف آدمی کو گھن آئیگی۔

قرآن و حدیث میں کس جگہ لکھا ہے کہ عورت کے معلم، ڈاکٹر، انجینئر بننے پر پابندی ہے، اسکے گھر سے نکلنے کی آزادی سلب کی جا چکی ہے، عورت کو میک اپ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ وہ ملازمت نہیں کر سکتی۔ حقوق و آزادی کے چیمپین کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث سامنے لائیں۔ عورت کی بد نصیبی کہ اس نے اسلام کو قرآن و حدیث سے سیکھنے کے بجائے، ان ناولوں، افسانوں اور ڈراموں سے سیکھا ہے جو دین بیزار اور غیر مسلموں کے ہاتھ بکے ضمیر فروشوں کے قلم سے نکلے، جنہیں یہود و نصاریٰ نے کھلی منڈی سے خریدا ہے۔

عورت جو اس کائنات میں قیمتی متاع ہے، اپنے پاس ایک قیمتی ترین متاع رکھتی ہے، یہ گوہرِ عفت و عصمت ہے اور اسی کی حفاظت اسے کائنات میں اعلیٰ و ارفع مقام دلانے کا سبب ہے۔ خالق نے عورت کو تخلیق کیا اسمیں جبلیں رکھیں اور اسکی جبلیوں، اسکی نفسیات کے پیش نظر، اسکے گوہرِ عصمت کی حفاظت کے نقطہ نظر سے، پوری خیر خواہی کے ساتھ، قابل عمل حفاظتی تقاضے وضع کیے اور اپنی محکم، مکمل

و مدلل کتاب میں قیامت تک کیلئے انہیں محفوظ فرما دیا۔ یہ محسن کا اپنی تخلیق پر
 خصوصی احسان ہے مگر یہ کم عقل تخلیق، محسن کیلئے احسان شناسی کا جذبہ رکھنے اور
 ممنون احسان ہونے کے بجائے الٹا بغاوت پر آمادہ ہے۔ خالق کے دیئے حقوق سے
 آنکھیں بند کر کے بندوں سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔

عورت کے خالق نے اسے علم سیکھنے، علم سکھانے، ڈاکٹر انجینئر بننے کی اجازت
 دی ہے، صرف تقاضا یہ کیا کہ وہ گھر سے باوقار انداز میں باپردہ نکلے تاکہ گلی محلوں اور
 راستوں کی نگاہ بد سے محفوظ رہے، مخلوط ادارے نہ ہوں کہ یہ اخلاق کے قاتل ہیں
 معاشرتی زندگی میں ناگزیر حفاظت کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے پہلے باپ، پھر شوہر
 اور بیٹوں کو ذمہ دار بنایا اور ذمہ داری پوری نہ نبھانے کی صورت میں اسے محشر میں
 قابل مواخذہ ٹھرایا۔ عورت کو میک اپ کی اجازت ہی نہیں دی، ترغیب دی مگر اپنے
 خاوند کیلئے اور گھر کی محفوظ چار دیواری کے اندر۔ کون نہیں جانتا کہ میک اپ کر کے
 گھر سے بے پردہ نکلنے والی خواتین کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے۔ بلکہ اس
 سے بھی بڑھ کر اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ برقعہ میں لپٹی عورت جب گھر
 کی دہلیز سے باہر یہ امر مجبوری قدم رکھتی ہے، تو راہ میں ملنے والوں کی آنکھیں سر
 سے پاؤں تک اس کے محاسن کی سکریننگ کرتی ہیں۔ گلی محلوں کے کونوں پر بیٹھے
 اوباش ہوں یا دفاتر جانے والے بس سٹاپوں پر کھڑے لوگ، جنکے اپنے گھروں میں ویسی
 ہی خواتین ہوتی ہیں، کس کس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ کیا
 عورت یہ آزادی اور یہ حق چاہتی ہے کہ راستوں میں گدھ نوچیں اور کوئی اعتراض
 نہ کرے۔ دفتر میں بیٹھی ہو تو لوگ کام کے بجائے اسے دیکھیں، اسے موضوع بنائیں،
 یا یہ کہ وہ رات کو جب چاہے واپس گھر پلٹے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ معاشرتی زندگی میں
 عورت اور مرد کی بے راہ روی حقیقی مرض ہے جس سے تمام دوسرے امراض پیدا
 ہوئے اور عورت کو آزادی و حقوق کے چکر میں الجھانے کا سبب بنے۔ مرض کی
 تشخیص کے بعد، (رجوع الی اللہ۔ یعنی حقیقی معالج کی طرف رجوع کرنے کے بجائے،
 مسلم قوم کی خواتین نے "اسی عطار کے لونڈے" (مغربی تہذیب) سے رجوع کیا جس

نے انکو بیماری کی اس سیج تک پہنچایا ہے، کیا یہاں سے شفاء کی گارنٹی مل سکتی ہے؟
 آزادی و حقوق نسواں کے طلبکاروں کی یہ منطق کس قدر عجیب و مضحکہ خیز
 ہے کہ خود، دین و اخلاق عامہ سے عاری آزادی، اور دین بیزار اقدار کا حق مانگتے ہیں
 جن سے یہ مانگتے ہیں، وہ بھی انہی ہی طرح اسلام بیزار اور بے راہ رو ہیں جو انہیں
 حق نہیں دیتے، مگر گلا ہے مولوی سے کہ راستے کی رکاوٹ ہے۔ علماء نے کس سے کہ
 کہ علم حاصل نہ کرو، علماء نے کس کو منع کیا کہ معلم نہ بنو، لیڈی ڈاکٹر نہ بنو۔ علماء
 نے تو عوام الناس کو بے دینی اور بے راہ روی سے روکا کہ یہ روک، یہ سد سکندری
 عورت کی ناموس کی حفاظت اور معاشرتی سکھ اور سکون کی ضمانت ہے۔ عقل و
 بصیرت کو استعمال کیئے بغیر، اسلام اور مولوی کو آزادی نسواں کا دشمن قرار دے گیا
 ہے۔

یورپ کے مفکرین اپنے ہاں عورت کی آزادی پر شاکی ہیں، مرد و زن
 آزادانہ میل جول کو زہر ہلا مل قرار دیتے ہیں، ایک نظر پڑھ کر دیکھئے کیمرج یونیورسٹی
 کے پروفیسر ڈاکٹر جے ڈی انون کی کتاب "Sex and Culture" ذرا دیکھئے جناب کار
 لائل کی کتاب "Woman and Islam" جس میں موصوف کا کہنا ہے کہ "اسلام نے
 عورت کو جو حقوق دیئے ہیں، آج کی پوری انسانی دنیا مل کر اس کا عشر عشر بھی نہیں
 دے سکتی" برٹنڈرسل کا نقطہ نظر برائے اخلاق و شادی، جس کو اسلام مرد و زن کے
 لئے ترجیحاً بیان کرتا، انکی کتاب

"Burtrand Russll on Sex, Ethies and Marrage" میں ملاحظہ فرمائیے
 جس آزادی کے ثمرات سے یورپ کا دل بھر چکا ہے، وہ زہر اب مسلم خواتین
 کو حقوق کے حسیں جام میں پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلم معاشرہ تباہ کیا جا
 سکے۔ حقیقی آزادی اور تمام تر حقوق تو صرف اور صرف قرآنی معاشرہ ہی سے مکمل
 ضمانت کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ایسی ضمانت جس میں مرد و زن ہر طرح خوش و خرم، ہر
 طرح کے حقوق و آزادی سے متمتع، خوشحال زندگی گذاریں اور عورت کی عزت و
 عصمت بھی محفوظ رہے۔

اقلیتوں کا اسلامی سماجی اداروں کے روپ میں اسلام دشمنی

ایک مسلمان ملک میں، غیر مسلم، سماجی ادارے مستحکم کر کے، اکثریت کے دین کے مسلمہ امور کا تمسخر اڑائیں، انکی مسلمہ اقدار پر بیٹھ چلائیں تو یہ شرمناک قسم کی ڈھٹائی ہے اور اہل وطن اس پر ٹس سے مس نہ ہوں، دین کی حفاظت کے دعوایدار منقار زیر پر رہیں، تو یہ بے حسی اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے اور یہ دونوں باتیں مسلمہ حقیقت ہیں۔ پاکستان مسلم اکثریت کا ملک ہے۔ جہاں غیر مسلم اقلیت پوری آزادی اور تحفظ کے مزے لوٹتی ہیں، مگر اس انتہائی رواداری سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر ہمہ وقت اور ہمہ جہت مصروف عمل پائی جاتی ہیں یہ محنت خواہ تعلیم بالغاں مراکز کی آڑ میں ہو یا سماجی اداروں کے قیام اور انکے ذریعے سرگرمیوں کی تشبیر کے نام پر، اور سرپرستی ہے یورپی ممالک کی۔

وطن عزیز میں مقامی آبادی کیلئے اپنے وسائل سے سماجی ادارے چلانا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ جو چاہے سروے کر کے ہماری بات کی تائید حاصل کر لے مگر غیر ملکی آقاؤں کی سرپرستی اور مالی معاونت سے چلنے والے سماجی ادارے جس طرح زرکثیر خرچ کرتے ہیں اسکا تصور بھی عام پاکستانی کیلئے محال ہے اور جس طرح یہ اسلامی دینی اقدار کے بچے ادھیڑتے ہیں، اسکا بھی کسی کو حقیقی ادراک نصیب نہیں کہ اہل وطن اپنے اپنے خول میں بند، اپنے اپنے حصار میں قید اور اپنی اپنی آرزوں کے بھنور میں پریشاں حال، زندگی کی گاڑی کھینچنے کی مصیبت میں مبتلا ہیں، دین دار ہوں، سیاسی ہوں یا سماج کے سرخیل، کسی کو فرصت نہیں کہ مستقبل کی نسل کو تباہ کرنے کی اس کو شش، کا جائزہ لے، اپنی آنکھیں کھولے اور قوم کو آنکھ کھولنے کے لئے کہے۔

پاکستان میں بے شمار غیر مسلم تنظیمیں سماجی خدمت کے نام پر مصروف کار ہیں اور پاکستان کے انتہائی اہمیت کے حامل شمالی علاقہ جات میں اربوں، کھربوں روپے صرف کرنے والے اسماعیلی بھی ہیں جو وہاں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے عوام کو برگشتہ کرنے میں مصروف ہیں اور بد قسمتی سے انہیں سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اس حقیقت کو جو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے ایک ہفتہ بلتستان میں کھلی آنکھوں اور

کھلے کانوں سے گزار آئے۔ (عرصہ ہوا جب ہفت روزہ تکبیر نے بھی اسکا نوٹس لیا اس وقت ہم صرف لاہور میں رجسٹرڈ ایک سماجی ادارے ”شکرگاہ“ کا جائزہ اس کے سرکاری ترجمان ”خبرنامہ“ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام کے حوالے سے یہ ادارہ ملت مسلمہ کو کیا دے رہا ہے۔ اس سماجی ادارے کا سارا کام ”خواتین زیر اثر مسلم قوانین“ کے نعرہ کے حوالے سے ہے۔ نمونہ مشقے از خوارینت۔

کیوں تیری گواہی آدمی ہے؟

”محبوب خدا خود جس سے کے جنت ہے تیرے قدموں کے تلے اے عقل کے اندھو! سوچو ذرا کیا اسکی گواہی آدمی ہے جس روز پکارے جاؤ گے تم نام سے اپنی ماؤں کے اس روز انہیں بھی حکم دینا“ جا تیری گواہی آدمی ہے = موتی علم و دانش کے یہ حدیثیں رحمت عالم کی کیوں تم کو یقین ہے ان پہ اگر عائشہؓ کی گواہی آدمی ہے قرآن میں مگر یوں ہی ہوتا خود ☆ شیر خدا کیوں نہ کہتا قصاص نہیں میں لے سکتا“ نائلہ کی گواہی آدمی ہے

” (ریحانہ توفیق کی نظم سے صرف چند اشعار، بحوالہ خبرنامہ، جلد اول شمارہ اول 1990ء صفحہ 20) ☆ حضرت علیؓ

”ہم حیران ہیں کہ ملاؤں کا اسلام عورتوں کے ساتھ شروع اور ختم کیوں ہوتا ہے“ یہی ایک مسئلہ ہے۔ جس میں ان کا ذہن ہر وقت الجھا رہتا ہے باقی تمام معاشرتی اور معاشی مسائل ان کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔“

”ضیاء کے نافذ کردہ پہلے نام نہاد اسلامی قانون‘ حدود آرڈیننس‘ نے ایک پدرانہ (Parochial) معاشرے میں عورتوں کی حیثیت اور مقام کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔“ (مذکورہ شمارہ صفحہ 4 کالم 1)

”جز قرآن کی روح کے خلاف ہے جو کہتا ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں۔ (لا اکراہ فی الدین)

در اصل قرآن عورتوں کی حفاظت کیلئے (سورۃ النور 30-31-24) پہلے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اگر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے اور اپنی حرمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کچھ مردوں نے اس ذمہ داری کا لحاظ نہیں کیا بلکہ عورتوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پردے اور علیحدگی کو کسی نہ کسی شکل میں قبول کر لیں۔ عورتوں کو مردوں کی نفسانی خواہشات میں کمی اور ان کے ذاتی کنٹرول کھونے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے“


(خبرنامہ جلد 4 شمارہ 1 92ء صفحہ 23 کالم 1 پیرہ 20 اور 4)

”خبرنامہ“ نے ”پیش کئے گئے مذکورہ اقتباسات میں“ اسلام کی جس طرح خبر لی ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، اس پر کسی تبصرہ سے پہلے ہم آپ کے رو برو خبرنامہ ہی سے ان کے اپنے اس موقف کی تائید میں کارٹون بھی پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ مکمل تصویر آپ دیکھ سکیں۔ یہ کارٹون کسی تبصرہ کے محتاج نہیں ہیں۔



پاکستان اسلامی فرنٹ کے رہنما قاضی حسین احمد عورتوں کے لئے برابری کے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کارٹون بنانے والوں کو یہ توف نہیں بنا سکے۔

☆ خبرنامہ 1993ء جلد 5 شمارہ 2 ص 9





عوائق زیر اثر مسام قوانین

Women living under muslim laws
النساء في ظل الترتبات الإسلامية
Femmes sous lois musulmanes

شکرکت گاہ

International solidarity network
Reseau International de solidarite

ردایت پندی کو چیلنج

خبرنامہ 1992ء، جلد 4، شمارہ 3، صفحہ 11



بقول لاء منسردودت و قہاس
کے قوانین پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔

فتویٰ

قانونی اصلاحات کے لئے ایکشن

خبرنامہ 1994ء، جلد 6، شمارہ 1، صفحہ 5



☆ خبرنامہ 1992ء، جلد 4، شمارہ 3، صفحہ 7



☆ قرآن میں پردہ کے حکم کا سنو

☆ خبرنامہ 1992ء، جلد 4، شمارہ 2، صفحہ 32



☆ خبرنامہ 1995ء، جلد 7

☆ شمارہ 2، صفحہ 11

☆ ایلیٹ 'ہلال' (اسلام کی علامت) کو اپنے گہرے میں لے کر مائل پڑھیں

عورت کی نصف گواہی اور قرآن

(ترجمہ) "اور اگر وہ" جس پر حق عائد ہوتا ہو، نادان یا ضعیف ہو یا لکھوانہ سکتا ہو، تو جو اس کا دلی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوادے اور اس پر اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ ٹھہرائے، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں سہی، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں۔ دو عورتیں اس لئے کہ اگر ایک بھول جائے کی تو دوسری یاد دلا دے گی۔" (ترجمہ آیت نمبر 282 متعلقہ حصہ) (مدبر القرآن)

(تفسیر) "اگر مذکورہ صفات کے دو مرد میسر نہ آسکیں (عادل بالغ، امانتدار، پسندیدہ اخلاق اور اچھی شہرت والے) تو اسکے لئے ایک مرد اور دو عورتوں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ دو عورتوں کی شرط اس لئے ہے کہ اگر ایک سے کسی لغزش کا صدور ہو گا تو دوسری کی تذکیر و تنبیہ سے اس کا سدباب ہو سکے گا۔ یہ فرق عورت کی تحقیر کے پہلو سے نہیں ہے بلکہ اس کی مزاجی خصوصیات اور اس کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے ہے کہ یہ ذمہ داری اس کے لئے ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کے اٹھانے میں اس کے لئے سہارے کا بھی انتظام فرمادیا۔" (مدبر القرآن - مولانا امین احسن اصلاحی، صفحہ 641 - تفسیر آیت 282)

عورت کی گواہی اور فرمان نبویؐ

"حضور ﷺ نے فرمایا: اے عورت تو اصدقہ اور بکفرت استغفار کرتی رہو، میں نے دیکھا ہے کہ جنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤ گی۔ ایک عورت نے پوچھا، حضور یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت زیادہ بھیجا کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل و دین کی کمی کے مردوں کی عقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ حضور ہم میں دین کی اور عقل کی کمی کیسے ہے؟ فرمایا عقل کی کمی تو اس سے ظاہر ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض (ونفاس) میں نہ نماز ہے نہ روزہ۔" (صحیح مسلم بحوالہ ابن کثیر صفحہ 34 تفسیر آیت 282)

عورت کی گواہی اور حضرت علیؑ کی رائے

"حضرت علیؑ سے منقول روایتیں اس امر پر متفق ہیں کہ

(ا) "آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طلاق، نکاح، حدود اور خون کے معاملات (قصاص) میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے" (عبدالرزاق جلد ہشتم ص 511، لعلی جلد ہفتم ص 397، کنز العمال 17794)

(ب) "اگر گواہی مالی معاملات میں ہو تو شرط یہ ہے کہ ہر مرد کے بجائے دو عورتیں ہوں" (العلیٰ نمبر ص 399)

(بحوالہ فقہ حضرت علیؑ، مرتبہ ڈاکٹر محمد رواس قلعبی، ص 47-48)

یحانہ توفیق نے عورت کی آدمی گواہی پر قرآن و حدیث اور فقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے جو ٹھوس دلائل اپنی نظم میں آزادی و حقوق نسواں کے لبکاروں کے سامنے رکھے ہیں ان پر قرآن حکیم، فرمان رسالت ﷺ اور فقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناقابل تردید شواہد ہم بھی آپ کے سامنے لائے ہیں خود سوازنہ کر لیجئے کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟؟ کیا یہ دھوکہ دہی تو نہیں ہے!

عورت کی آدمی گواہی کا فلسفہ

یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا خالق 'صناع اور موجد اس کی کارکردگی کے تعین پر' اپنی رائے کیلئے فاضل اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے کہ آغاز تخلیق سے تکمیل اور کارکردگی کی جملہ جزئیات سے وہی پوری طرح باخبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات بھی حرف آخر کے طور تسلیم نہیں کی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ وزن کسی کو ملے تو اسے ماہرانہ رائے کا نام دیا جاتا ہے۔ اتھارٹی صرف ایک ہی تسلیم کی جاتی ہے۔

خالق کائنات اس پوری کائنات کا اور بالخصوص حضرت انسان کا تخلیق کنندہ ہے اور اس انسان کی تخلیق میں مرد و زن اگرچہ ایک ہی طرز کے مراحل سے گزرتے، حکم مادر میں ایک ہی طرز کی خوراک لیکر، بلکہ ولادت سے لہ تک بھی ایک ہی طرح کی خوراک سے نشوونما پا کر زندہ رہتے ہیں مگر جسمانی طور پر داخلی اور خارجی تبدیلی انہیں مختلف نوعیت کے امور کی انجام دہی کیلئے مختص رکھتی ہے۔

مرد و زن کی الگ الگ خصوصیت اور صلاحیتوں میں استعمال کے کمال کو خالق سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا لہذا اگر خالق نے اپنی ہر شبہ سے ہلا تر کتاب ہدایت میں 'بطور فاضل اتھارٹی' یہ فرمایا کہ عورت کی گواہی میں ایک مرد اور ایک دوسری عورت کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو اس میں تعجب کس بات پر! نبی رحمت صلی

اللہ علیہ وسلم نے (مسلم شریف کی روایت کے مطابق) مزید تشریح فرمادی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے برحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مبہم فرامین کان میں پڑنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والا شک میں رہے یا انہیں قابل عمل نہ سمجھے تو اسے اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔

عورت کی آدھی گواہی اور طب

اوپر ہم عورت کی گواہی اور قرآن کے حوالے سے ایک تفسیری اقتباس پیش کر چکے ہیں۔ جسمیں سے ایک جملہ بطور یادداشت درج کر کے، طبی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مفسر محترم نے فرمایا ”یہ فرق عورت کی تحقیر کے پہلو سے نہیں ہے بلکہ اسکی مزاجی خصوصیات اور اسکے حالات و مشاغل کے لحاظ سے ہے کہ یہ ذمہ داری اس کے لئے ایک بھاری ذمہ داری ہے“ اب ملاحظہ فرمائیے کہ طبی تحقیق کے حقائق کی نشاندہی کرتی ہے۔

عورت کے بالغ ہونے کے ساتھ ہی ہر ماہ کی معین اور متعین تاریخوں میں (مکمل صحت مند ہونے کی صورت میں) ورنہ جس میں جس قدر صحت کا فقدان ہو اسی قدر ایام حیض آگے پیچھے ہوتے رہیں گے (حیض کا خون جاری ہونے کے دوران اس کے جسم میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔

- ☆ جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے
- ☆ خون کا دباؤ کم ہونے کے سبب نبض بھی اپنی عمومی رفتار کی نسبت سست پڑ جاتی ہے
- ☆ جسم کے اندر مختلف جگہوں پر موجود کلیٹوں کی پہلی قدرتی ساخت میں تغیر رونما ہوتا ہے

اور یہ صورت جسم کے باقی نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے

- ☆ نظام ہضم اور جسم کے اندر مختلف نمکیات یا دوسرے مادوں کی عمل پذیری کا نظام بھی اس دوران متاثر ہوتا ہے

- ☆ سانس، اعصاب اور پٹھوں کا نظام سست پڑ جاتا ہے اور عورت کو آدھی عمل سے محروم کر دیتا ہے

عورت کے جسم میں ہونے والی اس ماہانہ ٹوٹ پھوٹ پر غور کیجئے اور سوچئے کہ اس مجبوری کے ساتھ جو اس کے خالق نے اعلیٰ و ارفع تولیدی مقاصد کیلئے ناگزیر طور پر طے کر رکھی ہے، وہ کس قدر نارمل ہوتی ہے اور کس قدر ایثار مل رہتی ہے۔ لہذا ایسے حالات میں جو ہر عورت کیلئے یقیناً مختلف ہوتے ہیں، اگر اسی کی سہولت کیلئے گواہی جیسی اہم ذمہ داری کی خاطر ایک دوسری عورت کا ساتھ ہونا خود خالق ہی طے کر دے تو اس پر ناک بھوں چڑانا یا حق تلفی اور بے عزتی کے درجہ تک اسے لے جانا کہاں کی عقلمندی ہے۔ ماہرانہ آمل ملاحظہ فرمائے :-

”ڈاکٹر کریگر نے جنسی عورتوں کا مطالعہ کیا ان میں آدمی ایسی تھی جن کو ایام ماہواری میں بد ہنسی کی شکایت ہو جاتی ہے اور آخری دنوں میں قبض ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر سب ہارڈ کا بیان ہے کہ ایسی عورتیں بہت کم مشاہدہ میں آئیں، جسکو زمانہ حیض میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو، بیشتر ایسی دیکھی گئیں جنہیں سردرد، تھکان، زیر ناف درد اور تھوک کی کمی لاحق تھی۔ طبیعت میں چڑچاپن پیدا ہو جاتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے“ (پرہہ صفحہ 88-187)

”ڈاکٹر کرافٹ ایک کا کہنا ہے کہ ”عام حالات میں جو خواتین نرم مزاج، سلیقہ شعار اور خوش خلق ہوتی ہیں، ماہواری شروع ہوتے ہی بدل جاتی ہیں، پھر وہ بہت جھگڑالو اور چڑچی ہو جاتی ہیں، نوکر، بچے اور شوہر بھی ان سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ عورتوں سے اکثر جرائم زمانہ حیض میں سر نہ ہوتے ہیں“ (عورت - صفحہ 50-49)

”ڈاکٹر ڈائن برگ کا کہنا ہے کہ ”مشاہدات کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ خودکشی میں ملوث خواتین میں سے آدمی نے حالت حیض میں خودکشی کی ہے“ (عورت: صفحہ 50)

مساوات مرد و زن

مسیحی سماجی ادارے کے ترجمان نے مساوات کو بھی ذریعہ استہزا بنایا ہے جس کا ثبوت پہلے دو کارٹون ہیں۔ عورت خود اپنے وجود کے اندر ہونے والی مسلسل ٹوٹ پھوٹ پر گواہ ہے اور بخوبی جانتی ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں ہمہ جہت، ہمہ وقت ایک جیسی قوت کار اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے سے عاری ہے مگر پھر بھی اپنے غیر حقیقی مطالبے پر مصر ہے کہ ہر میدان میں اس کو برابر کا درجہ دیا جائے۔

عورت کا حقیقی مقام

خالق، جس نے عورت کو تخلیق کیا، اس نے عورت کے مقام و مرتبہ کو مرد

کے مقابلہ میں فوقیت دی ہے جس کا ادراک عورت کر ہی نہیں پاگی۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں 'خالق کائنات ہونے کے ناطے' سب سے پہلا حق خود خالق ہے 'دوسرا حق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مذکورہ دونوں حقوق کے برابر تیسرا حق جس ہستی کا متعین فرمایا وہ عورت ہے ماں کے روپ میں اور چوتھے نمبر مرد ہے باپ کے روپ میں۔ اس حقیقت کی موجودگی میں کیا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ بقول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عورت کم عقل ہے۔ کہ تیسرے مرتبہ نے نیچے گر کر چوتھے درجے پر مرد کے برابر آنا چاہتی ہے۔ یہ عورت ہی تو ہے جنت جبر کے قدموں تلے ہے اور یہ وجہ سکون ہے تعاون کیلئے۔ عورت بلاشبہ مساوی حقوق شہریت کی حقدار ہے اور اسلام سے بڑھ کر کس معاشرے نے اسے یہ عزت دی ہے یورپی اور دوسرے لادین معاشروں نے تو اسے منڈی کا مال بنا کر رکھ دیا ہے جس تاریخ کے ادراک گواہ ہیں۔ عقل و شعور رکھنے والے کھلی آنکھوں سے گرد و پیش اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ڈھکا پھمپا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی بدنام ہے صرف اس لئے کہ وہ مرد و زن کو ان کے مقام و مرتبہ اور مقصد حیات سے آگاہ رکھتا ہے۔ اپنے محسنوں کو طنز کر تیروں سے چھلنی کرنے والے کبھی عقلمند نہیں کہلاتے۔

جبر قرآن کی روح کے خلاف

اسلام اور قرآن کو سمجھنے والے بہت سے مسلمان بھی قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی آیت 'لا اکواہ لی اللین' 'دین میں جبر نہیں ہے' سے انتہائی غیر حقیقی استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین (کے تقاضوں کی تکمیل کیلئے) میں کوئی جبر نہیں ہے، رہے غیر مسلم تو دین کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنا ان کی زندگیوں نصب العین ہے لہذا اگر مسیحی سماجی ادارے شرکت گاہ کا ترجمان "خبرنامہ" یہ کہے کہ "جبر قرآن کی روح کے خلاف ہے" تو بات سمجھ میں آتی ہے۔

"دین میں جبر نہیں" کا حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں آنے کیلئے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، نہ جبر کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاسکتا۔ مگر یہ بھی حقیقت

ہے کہ بہ رضا و رغبت دین قبول کر کے وائزہ اسلام میں آنے والے اگر اس دائرہ سے نکلیں تو مرتد ہونے کے ناطے واجب القتل ٹھہرتے ہیں اور وائزہ اسلام میں رہتے ہوئے بد عملی کا مظاہرہ کریں مثلاً "دین کی تعلیم کے خلاف زنا میں ملوث ہوں" شراب پیئیں یا چوری کا ارتکاب کریں تو دین کے تقاضے اسے سیدھا کرنے کیلئے حد جاری کریں گے" "دین میں جبر نہیں" کا نعرو انہیں تحفظ فراہم نہیں کرے گا۔ اسلام جبراً کسی کو مطیع نہیں کرتا مگر رضا و رغبت مطیع سے بہ جبر عمل ضرور کراتا ہے۔

پردہ کے لئے عورت پر جبر

اوپر جبر کا ذکر پردہ کے حوالے سے کرتے ہوئے "خبر نامہ" نے یہ کہا کہ "در اصل قرآن عورتوں کی حفاظت کیلئے پہلے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اگر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہئے اور اپنی حرمت کی حفاظت کرنی چاہیے" (بحوالہ سورۃ نور) اس اقتباس سے یکطرفہ طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ عورت کی حفاظت کیلئے مرد کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے مگر عورت ہر طرح آزاد ہے۔ یہ مرد ہیں جو عورت کو مجبور کر رہے ہیں کہ پردے اور علیحدگی کو کسی نہ کسی شکل میں قبول کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت چھپانے کی یہ بدترین کوشش ہے۔

عورت کیلئے پردہ کا فیصلہ عورت کے خالق نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور یہ اسے مشقت میں ڈالنے کیلئے نہیں بلکہ اسے تحفظ فراہم کرنے کیلئے ہے کہ خالق سے بڑھ کر اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے جسکا ہر حکم ہر فیصلہ حکمت سے خالی ہو۔ پردہ کے حکم کے قرآنی الفاظ پر ذرا توجہ دی جائے تو ہر بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :-

"مومنو کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ طریقہ ان کیلئے پاکیزہ ہے بے شک اللہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مگر جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اڑھنوں کے ہکل مار کر لپیٹ لیا کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے

اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے یا اپنے تعلق کی عورتوں کے سامنے، یا اپنے مملوکوں کے سامنے یا ایسے زیر کفالت مردوں کے سامنے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں، یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پس پردہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ انکی مخفی زینت ظاہر ہو اور اے ایمان والو! سب ملکر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ (النور 31-30)

”اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکالیا کریں۔ یہ اس بات کے قرین ہے کہ ان کا امتیاز ہو جائے، پس انکو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔“ (احزاب-59)

پردہ کے ضمن میں شرکت گاہ کے خیر نامہ نے جو ڈنڈی ماری ہے، وہ ہر طرح

قابل مذمت ہے۔ آپ آغاز میں درج کی گئی عبارت، جو بقول انکے سورۃ نور کی آیت کا ترجمہ ہے، اور سورۃ نور و سورۃ احزاب سے پردہ کیلئے خالق و مالک کی حقیقی ہدایت کا موازنہ کر کے خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ گمراہی پھیلانے میں اس ادارے کا کس قدر حصہ ہے۔ سیاق و سباق سے الگ کر کے قرآنی آیت کا ترجمہ عامۃ الناس کے سامنے اپنی مطلب براری کیلئے رکھنا کسی طرح بھی سادگی نہیں بلکہ واضح عیاری ہے۔

پردہ اور معاشرتی زندگی

روز مرہ زندگی میں عمومی و طیرہ، جو ہر کسی کے تجربہ میں آتا ہے، یہ ہے کہ کوئی کسی کو بھلی بات کہے جس پر عمل سے فائدہ پہنچے، تو ایسی بات کہنے والے کو محسن کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف بات کہنے والا محسن کش کہلواتا ہے جو معاشرتی سطح پر گالی سے کسی طرح کم نہیں سمجھا جاتا۔ محسن کش کو ہر کوئی بے عقل کہتا ہے۔ روز مرہ زندگی میں بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔

یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی وزنی سمجھی جاتی ہے کہ سربراہ خانہ، باپ، خاندان کا محسن ہوتا ہے، خصوصاً اولاد کیلئے، کہ وسائل رزق وغیرہ مہیا کرتا ہے، خاندان کی آسائش کا خیال رکھتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے جو ممکن ہو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جس طرح باغ کیلئے مالی محسن ہے، اسی طرح خالق کائنات، اپنی مخلوق کا محسن ہے کہ

س نے زندگی دی، صحت و تندرستی دی، صلاحیتوں سے نوازا، معاشرتی زندگی گزارنے کیلئے دور قریب کے رشتے دئے، عملی زندگی کا مکمل ڈھانچہ فراہم کیا، عملی زندگی کے لئے اور سکون کی خاطر ہمہ جہت راہنمائی کیلئے کتاب اور عملی ترتیب کیلئے صاحب کتاب سے نوازا، غرض پیدائش کی ابتدا سے لحد تک ہر قدم پر مطلوب سامان زیست و ہدایت کا سامان فراہم کر کے وہ محسنوں کی فہرست میں پہلے پر نمبر آیا، دنیا کا ہر انسان اس کے بعد ہے۔ اب اگر کوئی اس محسن کی خیر خواہی کو ٹھکرائے تو اس کے بے عقل اور محسن کش ہونے میں کیا شبہ ہے؟

انسان اس قدر کمزور و لاچار ہے کہ اسے اپنے اگلے لمحہ کی حقیقی خبر نہیں ہے، ملی زندگی میں قدم قدم پر اسکی بے بسی دیدنی ہے۔ اس کمزور انسان، مرد و زن، کو اس نے معاشرتی زندگی میں تحفظات فراہم کرنے کیلئے خود احکامات جاری فرمائے، قوانین کا مجموعہ بنایا کہ میرا بندہ (مرد و زن) سکھ چین سے زندگی گزارے۔ وہ چونکہ خود انسان کا تخلیق کنندہ ہے، اس میں خیر و شر کے مادہ سے پوری طرح باخبر ہے اس لئے خوبیوں اور کمزوریوں کو نظر میں رکھتے ہوئے انتہائی خیر خواہی سے جو ہدایت اس نے مرد و زن کو دی، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری خیر خواہی ممکن ہی نہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ خیر خواہی کسی کو قبول نہیں تو اس سے بڑھ کر بے عقل بھی کوئی نہیں ہے۔

عورت کا اس معاشرے میں جو مقام خود خالق نے مقرر کر دیا ہے اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، کہ خالق اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا تیسرا مرتبہ ہے۔ اب اگر عورت خود اس مقام سے نیچے آنے پر مصر ہے تو کوئی بھی اسے نظر انداز نہ کرے گا۔ عورت بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، یا بیٹی ہر حالت میں اسے اس کے پیدا کرنے والے نے بہترین تحفظ فراہم کیا ہے اور اس کا حکم اپنی محکم کتاب، قرآن میں درج فرما دیا۔ بد قسمتی تو یہ ہے کہ مسلم عورت نے قرآن سے حقوق کا تحفظ لینے کی بجائے مغربی لادینیت زدہ معاشرے سے تلاش کرنا شروع کیا ہے۔ جب کہ مغرب کے دانشور کار لائل اپنی کتاب Woman and Islam میں یہ کہ رہے ہیں کہ ”اسلام نے عورت کو جس آزادی اور جن حقوق سے نوازا ہے، وہ انسانیت کی فلاح و

ثابت ہو سکتی ہیں اور ان پابندیوں میں کوئی معمولی سے معمولی جز بھی غیر حکیمانہ نہیں ہے۔

اگر کوئی عورت یا مرد اپنے شعوری اسلام اور اپنے دعویٰ ایمان میں کھرا ہے تو اسے اس بات کی چنداں جاحت نہیں ہے کہ خالق کے ہر حکم کی حکمت لازماً اسکی سمجھ میں آئے اور پھر عمل کیا جائے۔ اس کیلئے تو یہی کافی ہے کہ یہ خالق کا حکم ہے یہ قرآن حکیم میں درج ہے، یہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا سر تسلیم خم ہے۔ سوچا جائے تو انسانی فہم و فراست کی، خالق کی فہم و فراست کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو کل نامعلوم تھا آج معلوم ہے اور جو آج نامعلوم ہے، آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کل آنے والے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیگا، کہ اسلام جامد دین نہیں ہے بلکہ ہمہ پہلو متحرک دین ہے اور انسانی زندگی سے ہر لمحہ عمدہ برابر ہو سکتا۔

پردہ پر جن لوگوں نے، مکمل پاسداری کے ساتھ عمل کیا، ہماری مراد (عرب کے انتہائی بگڑے معاشرے نے قبول اسلام کے بعد) خلافت راشدہ کا چالیس سالہ دور ہے، اس کے مقابلے میں تاریخ انسانی سے کوئی ایک مثال لائیے، جسمیں عورت کو ویسا تحفظ نصیب ہوا ہو، جس میں معاشرتی اور سماجی اقدار کو استحکام ملا ہو، جسمیں ملکی معیشت کو استحکام میسر آیا ہو، جسمیں عورت کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ بالعکس تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ عورت کو ہر دور میں معاشرتی سطح پر پاؤں کی بہبود کیلئے اتنے کافی ہیں کہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ اس کا عشرِ عشر بھی عورت کو نہ دے سکا۔ کارلائل کی بات کو ماضی اور حال کی تاریخ کی کسوٹی پر جو چاہے پرکھ لے۔

انسانی معاشرے کی سب سے قیمتی چیز (King Pin) عورت ہے اور اس کے پاس سب سے قیمتی چیز، عفت و عصمت ہے۔ اس گوہر نایاب کی حفاظت کیلئے اس کے پرورش کنندہ، رب العالمین نے، جو اس کے معاشرے کے افراد کی ہمہ جہت نفسیاتی کیفیات سے، تخلیق کنندہ ہونے کے ناطے، پوری طرح باخبر ہے، پردہ کے احکامات اور مخلوط میل جول پر پابندیاں عائد کیں، جو صحت مند سماجی ڈھانچے کی ضمانت

جوتی، گناہوں کی پوٹ اور بیسوا بنایا گیا۔ اس حوالے سے یورپ کو دیکھ لیں، ہندوستان کو دیکھ لیں یا کسی دوسرے ملک کی تاریخ پڑھ لیں۔

”طعنہ“ ہماری معاشرتی زندگی میں چونکہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے اس لئے ”بنیاد پرستی“ اور ”رجعت پسندی“ وغیرہ کے طعنے سے بچنے کی خاطر اور اس لئے بھی کہ آج کا مسلمان قرآن و سنت کی حتمی تعلیم کے مقابلہ میں، ہر لمحہ نئی تحقیق کو زیادہ وزن دیتا ہے، ہم یہاں صرف ایک یورپی محقق اور دانشور کی فاضلانہ تحقیق کا ثمرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قوانین فطرت کی روشنی میں قرآن کی تعلیم اور اس تحقیق کو پرکھ لیجئے، ماڈرن ازم کا بخار امارنے کے لئے یہی کافی ہے، بشرطیکہ فہم و بصیرت ہمیں تنہا نہ چھوڑ گئے ہوں۔

”انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نہیں ملتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچ گئی ہو، جس کی لڑکیوں کی پرورش اور تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو جس میں مرد و زن مخلوط رہے ہوں۔ تاریخ عالم میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی ہو۔ اس کے برعکس صرف وہی اقوام تہذیب کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ سکی ہیں جنہوں نے مخلوط میل جول پر پابندی عائد کی۔“

”کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو، اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی، اس بات کا انحصار صرف ان حالات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں مرد اور عورت کے میل جول کے لئے کس قسم کے ضوابط مرتب اور نافذ کر رکھے تھے۔“

”اگر کسی قوم کی تاریخ آپ دیکھیں کہ کس وقت اس کی تمدنی سطح بلند تھی یا پست نہ تھی، تحقیق سے معلوم ہو گا کہ اس قوم نے اپنے مرد و زن کے تعلقات میں کیا تبدیلی کی تھی جس کے نتیجے میں اس کی تمدنی سطح میں بلندی تھی یا پستی۔“

(Sex and Culture - Page 340 Prof: J.D. Unwin, C.U)

قرآنی تعلیمات اور جدید تحقیق کے باوجود ہم عقل کے انتہائی اندھا پن کا شکار ہیں کہ غیر مسلم قوتیں ہمیں ہماری اقدار سے دور لے جا کر کالا ”کھوکھلا کر کے اپنی بالادستی کے لئے کوشاں ہیں۔ ہم بلا سوچے سمجھے ان کا نوالہ تر بنے ہوئے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جے ڈی انون نے جو کچھ کہا وہی علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ان سے پہلے فرما چکے تھے۔

بڑھ جاتا ہے جب ذق نظر اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں انکار پر اگندہ و اہتر

یا یہ کہ :-

تمذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت : ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن : کہتے ہیں اسی علم کو ارباب و فاموت

پردہ کے عنوان پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر ہم یہاں اختصار سے مسیحی سماجی

اداروں کی جانب سے اسلامی اقدار کے جائزہ کے ضمن میں اشارات پر اکتفا کرتے

پر مجبور ہیں کہ یہ مقالہ کسی طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پردہ پر طعن کرنے والے یا

تو مسلمانوں کے ناموں کے بھیس میں غیر مسلم ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے

لئے ہر حربہ سے پاکستانی عورت کو گمراہ کر رہے ہیں یا کالے انگریز ہیں جو وطن عزیز میں

سفید انگریز کی باقیات میں سے ہیں 'ورنہ مسلمان کھلوانے والا مرد ہو یا عورت' عمل

میں کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو 'اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین

سے روگردانی کا تصور تک کرتے کانپ اٹھتا ہے۔ شاعر مشرق کے اس شعر پر اس بحث

کو ختم کرتے ہیں کہ :-

"یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو : مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں"

شرکت گاہ کے خبرنامہ کی مزید ہرزہ سرائی

مسیحی سماجی ادارے "شرکت گاہ" کی برسوں پر پھیلی "علمی و سماجی کاوش"

جائزہ چند صفحات میں ناممکن ہے اس لئے اختصار کے ساتھ 'اقلیت کا اکثریت کے دیر

پر حملہ آور ہونا ثابت کرنے کے لئے، "خبرنامہ" کے مختلف شماروں سے وہ سرخیار

پیش کرتے ہیں جو مسلمہ اسلامی اقدار کا مذاق اڑاتی ہیں اور ان سرخیوں سے پتہ

کارٹوں کی زبان میں طنز کے چند اور تیر بھی ملاحظہ فرمائیے، جو ہماری آنکھیں کھو-

کے لئے کافی ہیں۔ مسلمان ملک میں اس حد تک اسلام کا تسخر اڑانے والی بیسیا

اب بھی اس امر پر شاکہ ہیں کہ انہیں آزادی حاصل نہیں ہے اور اگر ان کی مطلوب

آزادی انہیں میسر آگئی تو نہ جانے گاڑی کہاں رکے گی۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ا

کی مطلوبہ آزادی کی تکمیل کا دن وہ ہو گا جب مسلمان عورت ان کے مذموم مقاصد کے لئے مکمل طور پر ان کی آلہ کار ہوگی اور انہیں یقین آجائے گا کہ ہم نے جس قدر مسلمان عورتوں کو گمراہ کیا ہے، دراصل اتنے خاندانوں کی تباہی کی ہم نے ضمانت لے لی ہے کہ ایک عورت ایک گمراہ ہے، ایک خاندان ہے

گمراہ کن سرخیاں: بحوالہ اسلامائزیشن:

☆ "سچی راہنمائے شریعت بل کو رد کر دیا"۔ (انتہائی شرمناک اور اشتعال انگیز)

"شریعت بل پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کریمین نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل ایم جوزف

فرانس نے کہا ہے کہ یہ بل انسان دوست حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک اخباری

بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بننے کے وقت واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ مذہب کا

مملکت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو گا" (خبرنامہ، جلد 4، شمارہ 2، 1992ء، صفحہ 4)

☆ "وفاقی شرعی عدالت کے رباء پر فیصلے کے پریشان کن مضمرات"۔ (صفحہ 7)

☆ "ربا پر کوئی اجماع نہیں ہوا"۔ (صفحہ 7)

☆ "ناچ کا تائبند"۔ (خواتین کے اداروں میں موسیقی ناچ گانے والے کلچرل پروگرام سے

بچا جائے) (صفحہ 18)

☆ "پاکستان ٹیلی ویژن کی سنسرشپ پالیسی"۔ سنسرشپ پالیسی کے ایک نئے ہدایت نامے کے

تحت عورتوں کو "اپنے سر موڑنے یا ہلانے سے منع کر دیا گیا ہے، جسم کے تمام بچ و خم کو

دوپٹے سے ڈھانکنے اور عورت ماڈلوں کو فیہ ضروری اہارنے سے اجتناب کرنے کا کہا گیا"۔

(صفحہ 19)

"جھوٹے مذہبی ہتھیار کا دوبارہ استعمال"۔ نام نہاد اسلامائزیشن کے ہمہ سین یہ دلیل دیتے ہیں

کہ ایک مسلم اکثریتی ملک کو لازمی طور پر شریعت کے مطابق چلایا جانا چاہیے اور کچھ بھی ہو

یہی وہ مقصد تھا جس کے لئے پاکستان وجود میں آیا تھا بہت سے عالموں نے پہلے مفروضے پر بحث

کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام کوئی ٹکی آئین یا طرز حکومت نہیں رہتا صرف اس

بات کی نصیحت کرتا ہے کہ ایمان والے باہمی مشورے سے معاملات طے کریں۔ مزید یہ کہ

اسلام جبراً لاگو نہیں کیا جاسکتا" (خبرنامہ، جلد 4، شمارہ 3، 1992ء، صفحہ 10)۔

"نام نہاد توہین رسالت کے قانون نے جس طرح مذہبی جنونیت کی شیطانی لہر کو بے لگام کیا ہے

اس کا ثبوت مذہب کے نام پر بہایا جانے والا مزید خون ہے"۔ (خبرنامہ، جلد 3، شمارہ 3، صفحہ 3)

(1994ء)۔

"وزیر اعظم بے نظیر نے مولانا فضل الرحمن کے مطالبات تسلیم نہ کرنے پر سکھ کا سانس لیا

ہے" (صفحہ 8)۔

سرخیوں کا مختصر جائزہ۔

مسیحی برادری کا شریعت بل رد کرنا، مسلمان اکثریت کے ملکی اور مذہبی

اصول و ضوابط کے خلاف کھلم کھلا بغاوت ہے۔ عقلمند اقلیت ہمیشہ اکثریت کے قوانین

کا احترام کرتی ہے اور کوئی بھی غیرت مند ملک، اقلیت کو اس قدر آزادی نہیں دیتا کہ وہ

اکثریت کے مذہبی معاملات کو رد یا قبول کرنے کا فیصلہ کریں۔ اقلیت کی اس دیدہ دلیری

پر گرفت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اقلیت ماورِ پدر آزاد ہے۔ یہی کچھ

وقاتی شرعی عدالت کے ضمن میں اقلیت کی اپنی حدود سے تجاوز کی عادت کے

بارے میں کہا جا سکتا ہے اور یہ قانون کی نظر میں قابل مواخذہ بھی ہے۔ شرعی

عدالت کے فیصلوں کے مضمرات پر اقلیت کی بے چینی کا سبب اور اس دلیرانہ تبصرہ کہ

آپ انکے سرپرستوں کے رویہ کی روشنی میں بخوبی جان سکتے ہیں۔

رباء (سود) پر اجماع نہیں ہو سکا، یہ بھی مجذوب کی بڑے زیادہ نہیں کہ

مسلمان کیلئے رباء کا مسئلہ ہمیشہ کیلئے، مسلمان کے رب نے اپنی محکم کتب قرآن میں

طے کر دیا۔ ہر طرح کا جلی خفی سود، اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ قیامت تک کیلئے

حرام قرار دیا گیا اور اس میں کسی بھی پہلو سے ملوث ہونے کو اللہ اور رسول کے


خلاف جنگ قرار دیا گیا۔ قرآن کے فرمان پر اجماع نہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا

سکتا۔ اس سووی کاروبار میں ملوث مسلمان گناہ کبیرہ کے مرتکب قرار پاتے ہیں اگر کوئی

مسلمان سود کو حلال کرے تو وہ اپنے ایمان کی فکر بھی کرے کہ حرام پر دلیل لانا کفر


ہے۔

اسلامائزیشن



مذہبی انتہا پسندی

ناچ گانا بند




خبرنامہ 1992ء • جلد 4 • شمارہ 2 • صفحہ 18

”مردوں کے حقوق! ان کی حفاظت کوئی بھی ہماری طرح نہیں کر سکتا“

خبرنامہ 1993ء • جلد 5 • شمارہ 2 • صفحہ اول



ظالم مسلمان مرد (سولوی) عورت کو زنجیر میں جکڑ کر رکھتا ہے جبکہ
عالمی صلیب عورت کی آزادی و حقوق اور انصاف کی ضامن ہے۔
(گول دائرہ دراصل گلوب ہے)



خبرنامہ 1995ء • جلد 5

شمارہ 4 • صفحہ 18

ناچ گانا بند قرآن و حدیث سے ناچ گانے کے حرام ثابت ہونے کے بعد اسے اپنانا مسلمان کے ایمان کی ضد ہے۔ ایمان اور جانتے بوجھتے نافرمانی ساتھ نہیں نبھ سکتے۔ قوموں کے استحکام میں ناچ گانا ہمیشہ گمن ثابت ہوا ہے کہ ناچ گانے والی قوم کبھی عروج و استحکام کی منزل نہ پاسکی، افراد کو صاحب کردار نہ بنا سکی جب کہ قوم کا حقیقی سرمایہ صاحب کردار افراد ہی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مسیحی محقق پروفیسر ڈاکٹر جے ڈی انون کی فاضلانہ رائے ہم پیش کر چکے ہیں۔

اسلام کوئی ملکی آئین یا طرز حکومت نہیں دیتا یہ بات کوئی عقل کا

اندھا ہی کہہ سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کا کم و بیش چالیس سالہ دور حکومت، پوری انسانی تاریخ کا درخشندہ باب ہے، جسکے مقابلے میں کار حکومت چلانے کیلئے قواعد و ضوابط آج تک کوئی قوم سامنے نہیں لاسکی۔ قرآن حکیم اور فرامین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا، خواہ یہ مسجد سے متعلق ہو، معیشت یا سیاست سے متعلق ہو یا سماجی اور معاشرتی تعلقات و معاملات سے واسطہ رکھنے والا ہو بلکہ اس سے بھی برہ کر نجی خاندانی زندگی پر تعلیمات تک کے لئے مفصل ہدایات موجود ہیں جو کسی مخصوص دور تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہر دور کیلئے تابندہ ہیں۔

سچی راہنماؤں کا شریعت بل مسترد کرنا ہو یا انکی یہ ورید دہنی ہو کہ پاکستان کے بننے کے وقت واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ مذہب کا مملکت سے کوئی تعلق نہ ہو گا، حقیقت سے کس قدر بعید ہے، ثابت کرنے کے لئے ہم آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کے صدقہ اقوال رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آئین پاکستان، قرارداد مقاصد اور شریعت ایکٹ 1991ء کی وہ دفعات پیش کرتے ہیں جنکا تعلق مملکت کے دین، شہریوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کے تحفظات سے ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس بات کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آزادی و حقوق کے نام پر مسلمان عورت کو گمراہ کرنے کی خاطر واویلا کیا جائے۔

قائد اعظم اور پاکستان

”اس قوم کو ایک جداگانہ گھر کی ضرورت ہے۔ ان دس کروڑ مسلمانوں کو جو اپنی تمدنی معاشرتی صلاحیتوں کو اسلامی خطوط پر ترقی دینا چاہتے ہیں ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے (قرارداد لاہور 23 مارچ حیات قائد اعظم چودھری سردار محمد خان عزیز صفحہ

(226)

”مسلمان غلامی کو خدا کا عذاب سمجھتا ہے۔ مسلمان اور غلام دو متضاد چیزیں ہیں ایک آزاد اسلامی سلطنت کے بغیر اسلام کا تصور ہی باطل ہے۔ مسلمان کے نزدیک صحیح آزادی کا تصور یہ ہے کہ وہ ایسی اسلامی حکومت کو معرض وجود میں لائے جو قرآن کریم کے ضابطہ خداوندی کی شکل ہو۔۔۔۔۔ مسلمان کے نزدیک ہر وہ نظام حکومت باطل ہے جو کسی انسان کا وضع کردہ ہو کیونکہ اسکے پاس ایک محکم دستور ہے جو اسکی ہر موقع اور ہر زمانہ میں راہنمائی کر سکتا ہے“ (بحوالہ مذکورہ صفحہ 252)

سوال = مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟

جواب = (قائد اعظم) ”جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضیکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو قرآنی تعلیمات کے احاطہ سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لئے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔“

(اگست 1941ء مسلمانوں نوجوانان سے حیدر آباد کن میں سوال و جواب کی نشست حیات

قائد اعظم چوہدری سردار محمد خان عزیز۔ صفحہ 255)

”پاکستان کی بنیادنی الحقیقت اس وقت پڑ چکی تھی جب اس برصغیر کے پہلے غیر مسلم

نے اسلام قبول کیا تھا“

(قائد اعظم محمد علی جناح سالانہ اجلاس مسلم لیگ لاہور 1940ء)

(بحوالہ قیام پاکستان میں مولانا مودودی کا فکری حصہ سید نظر زیدی۔ صفحہ 8)

آئین 1973ء

دفعہ 2: اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا۔

تعارف

(الف) قرار داد مقاصد میں دئے گئے اصولوں اور شقوں کو دستور کا موثر حصہ بنا دیا گیا ہے اور یہ اسی طرح لاگو ہوں گی۔

دفعہ 4: ہر شہری خواہ وہ کسی جگہ بھی ہو، کو قانون کی حفاظت کے دائرے میں رہنے اور قانونی سلوک کے مستحق ہونے کا حق ہے اور یہ حق ناقابل انتقال ہے۔

دفعہ 5: (1) ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔

(2) ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو یا وقتی طور پر مقیم ہو، آئین و قانون کا بنیادی طور پر پابند ہے۔

بنیادی حقوق

دفعہ 1- حق زندگی اور آزادی:

”دستور کے آرٹیکل نمبر 9 کے مطابق پاکستان کے شہریوں کو آزادی اور زندگی کا تحفظ بہم پہنچایا گیا ہے۔ انسانی زندگی انہی دو عناصر زندگی اور آزادی سے مرکب ہے اور کسی بھی فرد کو ان دونوں نعمتوں سے محروم نہیں کیا جاسکتا سوائے ایسی صورت کے جسکی دستور اجازت دیتا ہو۔“

دفعہ 5- تحفظ و وقار

”موجودہ دستور کے مطابق پاکستان کے شہریوں کے وقار کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ لیکن یہ تحفظ صرف قانون کے دائرے میں حاصل ہوگا۔ اسی طرح یہ افراد کو ذاتی اور گھریلو زندگی میں بھی حاصل ہوگا۔“

دفعہ 12- ”قانون“ امن عامہ اور اخلاقی حدود کے اندر ہر شخص کو کسی بھی مذہب پر کاربند ہونے اور اسکی ترویج کا حق حاصل ہوگا اسی طرح ہر مذہب فریے کو اپنی عبادت گاہیں بنانے اور انکی حفاظت کا حق حاصل ہوگا۔“

دفعہ 17 - ”پاکستان کے آئین نے تمام شہریوں کو یکساں درجہ دے کر تمام امتیازات ختم کر دیئے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 25 نے جنسی امتیازات بھی ختم کر دیا ہے اور عورتوں مردوں کو بحیثیت شہری یکساں درجہ دیا ہے۔“

پالیسی کے اصول

دفعہ 3- تعصبات کا انسداد

”حکومت گروہی، نسلی، مذہبی اور قبائلی تعصبات کے انسداد کے لئے جدوجہد کرتی رہیگی۔“

دفعہ 4- خواتین کے حقوق

”حکومت اس بات کا اہتمام کرے گی کہ خواتین قومی زندگی میں بھرپور حصہ لیں۔“

دفعہ 6- اقلیتوں کا تحفظ

”حکومت اقلیتوں کے جائز حقوق کی حفاظت اور اسکی مناسب نمائندگی کا اہتمام کرے گی۔“

(آئین پاکستان۔ ڈاکٹر صفدر محمود، صفحات 58-43)

قرار و مقاصد

”جسکی رو سے جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں کو، جس طرح اسلام نے انکی تشریح کی ہے، پورے طور پر ملحوظ رکھا جائیگا۔“ (پیرہ-4)

”جسکی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائیگا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مستقنیات کے مطابق، جس طرح قرآن و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، ترتیب دے سکیں۔“ (پیرہ-5)

”جسکی رو سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائیگا کہ اقلیت آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں پر عقیدہ رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں۔“ (پیرہ-6)

بحوالہ آئین پاکستان۔ ڈاکٹر مندر محمود
(ضمیمہ-4 آرٹیکل-2 الف، صفحہ-175)

شریعت بل کا متن

”اور ہر گاہ کہ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا جا چکا ہے اور اس طرح تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت کے احکام پر عمل کریں تاکہ انکی زندگیاں مکمل طور پر خدائی قوانین کے تحت آجائیں۔“ (پیرہ-2)

”اور ہر گاہ کہ قرار و مقاصد کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مستقل جزو کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور ہر گاہ کہ اسلامی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی عزت، زندگی، آزادی، جائیداد اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرے اور یقینی بنائے اور اسلامی نظام عدل کے ذریعے تمام عوام کو سستا اور جلد انصاف فراہم کرے۔“ (پیرہ-3)

”اور ہر گاہ کہ اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسلامی اقدار کی بنیاد پر سامتی نظام قائم

کرنے کا حکم دیتا ہے۔“ (پیرہ-4)

شریعت ایکٹ 1991ء

2- اس ایکٹ کو نفاذ شریعت ایکٹ مجریہ 1991ء کا نام دیا گیا ہے۔

3- اس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوگا۔

5- اس ایکٹ کا کوئی جزو غیر مسلموں کے پرسنل لائڈ بھی آزادی، روایات، رسوم و رواج اور طرز زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔

9- ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی اقدار کا فروغ

1- حکومت ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے سلسلے میں ضروری اقدامات کرے گی۔

2- شریعت کے خلاف توہین آمیز مواد، جیسے لٹریچر کی ترقیب دی گئی ہو، کی اشاعت پر مکمل پابندی ہوگی۔

10- ہر شہری کی جان و مال اور شخص آزادی کی ضمانت

”پاکستان کے ہر شہری کے جان و مال عزت، حقوق اور آزادی کے تحفظ کی خاطر حکومت قانونی اور انتظامی اقدامات کرے گی۔“

دفعہ 20- عورتوں کے حقوق اثر انداز نہیں ہونگے
 اس ایکٹ میں شامل کسی بھی جزو کے باوجود آئین کے تحت عورتوں کو دیئے جانے والے کوئی بھی حقوق اثر
 انداز نہیں ہونگے۔

(آئین پاکستان ڈاکٹر مندر محمود صلی 189-193)



تولیدی حقوق پر "خواتین زیر اثر مسلم قوانین" کا موقف

خبرنامہ 1994ء • جلد 6 • شماره 2 • صفحہ 26

عورت نہ کہ بچہ پیدا کرنے کی مشین

عورت کی آزادی اور اسلامائزیشن کے حوالے سے مذکورہ کارٹون، جو فحاشی کے زمرہ میں بھی آتا ہے، قابل توجہ ہے۔ عورت کو اس میں مادر پدر آزاد جھوٹا دکھایا گیا ہے۔ اور یہی غالباً "آزادی و حقوق نسواں کے علمبرداروں کی منزل ہے۔ کارٹون کے نیچے تحریر ہے "عورت ہے یا بچے پیدا کرنے کی مشین" گویا عورت کسی اور معرّف کے لئے تھی مگر اسے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیا گیا ہے۔ ہم بصد احترام، حوا کی بیٹیوں سے، جنہیں یہ حقیقت ناگوار گذرتی ہے، سوال کرتے ہیں کہ پھر عورت کا مقصد تخلیق ہے کیا؟

عورت کے خالق نے تو مرد اور عورت کا مقصد تخلیق یوں بیان فرمایا اور اسے خلافت ارضی کے لئے اشرف المخلوقات کے مرتبہ پر فائز کیا۔

1- وانقلدوبك للملكة التي جعل لي الارض خليفته (البقرہ-10)

"اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (پر) اپنا نائب (میرے احکام کو ٹیک ٹیک نافذ کرنے والا) بنا جا رہا ہوں۔"

2- يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتو الله الذي تستلون به ولا رحام (النساء-1)

"اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کو جوڑہ بنا یا اور ان دونوں میں سے امت سے مرد عورت پھیلانے۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ملتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔"

قرآن کا فرمان چونکہ 'رجعت پسندی' ہے اور مغربی تہذیب کے دلدادہ یا امیر مسلمان مرد و زن، قرآن کے حوالہ سے بات کرتے یا بات سنتے شرماتے ہیں، اس لئے ہم جدید سائنسی و طبی تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو عورت کے مقصد حیات کی تکمیل پر روشنی ڈالتی ہے۔

"عورت کے لئے دفاعی تولیدی جو اہمیت رکھتے ہیں ان کا ابھی تک پورا شعور پیدا نہیں ہوا ہے اس دیکھنے کی انجام دہی عورت کی معیاری تکمیل کے لئے ناگزیر ہے پس یہ اطمینان حاصل ہے کہ عورتوں کو تولید اور زندگی سے برگشتہ کیا جائے۔"

("Man the unknown" by Dr. Alixis Carrel, Nohale Prize Winner)

"جذبہ جنسی آخر کس چیز کا نماز ہے اور کس مقصد کے حصول کے لئے ہے یہ بات کہ اس کا تعلق انفرادی فعل سے ہے بالکل واضح ہے۔ بالائی کا علم اس مسئلے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے یہ ایک ثابت شدہ حیاتیاتی قانون ہے کہ جسم کا ہر عضو اپنا خاص دیکھنا انجام دیتا ہے اور اس کام کی تکمیل چاہتا ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کیا ہے نیز اگر اسے اپنے اس کام سے روک دیا جائے تو لازماً الجھنیں اور مشکلات

پیدا ہوں گی۔ عورت کے جسم کا بڑا حصہ بنایا ہی گیا ہے استقرار حمل اور تولید کے لئے۔ اگر عورت کو اپنے جسمانی اور ذہنی نظام کا یہ فطری تقاضا پورا کرنے سے روک دیا جائے گا تو وہ اضمحلال اور شکلی کا شکار ہو جائے گی اس کے برعکس ماں بن کر وہ ایک نیا حسن ایک روحانی بالیدگی پالیتی ہے جو اس کے جسمانی اضمحلال پر غالب آجاتی ہے جس سے زچگی کے باعث عورت دو چار ہوتی ہے۔

(The Psychology of sex page 17 Dr. Oswald Schwarz)

مذکورہ طبی تحقیقات کے ساتھ اس امر کو بھی شامل کر لیجئے کہ عورت کی چھاتی اور شرمگاہ کے کینسر پر تحقیق کے دوران یہ حقائق بھی سامنے آئے ہیں کہ شادی شدہ عورتوں میں دونوں قسم کے کینسر کی شرح انتہائی کم تھی جبکہ لمبی عمر تک غیر شادی شدہ خواتین یا بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانے والی عورتوں میں یہ شرح زیادہ تھی۔ اب تو محکمہ صحت نے اشتہارات اور ٹی وی اعلانات کے ذریعے عورتوں کو اپنے بچوں کو چھاتی سے دودھ پلانے کی ترغیب پر توجہ دینی شروع کی ہے جس کے دو طرفہ بہتر نتائج ہیں کہ بچے کی صحت اور قوت مدافعت معیاری اور ماں چھاتی کے کینسر کے خطرہ سے محفوظ۔ سروے نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ کلیسا کی پاکباز نٹوں میں شرمگاہ کا کینسر زیادہ پایا گیا۔ اسلام کا شادی کا فلسفہ ہمہ جہت خیر کے اثرات کا حامل ہے اور بے شمار قسم کی شر اور بیماریوں سے حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ اسی طرح ایڈز کے لئے بھی اب جائز قربت کی ترجیح کو بار بار دہرایا جاتا ہے گویا جدید طبی تحقیق لمبا سفر طے کر کے بالآخر اسلام کی حقانیت کو بتدریج تسلیم کرتی جا رہی ہے۔ اسلام نے تو آغاز ہی سے جائز قربت کے علاوہ ہر دوسرا دروازہ بند کیا ہے۔

مسیحی، مسلمان عورت کیلئے غم خوار کیوں؟

ہماری مذکورہ بات بظاہر سچ ہے مگر ”شُرکت گاہ“ کے مذکورہ ”فرائین“ سے یقیناً تلخ نہیں ہے۔ کچھ حلقے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی عورت کی جدوجہد آزادی کو مسیحت کے ساتھ نتھی کر کے اپنے تعصب کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں بلکہ اسے ”خبر نامہ“ ہی کی زبان میں دیکھیے :-

مسلمان خواتین کے حقوق کی علمبردار تنظیمیں:

پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنے والی تنظیمیں، جن عالمی تنظیموں

کے اشتراک سے "میدان جہاد" میں برسر پیکار ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے سے یہ امر روز روشن کی طرح ہر شخص پر عیاں ہو جاتا ہے کہ ان سب تنظیموں کے سامنے ہدف کیا ہے اسے اختصار سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان ممالک کی عورتوں میں "بیداری" پیدا کر کے، انہیں غیر مسلم معاشروں کی خواتین کی سطح پر لا کر، مسلم ملت کے حصار پر کاری ضرب لگائی جائے۔ مسلم عورت اپنا مقام، اپنا مقصد حیات بھول کر ہماری راہ لگ جائیگی تو ملت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جائیگا کہ اصل سے کٹ کر کبھی کوئی بھی اپنا مقام و مرتبہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ غیر مسلم اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک عورت کو گمراہ کرنا، ایک خاندان کی گمراہی ہے اور خاندانوں کی بربادی قوم کی بربادی بنتی ہے۔

عالمی سطح کی تنظیموں کی ایک فہرست، 'خبرنامہ 92 (جلد 4 شمارہ 3، صفحہ 25) کے شکریہ کے ساتھ درج ذیل ہے۔

"افریقی ایسوسی ایشن آف ایجوکیشن فار ڈویلپمنٹ، ایفرو ایشین پیپلز سولیدیریٹی

آرگنائزیشن، امریکن ایسوسی ایشن آف جیورسٹس، امریکن ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ پرنسز، اینٹی انٹرنیشنل، اینڈین کمشن آف جیورسٹس، اینٹی سیوری انٹرنیشنل فار دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، ایسوسی ایشن آف ڈاکٹری ویمن آف دی ورلڈ، بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی، ریٹائرڈ نیشنلز، کریسمین ڈیموکریٹ انٹرنیشنل، کمیشن آف دی چرچز آن انٹرنیشنل ایفیز آف دی ورلڈ کونسل آف چرچز، کوآرڈینیٹنگ بورڈ آف جیوشن آرگنائزیشنز، ڈیفنس فار چلڈرن انٹرنیشنل موومنٹ، ڈویلپمنٹ انویشنز اینڈ نیٹ ورک، فرینڈز ورلڈ کمیٹی فار کنسلٹیشن (کوئیکرز)، ہیومن رائٹس ایڈووکیٹس، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک لائزز، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایجوکیٹرز فار ورلڈ پیپل، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار پیپل لاء، انٹرنیشنل سنٹر آف سوشیو لاجیکل پیپل اینڈ ہینٹری ریسرچ اینڈ سٹڈیز، انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹس، انٹرنیشنل کونسل آف الومنس لاء، انٹرنیشنل کونسل آف جیوش ویمن، انٹرنیشنل فیڈریشن آف یونیورسٹیز،

وین، انٹرنیشنل فیڈریشن آف ویمن ان لیگ کیریئر، انٹرنیشنل فیڈریشن آف ویمن لائزز، انٹرنیشنل فیڈریشن ٹیرے ڈی ہومز، انٹرنیشنل فیلو شپ آف ریکو نیلشن، انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہو مینٹین لاء، انٹرنیشنل لیگ فار دی رائٹس اینڈ بریشن آف پیپل، انٹرنیشنل موومنٹ فار فریڈم یونین امنگ ریسز اینڈ پیپلز، انٹرنیشنل موومنٹ فار ڈویلپمنٹ آف فریڈم آف ایجوکیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار دی ایلمینٹس آف آل فارمز آف ریٹیل ڈسکر مینٹین، انٹرنیشنل سروس فار ہومن رائٹس، لین امریکن فیڈریشن آف ایسوسی ایشن ریٹلز آف ڈس ایمنڈ ڈسٹریبیو لاء ایسوسی ایشن فار ایشیا اینڈ دی سیسیفک (ایل اے ڈبلیو اے ایس آئی اے)، میڈیکل و سمنز انٹرنیشنل ایسوسی ایشن، میکس کرشی انٹرنیشنل، سروس جسٹس اینڈ پیس ان لیشن امریکہ، یونین آف عرب جیورسٹس، و سمنز انٹرنیشنل لیگ فار پیس اینڈ فریڈم، و سمنز انٹرنیشنل زیونسٹ آرگنائزیشن، ورلڈ ایسوسی ایشن فار ورلڈ فیڈریشن، ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ اینڈ گرل سکاؤٹس، ورلڈ فیڈریشن آف میٹھوڈسٹ ویمن، ورلڈ جوشن کانگریس، ورلڈ یونین آف کیٹھولک و سمنز آرگنائزیشن، ورلڈ یونیورسٹی سروس، ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ۔

اس طویل فہرست میں اکثر مسیحی تنظیمیں ہیں یا مسیحی سرپرستی میں کام کر رہی ہیں، کچھ یہودی ہیں اور اکثر یہودی سرپرستی میں مصروف عمل ہیں۔ عقل و شعور کی معمولی سی مقدار استعمال کر کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان تنظیموں کی تک و دو برائے "خواتین زیر اثر مسلم قوانین" کی تہ میں حقیقی مقاصد کیا ہیں۔

حقوق نسواں کیلئے پاکستان میں تنظیموں کا مشترکہ ایکشن:

اس عنوان پر اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے ہم "خبرنامہ" ہی کے صفحات کو من و عن آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ اس "جہاد" میں حصہ لینے والوں کے چہرے بھی دیکھ لیں اور مطالبات کے حسن و قبح کو بھی جان لیں کہ ہم تبصرہ کر کے بنیاد پرست اور متعصب کہلوانا پسند نہیں کرتے۔

نونی اصلاحات کے لئے ایکشن (کارروائی)

پاکستان میں خواتین کی تنظیمیں کئی سال سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں جو ان کی اہلیت کو معاشرے کے دوسرے ممبران کے مکمل مقابل اور برابر ہونے کا احساس دلانے کا باعث بنے۔ ایک طرف تو ان کا مقصد نرمی سے خواتین کے حقوق میں رکاوٹوں کا اندازہ لگانا ہے اور دوسری طرف ایسے اقدامات کی تلاش ہے جو مساوات کی طرف ان کی کوشش کو تیز کر سکیں۔ اب بہت سی خواتین کی تنظیمیں، 'نسائی حقوق کی ایسوسی ایشنز اور تعمیری غیر سرکاری تنظیمیں' 'ایکشن فار لیگل ریفارمز' کے پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہیں۔

پاکستان میں بسنے والوں کے تمام گروہوں اور قبیلوں کی نمائندگی کرنے والی چاروں صوبوں میں کام کرنے والی تنظیموں نے مندرجہ ذیل مطالبات پیش کئے ہیں۔

- 1- حدود آرڈیننس کی ترمیم
 - 2- قصاص اور ریت کے قانون کی ترمیم
 - 3- قانون شہادت کی ترمیم
 - 4- تمام پرسنل لاز میں ٹھوس اصلاحات جیسا کہ مطالبات بالا میں تحریر ہے
- مطالبہ کنندہ تنظیموں کے نام یہ ہیں۔

ای جی ایس ایس لیگل ایڈیل، 'اجو کا تھیٹر' بیداری، ڈیمو کریٹک وومن ایسوسی ایشن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ہیومن رائٹس اینڈ سول لبرٹیز ٹرسٹ، ہندو ویلفیئر ایسوسی ایشن، ہندو پنچائت، ادارہ امن و انصاف، جسٹس اینڈ پیس کمیشن، نوائے خواتین، پائیلر، پنجاب وومن لائزز ایسوسی ایشن، پاکستان وومن انسٹیٹیوٹ، پاکستان مائٹرائٹی ویلفیئر آرگنائزیشن پنجاب نوجوان محاذ، پنجاب لوک رہس، پاکستان کریمین نیشنل پارٹی، ساؤتھ ایشیا پارٹرز شپ پاکستان، شرکت گاہ، سین ایبل ڈویلپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، سیوک تھیٹر، تحریک نسواں، خواتین محاذ عمل، وارنا اگنسٹ ریپ، والی، ڈبلیو۔ سی۔ اے، نیشنل عورت فاؤنڈیشن، سمیرغ۔

قانونی اصلاحات کے لئے ایکشن

..... ہائی کورٹس کے لئے بھی اسی طرح کا طریقہ اپنانا چاہیے کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور صوبائی چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ کا سینئر جج، وزیر اعلیٰ اور قائد حزب مخالف۔

6- جج صاحبان کی مدت ملازمت کی جانچ پڑتال کو یقینی بنانے کے لئے اور آئین کے

آرٹیکل 209 کے تحت ان کی معزولی ایک وسیع سپریم عدالتی کونسل کے ذریعے ہونی چاہئے۔ سپریم کورٹ کے جج کی معزولی کے لئے وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کو بحیثیت عمدہ ممبر ہونا چاہیے۔

ہائی کورٹ کے جج کی معزولی کے لئے وزیراعلیٰ اور قائد حزب مخالف کو بحیثیت عمدہ ممبر ہونا چاہیے۔

سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس صرف صدر ہی دائر کر سکتا ہے۔ اس اختیار کا استعمال بھی سپریم جوڈیشیل کونسل سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے۔

7- چیف جسٹس صاحبان کو قائم مقام گورنر مقرر نہیں کرنا چاہیے اور جج صاحبان کو چیف ایکشن کمشنر یا سیکرٹری لاء مقرر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمدے انتظامی امور میں تجربہ کے متقاضی ہیں اور عدلیہ کی آزادی کو نکل جاتے ہیں۔

8- اپیل کرنے کا حق قانون کا بنیادی اصول ہے اس لئے سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184 جزیمن کے مطابق تفویض کردہ اصل دائرہ کار کو منسوخ کر دینا چاہیے۔

9- وفاقی شرعی عدالت اور تمام خصوصی عدالتیں ختم کر دینی چاہئیں۔

10- اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ غیر سرکاری تنظیمیں معاشرے کی اجتماعی آواز کی نمائندگی کرتی ہیں اس لئے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں اور پارلیمنٹ کے مابین باقاعدہ رابطے قائم کرنے کے لئے نئی راہیں تجویز کی جائیں اور پارلیمنٹ کو ایسی کمیٹیاں بنانی چاہئیں جن کے ذریعے عورتوں کے گروپ اور اقلیتیں اپنی آواز اسمبلی میں پہنچانے کے قابل ہو سکیں۔

11- یہ بھی سفارش کی جاتی ہے کہ خواتین کی نشستیں فوراً بحال کر دی جائیں اور یہ کہ حکومت اور حزب اختلاف اس مقصد کے حصول کے لئے بغیر کسی تاخیر کے کام کا آغاز کریں۔ خواتین کو منتخب کرانے کے طریقہ کار اور معیار کو غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد۔ "ایکشن فار لیگل ریفرمز" کے مدد سے طے کرنا چاہیے۔

مزید برآں، سیاسی پارٹیوں کے ایکٹ میں ترمیم کی جانی چاہیے جس کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو حکم جاری کیا جائے کہ وہ خواتین کو بلدیاتی نمائندوں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے ایکشن کے لئے کافی تعداد میں نشستیں الاٹ کریں۔

12- ان تمام قوانین کو منسوخ کر دینا چاہیے جو خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھتے ہیں کیونکہ وہ انصاف اور مساوات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

13- پاکستان کے آئین میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کرنا چاہیے کہ خواتین اور اقلیتوں کے خلاف بلا واسطہ امتیاز اور اختلاف ختم کیا جاسکے۔

14- کافر قرار دینے کا قانون خصوصاً "سیکشن 295 سی غیر منصفانہ" مطلق العنان اور امتیازی ہے اس لئے اسے منسوخ کر دینا چاہیے۔

15- اسلامی نظریاتی کونسل پارلیمنٹ کی خود مختاری سے متصادم ہے اور اپنا قانونی استحقاق کھو بیٹھی ہے اس لئے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔

16- کوئی کمیشن یا حکومتی کمیٹی جو خواتین کے مقام یا حیثیت اور حقوق متعین کرنے کے لئے قائم کی جائے۔ کسی مذہبی پیشوا کو اس کا ہرگز ممبر نہ بنایا جائے اور اگر ایسا کیا گیا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے کمیشن یا کمیٹی کا بائیکاٹ کریں گی۔

17- خواتین کو ریاست کے تمام محکموں میں ہر سطح کے فیصلے کرنے والی کمیٹیوں میں شامل کرنا چاہیے۔

18- ایکشن فار لیگل ریفرمز اپنی سفارشات کو عملی جامہ پہنانے اور ان پر عمل درآمد کرانے کیلئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا حلف اٹھاتا ہے اس مقصد کے حصول کے لئے سلسلہ وار کام کیا جائے گا اور آئندہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔

یہ سفارشات 19 مارچ 1994ء کو اسلام آباد میں قومی کنونشن برائے یگل ریفارمنز
لئے اختیار کی گئی ہیں۔

روایت پسندی کو چیلنج



خبرنامہ 1992ء، جلد 4، شمارہ 3، صفحہ 3

عورت اپنے جسم پر جس حق اور آزادی کے لئے کوشاں ہے وہ حق اور
آزادی نہ تو اسے عزت و وقار دیتے ہیں اور نہ ہی صحت و تندرستی کی ضمانت۔ یورپ
کی عورت یہ حق لے کر رسوائی کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ مغربی معاشرہ میں عورت
کے مقام پر گہری نظر ڈال لیجئے وہاں چند ہفتے چند ماہ رہ کر خود مشاہدہ کر لیجئے۔ اس حق
نے اسے عزت و وقار سے یقیناً محروم رکھا۔ مغرب میں لباس سے نکال کر عورت کو
قدوم دیواری تصاویر، مجسموں، اخباروں اور کلیئڈروں، بلکہ بلیو فلموں میں جس طرح محو
اختلاط دکھایا جاتا ہے، کیا یہی کچھ یہاں مطلوب ہے؟ کیا یہی آزادی و حقوق کی منزل
ہے؟؟

عورت کا اپنے جسم پر حق لینے کا مطلب کردار کی عظمت سے محروم ہونے
کے مترادف ہے۔ ہر ملک میں ایسے حق سے 'فیضیاب' کوٹھے کی زینت بنی دیکھی جا
سکتی ہیں جن کے پاس 'حق' ہے، شاید پیسہ اور میک اپ بھی ہے، مگر معاشرتی عزت
مقام نام کی کوئی چیز ان کا مقدر نہیں ہے۔

پرانی اور معروف ضرب المثل ہے :-

If wealth is lost, nothing is lost;

If health is lost, something is lost; and

If character is lost everything is lost.

مذہب کا تسخیر :-

آپ نے حقوق نسواں کے نام پر 'وطن عزیز میں سماجی ادارے' 'شرکت گاہ' کی محنت اور اس تک و دو میں اشتراک اور تحفظ دینے والی ملکی اور غیر ملکی عالمی تنظیموں کے چہرے بھی دیکھ لئے اب آخر میں مذہب کی شناخت مولوی اور مسلمان کے عقیدہ پر چوٹ بھی دیکھ لیجئے۔

یہ تبصرہ ہمارے علماء کرام اور باشعور مسلمانوں کیلئے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ غیر مسلموں کے یہ مواقع ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ کاش یہ کارٹون ہمیں سنوارنے کا سبب بن سکتے۔

کراتے پر مولوی کی سروس

خبرنامہ 1994ء 6 جولائی 31

صفحہ 14





NAME: ASLAM BHATTI
 FATHER'S NAME: RASHEED BHATTI
 RELIGION: ISLAM
 DATE OF BIRTH: 10 TH FEB 62

DISTINGUISHING MARK: MOLE ON LEFT CHEEK

ADDRESS: 22, NICHOLSON ROAD, AMARKALI CHOWK LHR.

121-62-116630

جہ مذہبی تعصب کم تھا
 خواہ وہاں کی حالت
 جلد 4، شماره 4، 1992
 22-28 اکتوبر 1992

جہ مذہبی تعصب بڑھ گیا۔ طنز کے تیرے ملا خلیہ کیجیے
 1995



NAME: ASLAM BIN BHATTI
 FATHER'S NAME: BHATTI BIN BHATTI
 RELIGION: ISLAM
 SECT: SUNNI
 SUB SECT: DEOBANDI.

WOL PART: JUL GROUP (SAMI Gr)

CASTE: ARIAN

DISTINGUISHING MARK: MEHRAB ON FOREHEAD.

ADDRESS: 22, AURANGZEB ROAD, DEOBAND CHOWK LHR.

121-62-116630


بنیاد پرستی
خبرنامہ 1994ء، جلد 6، شمارہ 3، صفحہ 5



خبرنامہ 1993ء، جلد 5،
شمارہ 2، صفحہ 29



ایک نظری میں اضافہ
خبرنامہ 1992ء،
جلد 4، شمارہ 4، صفحہ 4



علماء اور باشعور مسلمانوں کیلئے لمحہ فکریہ!

غیر مسلم اسلام کے لئے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کارٹون بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ بلاشبہ جو کچھ انہوں نے کیا یا ان کے ساتھ مل کر مسلمان کھلانے والی بعض خواتین کر رہی ہیں وہ آئین پاکستان اور ملکی قوانین سے کھلم کھلا بغاوت ہے۔ مگر اس جگہ ہنسائی میں ہمارا اپنا کس قدر حصہ ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اس سے غافل نہیں کیا ہم نے ایک اللہ ایک قرآن اور ایک رسول پر ایمان کے دعویٰ کے ساتھ کبھی ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً“ کے تقاضے پورے کرنے پر توجہ دی ہے؟۔ امت کو تقسیم در تقسیم کس نے کیا ہے؟ غیر مسلموں نے یا خود ہم تقسیم ہوئے ہیں؟؟ ہم نے اپنا شیرازہ آپ بکھیرا ہے یا باہر سے کچھ دشمن آئے تھے؟؟؟

آج کسی سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں؟۔ وہ مسلمان کہنے کے بجائے یہ کہے گا کہ میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہلحدیث ہوں، یا میں شیعہ ہوں، پھر اس پر مزید ردا چڑھے گا کہ میرا تعلق فلاں گروپ سے ہے

کاش ہم اول آخر صرف اور صرف مسلمان ہوتے اور اپنی اپنی پسند کی فتنہ پر، دوسروں کے فقہی مسلک کا احترام کرتے ہوئے عمل کرتے، ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی ہوتا، ہم مسلمان بن کر اپنی قوت مجتمع رکھتے اور اللہ تعالیٰ کا ان تنصر فاللہ بنصرکم و یثبت اقدامکم کا برحق وعدہ پورا ہوتا۔

کاش ہم یہ جان سکتے کہ ہماری فروعی مذہبی چپقلش کے سبب کتنے مسلمان اسلام سے متنفر ہو کر عیسائیت کے لئے مرغوب چارہ ثابت ہوئے، کتنے گھر عیسائیت کی گود میں چلے گئے یا دیگر بے ایمان اور گمراہ صفوں میں شامل ہوئے۔ مردوں کی آئے دن بڑھتی تعداد کا اگر آپ کو شعور ہو جائے تو یہ آپ کو تزلزلانے اور بے چین کرنے کے لئے کافی ہے کہ محشر میں یہ سب آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔

کاش ہم اب بھی سمجھنے پر آمادہ ہو پاتے اور ہمارے عمل ہماری اس آمادگی پر گواہی دیتا۔ علامہ اقبالؒ فرما گئے ہیں:

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں: تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں میرے بھائی! میری بہن!! ابھی سنبھلنے کا وقت ہے۔ سنبھل جائیے قرآن کو پڑھیے اس پر عمل کیجئے، ہر حق اور ہر آزادی آپ کا مقدر ہوگی (انشاء اللہ) بشرطیکہ ہر سو شر پھیلانے والوں کی رفتار کے مقابلے میں جذبہ کے ساتھ آپ کی رفتار بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بائبل کورس کے نام پر

پھیلائی جانے والی کتاب

”توریت شریف اور انجیل شریف“

کی

صحت و حقانیت

کا

محاکمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ ○

اہدائیہ

اقلیت کی مذہبی آزادی اور حقوق شہریت ہمیشہ فرائض کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ بلور پور آزادی جو اکثریت کے مذہب اور اساسی اقدار سے متصادم ہو ہر جگہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ تخلیق پاکستان سے آج تک کا سفر اس بات کی عملی گواہی دیتا ہے کہ مسیحی اقلیت نے مسلم اکثریت کی دینی اقدار کا کبھی پاس نہیں رکھا بلکہ وہ شروع سے ہی یہاں اقلیت کو اکثریت میں بدل کر، خداوند یسوع کی حکومت قائم کرنے کے لئے کوشش ہے۔

کم و بیش 30، 35 سال قبل پنجاب یونیورسٹی کے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مسیحی سربراہ نے پاکستان کونسل آف چرچز کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے مسیحی برادری کے سامنے جو منصوبہ بندی رکھی تھی اور جو بقول اس کے، پاکستان میں آئندہ 25 سال میں خداوند یسوع مسیح کی حکومت کے قیام کا یقین بن سکتی تھی، کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ آئندہ مسیحی اپنے بچوں کے نام مسلمانوں جیسے رکھیں، مثلاً 'اعجاز کھوکھر'، 'ریحانہ توفیق' وغیرہ اور لٹریچر بھی ایسے ہی ناموں کے ساتھ مسلمانوں کے عمومی پسندیدہ شائل کے ٹائٹل اور مسلمانوں میں مقبول دینی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں لایا جائے تاکہ اس مغالطہ میں لوگ مسیحی لٹریچر پڑھیں اور مسیحی برادری کو اپنے ڈھب کے لوگ با آسانی ملتے رہیں۔

مذکورہ بات کی صداقت پرکھنے کے لئے آپ 60ء کے عشرہ کے آخر میں مسیحی کنٹرول میں چلنے والے گوجرانوہ کے مرکز تعلیم بالغان کا تیار کردہ لٹریچر دیکھ لیں یا وقتاً فوقتاً دوسرے مقامات پر تیار شدہ لٹریچر کا مواد یا اس کے ٹائٹل ملاحظہ فرمائیں بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی۔ اب برکت مسیح، نواب مسیح یا الیکٹریٹڈ اور وکٹر مسیح

بتدریج معدوم ہوتے جا رہے ہیں خود راقم الحروف کے ایک پروفیسر چودھری حبیب اللہ باجوہ تھے اور ایک شاگرد خالد جن کے متعلق بہت دیر سے معلوم ہو سکا کہ اسلام کی حقانیت سے منہ موڑ کر یہ دنیوی لالچ میں گمراہی خرید چکے ہیں۔

اس وقت ہمارے سامنے بائبل کارسپانڈنس کورس (تعلیم بذریعہ ڈاک) کے

حوالے سے چند مسیحی کتب پڑی ہیں مثلاً

- 1- "توریت شریف اور انجیل شریف کی صحت و حقانیت" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 2- "شخصیت المسیح فی الانجیل و القرآن" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 3- "اسلام اور مسیحیت میں گناہ و کفارہ" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 4- "تصلیب و قیامت مسیح" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 5- "مسیح کے بارے میں بھی کیا آپ نے کبھی سوچا" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 6- "اثمار شیریں" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 7- "مباحث الجہدین" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 8- "ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔
- 9- "A Question that Demands an Answer" دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ۔

علاوہ ازیں کچھ دو درتے ہیں جنکی طباعت بھی بڑی دیدہ زیب ہے اور جن پر کسی لکھنے والے کا نام نہیں مثلاً "آپ گناہ پر کس طرح غلبہ پا سکتے ہیں" "خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا" "ہم سچ سچ کس طرح بچ سکتے ہیں" "کیا آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں" "اے محنت اٹھانے والو"

چند سرکلر لیٹر ہیں جن میں کسی جگہ مسیحیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ ہے تو کہیں قرآن و انجیل کا موازنہ کر کے مسیحیت اور انجیل کی برتری ثابت کی گئی ہے یا سرٹیفکیٹ اور عمدہ کتابوں کی ترسیل کی خوشخبری سنائی گئی ہے ان میں سے ایک مراکے کا اقتباس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں:-

☆ "ادارہ کے تمام سرکلر لیٹرز کو بے حد احتیاط سے پڑھیں تاکہ آپ حالات کی نزاکت کے پیش نظر ہر خطرہ سے بچ کر یسوع مسیح کی بابت حقیقی صداقت کو جان سکیں ایمان لا

کر ابدی نجات اور ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ ہر خط میں دلچسپی رکھنے والے
مسلم دوستوں کے نام ادارہ کو ارسال کیا کیجئے گا تاکہ آپکا نام رازداری میں رکھتے ہوئے
بہترے لوگوں کو بھی آفتاب صداقت کا پیغام ادارہ کی جانب سے تحفہ کے طور پر بھیجا
سکے آپکی گرفتار کوش اور دعاؤں کے لئے ادارہ ممنون ہوگا۔ اب آپ کو آداب سلام
- دعاگو۔ عبدالمسیح 11-12-95 (گڈوے سو۔ ٹرزی لینڈ) ☆

ان ذاتی خطوط میں اس دعا کی بھی تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی ”دشمن“ راستے میں پارسل
گم نہ کر دے اور انہیں سنبھال کر احتیاط سے پڑھیں کہ ”شرپنڈ مسلمان“ کے ہاتھ
لگیں۔ اس خط کے ساتھ ایک اہم سرکلر ”Islam - The False Gospal“ ”اسلام
جھوٹا دین“ بھی ہے جس میں سے ایک ہی جملہ مومن کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لئے
کافی ہے۔ جملہ یہ ہے ”کئی سالوں سے اسلام ایک جھوٹا مذہب قرار پا چکا ہے اور مسیحی
مسلمان کو واحد سچے دین عیسائیت کی طرف لانے کے لئے فکر مند ہیں۔“ یہ کہا جا رہا
ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اکثریت کے برحق دین کے لئے۔

بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا رکیے اور مذکورہ اقتباس اور سرکلر لیٹر کی دعا و احتیاط
جائزہ لیجئے ہر ”صحت و حقانیت“ کا بھرم یہیں کھل جائیگا۔

عقلند اس بات پر ہمیشہ سے اتفاق کرتے آئے ہیں کہ اگر دو افراد بات کر رہے
ہوں اور کسی تیسرے کے آنے سے یہ روک دی جائے، اگر کوئی کتاب رسالہ یا خط
کسی کے آنے پر چھپانا پڑنے تو نہ وہ بات درست ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کتاب رسالہ یا
خط کیونکہ اگر وہ نافع ہے اس میں کوئی جھوٹ یا غلاظت نہیں ہے تو چھپانا کس لئے
حق کبھی بھی چھپانے کے لئے نہیں ہوتا صرف گمراہی سطح کے نیچے سفر کرتی ہے سچائی
بیانگ دہل بیان کرتے (بقول مسیحی برادری) حضرت یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے مگر
ان کے پیروکار بننے کے خواہشمندوں کو ”دشمن“ سے محتاط رہنے کی تلقین کی جا رہی
ہے کہ ”کتب ہدایت“ چھپا کر پڑھو۔

دوسری اہم مگر تکلیف دہ بات یہ کہ ”شرپنڈ مسلمان“ اور ”دشمن“ ان
لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو گذشتہ نصف صدی سے تسلسل کے ساتھ فتنہ پھیلانے والے

مسیحی طبقے کو مسیحی بھائی کہتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے عقیدے کا تمسخر اڑانے والوں کو صبر و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں کہ یہ ان کے سچے مذہب کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ مسیحی برادری سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان دشمنوں اور شریکوں مسلمانوں کے ہاتھوں نصف صدی کے دوران کتنے لاکھ مسیحی پاکستان میں قتل ہوئے اور کتنے ہزار انجیل کے نسخے یہاں جلائے گئے اور بالعکس بوسنیا میں کتنے لاکھ تم نے قتل کئے کتنی مساجد شہید کیں، کتنی مسلمان عورتوں کی صلیب برداروں نے بے حرمتی کی اور کتنے معصوم بچے بچیوں کا خون تمہاری صلیب کے سر ہے۔ یہ کل کی بات ہے آج کی کہانی ہے کیا پاکستان کے شریکوں مسلمانوں نے، دشمنوں نے، رد عمل سے مغلوب ہو کر کسی پاکستانی مسیحی سے کوئی انتقام لیا، کوئی معرکہ سے معمولی رد عمل سامنے آیا۔ انکا سر جھکانے کے لئے یہی کافی ہے اگر ان میں غیرت اور عقل شعور ہو۔

مسیحت کی بنیاد عقیدہ تثلیث ہے اور پورے اعتقاد و یقین کے ساتھ فاضل مسیحی دوستوں سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس تورات، انجیل کی غیر محرف حیثیت ثابت کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگا ہے، ہو اس میں سے کوئی ایک آیت کوئی ایک جامع پیرہ گراف عقیدہ تثلیث کے ثبوت میں لے آو۔ حضرت مسیحی نے تو یقیناً ایسی بات نہیں فرمائی ان کے مسلمہ سچے پیروکار، جنہوں نے بلا واسطہ ان سے فیض حاصل کیا، ہماری مراد حواری برہنہاں سے ہے، نے اپنی مرتب کردہ انجیل میں عقیدہ تثلیث کا ذکر نہیں کیا تو ان کے بعد یہ عقیدہ آکھل سے گیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ محض کلیسا کے چند بڑوں کا کارنامہ ہے۔

مذکورہ لسٹ میں دی گئی کتب کا تجزیہ چونکہ ایک ضخیم کتاب کا تقاضا ہے اور کم و بیش سب کا مرکزی نقطہ بھی ایک ہی ہے لہذا ہم نے نمونہ مشتمل از خردارے، دیگ میں سے ایک چاول لیا ہے کہ وہ دیگ کے باقی چاولوں کی کیفیت بتا دیتا ہے۔ تورات انجیل کی صحت و حقانیت اگر ثابت ہو جائے تو مسیحی دوست سچے اور اگر ان کے اپنے ہی پورے اعتقاد و شواہد کے ساتھ ”صحت و حقانیت“ میں رخنہ ڈال دیں تو ہم خود یہ بدنامی کیوں مول لیں۔ لہذا ہم نے انہی کے بیانوں کا لکھنا مع حوالہ جات، جنوں کا توں، سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ رہا مسئلہ قرآن سے حقانیت کا ثبوت تو قرآن کی

آیات سے اس مطلب براری کو بھی ہم نے ثابت کیا ہے۔ آیات ربانی کی شان نزول کی اپنی تاریخ ہے، اپنی حیثیت ہے، جو معنی متعین کرنے میں مددگار ہے اس سے ہٹ کر معنی نکالنا تحقیقی بصیرت کی نفی ہے۔

ان کتابوں کے حوالہ سے، جان لینے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے بیشتر مصنف اصلی نہیں ہیں، اسلام چھوڑ کر مسیحیت کی سچائی، قبول کرنے کی کہانیاں من گھڑت ہیں اور چرب زبانی کا شاہکار بھی۔ بیشتر کتب کو عربی کتب کا ترجمہ ظاہر کیا گیا ہے۔ واقعات اس قدر پرانے بیان کئے گئے ہیں جن کی تصدیق عام "شکار" کے لئے ممکن نہ ہو اور پھر ایک فنکاری یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں معروف بڑی بڑی کتابوں کے حوالے لکھ کر انہیں گمراہ کرنے کا سامان کیا گیا ہے کہ یہ کتب ہر کسی کی دسترس میں نہیں بالخصوص اس طبقہ کے، جنہیں یہ اپنے جل میں لانا چاہتے ہیں مثلاً "بیضاوی جلالین، طبری وغیرہ۔"

اپنی بات کی تائید میں ہم اختصار کے ساتھ ایک کتاب "ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ۔ تجھ خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانیں" جو کسی سلطان محمد پال کی آپ بیتی بتائی جاتی ہے۔ کتاب کے حقوق دی گڈوے، سو۔ ٹررز لینڈ کے حق میں محفوظ ہیں۔ مختصراً "آپ بیتی یہ ہے کہ:

"میرا وطن افغانستان ہے۔ والد کا نام پائندہ خان تھا۔ امیر عبدالرہمن نے میرے خاندان کے افراد کو قتل کرایا تو ماموں کے ساتھ ہندوستان آیا۔ حسن ابدال میں مقیم ہوئے۔ میں بخارا کے لئے روانہ ہوا مگر اسلام آباد، جموں، امرت سر ہوتا ہوا دلی پہنچا اور عربی کی تکمیل کے لئے مدرسہ فتح پوری میں داخلہ لیا۔ میں نے علم فقہ، علم الحدیث اور علم التفسیر کی تکمیل کی۔ میں نے جگہ جگہ عیسائیوں سے مناظرے کئے اور ہر جگہ ان کو بھگاتا رہا۔ اس دوران درس نظامی مکمل کی میں نے عیسائی مبلغین سے مباحثوں کی تیاری کے لئے انجمن ندوۃ المسلمین بنائی اور مباحثوں کے لئے مبلغ تیار کرنے لگا۔ میں حج کے لئے شاہ نور جہاز پر جدہ گیا جہاں سے مکہ گیا مولوی حسام الدین سے ملاقات ہوئی۔ احرام باندھا اور عرفات پہنچ گیا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور خیال آیا کہ "اگر اسلام سچا مذہب نہیں ہے تو قیامت میں میری حالت کیا ہوگی" اسی وقت میں

نے خدا سے دعا مانگی کہ ”اے اللہ تو اپنا سچا مذہب اور سچا راستہ مجھے بتا اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مجھ کو اس پر قائم رکھ اور مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں اسلام کے مخالفین کا منہ بند رکھ سکوں اور اگر مسیحی مذہب سچا ہے تو تو اس کی سچائی مجھ پر ظاہر کر دے۔“

قرآن پڑھنے سے مجھے معلوم تھا کہ نجات اعمال پر موقوف ہے ”جو ذرہ بھرنیکی کا کام کریگا اس کا اجر پائیگا اور جو ذرہ بھربدی کا کام کرے گا وہ اسکی سزا پائیگا۔ میں چار چیزوں میں پھنسا ہوا تھا، شیطان، دنیا، شہوات اور لالچ۔ تمام انبیاء نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی یہاں تک نبی آخر محمد نے بھی مگر قرآن میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے اس سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر حضرت عیسیٰ بھی انسان تھے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوئے اس لئے میں نے انجیل سے رجوع کیا۔ احادیث کے مطابق نجات کی تین صورتیں ہیں۔ اولاً ”نجات اور اعمال میں کوئی تعلق نہیں، ثانیاً“ نجات خدا کے فضل و احسان پر منحصر ہے اور ثالثاً“ یہ کہ آنحضرت کسی کو بھی نہیں بچا سکتے۔ (اس سلسلے میں سلطان پال نے بعض احادیث کا سہارا لیا ہے جن میں ایک بحوالہ بخاری صفحہ 702 کرزن گزٹ دہلی ہے) (بحوالہ - ہمیشہ کی زندگی صفحہ 29)

پھر بھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت مسیح کے اس غیر معمولی دعوے پر کس طرح اعتماد کیا جائے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دعوے پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ اول تو مسلمان بھی حضرت مسیح کو بری عن الخطا کلمتہ اللہ اور روح اللہ مانتے ہیں جو آپ کی کاملیت پر دلیل ہے۔ متی کی آیت 28:20 پڑھ کر خوشی سے مجھ پر بیخودی طاری ہو گئی اور مجھے عرفات میں مانگی دعا کا جواب مل گیا پس میں نے ندوۃ المسلمین کے اجلاس میں ’ارتداد‘ کا اعلان کر دیا اور مسیحی دوستوں نے ’دشمنوں‘ سے بچانے کا اہتمام کیا“

یہ ہے اپنے ’عزیز مسلم برادران‘ کے روحانی بی خواہ سلطان محمد خان کی آپ بیتی جو اس نے نصف صدی قبل لکھی تھی اور جس کا پہلا انگریزی ترجمہ 1927ء میں شائع ہو تھا، بعد میں یہی سلطان محمد خان پادری سلطان محمد پال بنے۔ اس فرضی کہانی پر منسل تبصرہ بذات خود ایک کتاب بن جایگا، ہم یہاں صرف چند امور پر اپنے دلائل

آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے کہانی کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ ہو جائیگا۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد کے مصداق کتابچہ تضادات کا مجموعہ ہے۔

افغانستان کے پائیندہ خان کا بیٹا پال کیسے بن گیا کہ پورے افغانستان میں اس نام کا کوئی قبیلہ نہیں رہا بلکہ امر واقع یہ ہے کہ ہندوؤں کا ایک معروف قبیلہ لکمپنل تھا جس میں سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی پہچان وہی لکمپنل رہی اور پھر پڑھے لکھے لوگوں نے صرف پال اپنا لیا اس صداقت کی جسے تحقیق کرنی ہو وہ گوجرانوالہ میں قلعہ دیدار سنگھ کے گرد و نواح میں آباد اس قبیلہ کے بزرگوں سے پوچھ لے رہا مسئلہ عیسائیت کے ساتھ مباحثوں اور مناظروں کا تو یہ عنوانات آغاز سے آج تک کم و بیش وہی ہیں۔ مسیحیت کی طرف سے کسی نئی ریسرچ کے نتیجے میں کبھی نئے سوال سامنے نہیں آئے۔ قرآن و حدیث کی جس بنیاد پر فاضل درس نظامی اور صدر ندوۃ المسلمین سلطان محمد خان یا پال مسیحیوں کا منہ بند کرتے رہے کیا اس وقت وہ سب کچھ ان کے علم میں نہ تھا اور اگر واقعتاً خود ان کا کوئی وجود تھا اور واقعی نہیں جانتے تھے تو وہ نہ فاضل عربی تھے نہ فاضل درس نظامی۔ یہ بات اور بھی مضحکہ خیز بن جاتی ہے جب یہ فاضل درس نظامی، بخاری شریف جیسی حدیث کی معتبر و معروف کتاب کا حوالہ ٹارڈ کرزن گزٹ دہلی سے دیتا ہے۔ یہ کیسے سچ سے متمتع فاضل درس نظامی ہے جسے پورے قرآن میں ہر پیغمبر گنہگار نظر آتا ہے۔ سلطان پال اس دنیا میں نہیں ہیں ہم، انکی آپ بتی، پھیلانے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت پر انگلی رکھ کر بتائیں جو عصمت انبیاء کی ضد ہے خصوصاً حضرت محمد ﷺ کے گناہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اخلاق و کردار کی گراوٹ کا اس حد تک شکار ہوں گے کہ خالص جھوٹ پر اپنی صداقت کی بنیاد رکھیں گے۔

The Bible, The Quran & Science کا غیر مسلم سائنسدان اور سرجن مصنف قرآن اور بائبل کا الہامی کلام کی صحت و حقانیت کے حوالے کھلے دل و دماغ سے مطالعہ کرتا ہے تو ہدایت اسکا مقدر بنتی ہے مگر فاضل درس نظامی (اگر واقعہ "کوئی تھا) تو عرفات کی دعا کے نتیجے میں قرآن سے ہدایت نہ پاسکا اور محرف بائبل سے اسے ہدایت مل گئی۔ یوں حقائق سے بعید قہے کہانیوں سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔

یہی صورت حال ایک سرکلر لیٹر میں یسوع مسیح کی عظمت ثابت کرنے کے لئے حضرت محمد ﷺ سے انکا موازنہ کیا گیا ہے یہ سرکلر ڈلاس ٹیکساس USA سے ہے اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ﷺ کا والدہ کے بطن سے 'بن باپ اور باپ سے پیدا ہونے کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ کا غیر شادی شدہ ہونا اور حضرت محمد ﷺ کی 15 شادیوں کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ نے کبھی گناہوں کی معافی نہیں مانگی جبکہ موخر الذکر توبہ کیا کرتے تھے ' ایک کا مشن محبت تھا تو دوسرے کا جنگ ' ایک نے کسی کی موت کا حکم نہیں دیا جبکہ دوسرے نے لوگوں کو موت کی سزا سنائی۔ ایک نے روحانی حکومت قائم کی جبکہ دوسرے نے زمین پر حکومت قائم کی ' ایک 33 سال کی عمر میں صلیب پر چڑھ گیا دوسرا 63 سال بعد طبعی موت کا لقمہ بنا ' ایک (یسوع) کا ذکر قرآن میں 97 بار آیا تو دوسرے کا صرف 25 بار ' ایک نے ایک ہی شادی کا پرچار کیا دوسرے نے زیادہ شادیوں کی بات کی۔

عقل و شعور رکھنے والا کوئی بھی شخص اس موازنہ پر ایک نظر ڈالتے ہی 'دلائل کی قوت' کا قائل ہو جائیگا۔ انصاف کرنے والوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو اسکی بقیہ باتوں کا بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اور ایسے شخص کی شہادت یا گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اب مذکورہ موازنہ میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے 15 شادیاں کیں جو سراسر جھوٹ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 97 بار ہے اور حضرت محمد ﷺ کا ذکر صرف 25 بار ہے۔ یہ کوئی عقل کا اندھا ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دانش کا ساتھ نصیب ہو تو قرآن ہے ہی حضرت محمد ﷺ کے ذکر سے معمور صرف جاننے والی بصیرت کی ضرورت

ہے۔ مسیحی دانشوروں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ کا نام کتنی جگہ مذکور ہے اگر کسی الہامی کتاب میں نام کی تکرار ہی معیار ہے تو بائبل اس معیار پر کس قدر پوری اترتی ہے۔ انجیل میں یسوع اور مسیح تو صفاتی نام ہیں اور انجیل میں کسی ایک مقام پر یہ تخصیص نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ ہی یسوع اور مسیح ہیں یا یسوع اور مسیح ہی عیسیٰ ہوں گے۔ جنگی والدہ کا نام مریم ہو گا۔ کہیں یہ تصریح ہے تو دکھا دیجئے۔

میری اس کاوش کے محرک میرے فاضل و محترم دوست جناب محمد نواز جنجوعہ ہیں یہ مواد مجھے انہی کی وساطت سے ملا۔ جنجوعہ صاحب محترم اسلام کے حوالے سے دردمندی رکھتے ہیں وہ محض ایک ایڈمن آفیسر کو دیکھ کر سامنے نہیں آتی بلکہ ان کے اندر جھانک کر ہی اس کی گہرائی و گہرائی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس محنت کو آپ تک پہنچانے کے لئے میرے چھوٹے بھائی میاں عبدالطیف صاحب جوہر خیر میں میرے دست راست ہیں، کے علاوہ داسے درے سخنے مدد کرنے والے احباب خصوصاً "مدنی ٹرسٹ کراچی کا عملی تعاون شامل ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں خلوص قلب سے صرف اپنی ذات کے لئے نہیں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ہماری محنت کو قبول فرما کر آخرت کا سرمایہ بنا دے اور اسے بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے آمین۔

عبدالرشید ارشد

جوہر آباد - 6 ستمبر 96

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ وَبِہِ نَسْتَعِیْنُ ○



”توریت شریف اور انجیل شریف“

صحت و حقانیت



یوں تو عیسائیت کا پراپیگنڈا تاریخ کے ہر دور کا حصہ رہا ہے مگر پرنٹ اور رانک میڈیا نے اس کی تیزی میں جس قدر اہم رول ادا کیا ہے وہ کسی محب وطن بشعور کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ پاکستان میں مسلم عوام کے دل نرم کرنے کے اگر ایک طرف ولایتی دودھ اور گھی کا سہارا استعمال کیا گیا تو دوسری طرف تعلیمی یفیکٹ کے بہت سے بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لئے ”بائبل کورس بذریعہ خط و بت“ کے خوبصورت سرٹیفکیٹ کا انتظام ہے اور یوں ”ہدایت“ گھر گھر پہنچ رہی ہے۔ طرح گزشتہ نصف صدی سے بھی زائد عرصہ سے مدینہ منورہ کے کسی نام نہاد شیخ کا وصیت نامہ 30 نقول کی تقسیم کی ہدایت کے ساتھ بلکہ عمل نہ کرنے کی رت میں تباہی کی دھمکی کے ساتھ، عیسائی بڑی مہارت کے ساتھ مسلمان گھروں میں پارہے تھے۔

یہ حقیقت قطعاً غیر متنازعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا بنیادی سبب ہی یہ تھا کہ یا تو متعلقہ نبی کا دائرہ کار کسی مخصوص علاقہ تک محدود تھا یا اس کی امت اس کی شریعت سے منحرف زندگی گزار رہی تھی۔ انبیاء و رسل کے حوالہ سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخی حقائق اس کی تائید کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کائنات کے خالق و مالک کی طے شدہ پالیسی کے عین مطابق تھا اور یہی وجہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قبل کسی نبی کی شریعت کو مکمل و اکمل کی گارنٹی سے نہیں نوازا گیا۔

(الیوم اکملت لکم دینکم)

چونکہ ہر دور کا نبی اللہ رب العزت کا فرستادہ، اس کا محبوب و منتخب تھا اور جس جس کو اس نے کتاب شریعت سے نوازا وہ اس دور کی برحق شریعت تھی اس لئے نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کی امت کے ایمان کی تکمیل کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ ہر امتی پہلے گزرے ہر نبی اور اور ہر پہلی کتاب پر، خواہ وہ ہر نبی اور ہر کتاب کا نام نہ جانتا ہو، ایمان لائے۔ اگر امتی کسی نبی یا کسی کتاب کی نفی کرے تو ایمان کی تکمیل اسے سرٹیفکیٹ سے نہیں مل سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہر مسلمان کے ایمان کا جزو قرار پایا کہ وہ پہلی کتابوں کو تحریف شدہ تسلیم کرے اور صرف قرآن کو ہی راہنما کتاب مانے کہ یہ محفوظ ہے۔

اسلام پر ہمہ جہت حملے ہوئے مگر آج تک قرآن میں کسی معمولی سے معمولی تحریف کا الزام سامنے نہیں آسکا جسے کسی عقل و شعور والے نے ثابت کیا ہو اس کے برعکس پہلی کتب سماوی خد "سما" توریت اور انجیل کی تحریف پر تو خود عیسائیت کے بیوروں کا اتفاق ہے اور تاریخی تسلسل اس پر گواہ ہے مگر دیدہ دلیری کی انتہا کہ معصوم ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لئے آج تحقیق کے نام پر توریت اور انجیل کی 'صحت و حقانیت' ثابت کی جا رہی ہے۔

ہمارے سامنے اس وقت سویزر لینڈ سے کسی "گڈوے" (Good Way) کے طبع کردہ، خط و کتابت سکول کے کتابچوں کا ڈھیر ہے جو بذریعہ ڈاک غیر مسیحی مسلمان نوجوانوں کو ارسال کر کے، برائے نام امتحان کا ڈھونگ رچا کر، (کہ ہر کتابچے کے آخر میں عیسائیت کی طرف مائل کرنے اور اسلام سے برگشتہ کرنے والے سوالات ہیں) ایک سرٹیفکیٹ بھیجا جاتا ہے جو اس کی دم کاٹنے (اگرچہ شہ رگ کاٹنے) کے مترادف ہے کہ اسے بائبل کی حقانیت نظر آنے لگتی ہے اور حقانیت سے بھرپور قرآن پر اس کی نظر چندھیا جاتی ہے۔

مذکورہ کتابوں میں سے اس وقت ہمارے پیش نظر، 'توریت اور انجیل کی صحت و حقانیت' والا 65 صفحات کا کتابچہ ہے جس میں 'صحت و حقانیت' کو وحی کی شہادت انبیاء و رسل کی گواہی، اتصال و تواتر، قدیم ترین نسخے، قدیم مخطوطات کی شہادت، علم

آثار قدیمہ کی گواہی سے ثابت کر کے مسلم مخالفین سے ایک ناگزیر سوال پوچھا گیا ہے اور پھر آخر میں تحریف کے مسئلہ پر کچھ مسلم علماء کی آراء پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے آغاز میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ ایک عربی کتاب "عصمت التوراة والانجیل" کا ترجمہ ہے جس کے مصنف کا نام اسکندر جدید ہے۔ یہ کتاب انگریزی اور جرمن زبان میں بھی ترجمہ شدہ ہے۔ کتاب کے آخر میں یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ "ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ کے خطوط کے بھی منتظر ہیں۔ اگر آپ نے 12 جوابات صحیح دئے تو اپنی سلسلہ مطبوعات میں سے ایک کتاب ہم آپ کو بطور انعام دین گے۔"

زیر نظر کتابچے کو من و عن نقل کر کے جواب لکھنا ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی کتاب کا مواد بنتا ہے ہم نمونہ "بڑے بڑے دلائل" جج کر کے اپنے قاری کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ اس سے "صحت و حقانیت" کھل کر سامنے آجائے گی۔ انشاء

اللہ تعالیٰ

1 - "ہزاروں سال ہوئے اللہ نے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے ایک وصیت کی تھی کہ" ☆ جس بات کا میں تم کو حکم دے چکا ہوں اس میں نہ تو کچھ بدھانا اور نہ کچھ گھٹانا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ ☆ (بائبل: استثناء: 4: 2) (صحت و حقانیت صفحہ 5)

2 - "عہد عتیق میں تین ادوار و زمانے پائے جاتے ہیں: -----
اللہ آدم سے کس طرح کلام کرتا تھا یہ بات آیات بلا سے نہیں معلوم دیتی اس کے لئے انسان کو اپنی پرواز خیال پر بھروسہ کرنا پڑے گا یہ بھی یاد رہے کہ اس کتاب کی فصل اول (حضرت آدم سے موسیٰ تک) میں بیان کئے گئے واقعات میں کروڑوں سال کا درمیانی فرق ہے اسی طرح یہ بات بھی کہ بشر کے لئے اللہ کے اعلان و احکام کا آغاز کب ہوا تھا معلوم نہیں دیتی۔ -----"
(صفحہ 7، 8)

3 - "نوح بھی سچائی اور راستبازی سے بھرپور تھے۔۔۔" (صفحہ 9)

4 - "اللہ کی باتوں کو کبھی زوال نہیں"۔ شہادۃ الوحی۔ (صفحہ 13)

☆ "کتاب مقدس میں اللہ کے وعدہ اور اعلانات کی اتنی کثرت ہے

کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ زائل یا تبدیل ہو سکیں۔۔۔ میں 'خدا' اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا ☆ (زبور 34:89)۔

5 - "اتصل و تواتر - تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے علما اور آئمہ نے جو کہ رسولوں کے ہم عصر تھے (یہاں رسول سے مراد حواریوں یعنی خلفاء کے ہم عصر مراد ہیں - ارشد)۔ کلیسا۔۔۔۔۔ جن اخلاف کے سپرد تھی انہوں نے اپنے وعظ و مواہبہ، مولفات تصانیف میں کتب مقدسہ سے لئے گئے اقتباسات بھی درج کئے ہیں خاص کر انجیل شریف کے حوالے سے کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ سب اللہ کی طرف سے وحی کردہ ایسی الہامی کتب ہیں جن میں نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ کسی اور طرف سے باطل کا عمل دخل ہو سکتا ہے" (صفحہ 17، 18) (کلیسا کے بعد خالی جگہ اصل کتاب میں ہے)

6 - "قدیم نسخے - مسیحیوں نے جن ذخیروں کی۔۔۔۔۔ حفاظت کی ہے ان میں ایسے نامز بھی ہیں جن میں کتاب مقدس کے صحائف کے مخطوطات بھی ہیں۔ جن کی قدمت تاریخ اسلام سے بھی کئی صدیوں پہلے کی ہے" (صفحہ 23) (یہ خالی جگہ اصل میں بھی اسی طرح ہے)

7 - "کتاب مقدس کی صحت پر قدیم مخطوطات کی شہادت - قرمان کے مخطوطات - یرون (اصل اردن ہے) کے قریب قرمان کے غار ہیں جن میں سے ایک مکمل مخطوطہ عبرانی زبان میں - سعباہ نبی کے صحیفہ کا ملا ہے کتابت اور لغوی مفردات کی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مخطوطہ دوسری صدی قبل مسیح کا ہے۔ ہمارے درمیان جو صحیفہ اب تک رائج رہا اس میں اور اس مخطوطہ میں یکسانیت پائی جاتی ہے" (صفحہ 25)

"ڈاکٹر برائٹ ماہر آثار قدیمہ کا قول ہے، قرمان میں ملے مخطوطوں کے بل پر اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ "نیا عہد نامہ" بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ مسیح اور اس کے حواریوں، رسولوں شاگردوں اور ان مسیحیوں کی

تعلیم تھی جو کہ سابقوں الاولون کا درجہ رکھتے تھے اور جن کی تاریخ نقل و تدوین 25ء تا 80ء سے زائد نہیں ہے“ (صفحہ 27)

8- ”اسلام کی شہادت و تصدیق - یہ صحت و تصدیق کئی سورتوں میں بار بار وارد ہوئی ہے ”مثلاً“ سورۃ مائدہ آیت 44“ - یعنی بے شک ہم نے (خدا نے) تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور و روشنی بھی۔ اسی تورات کے مطابق اللہ کے فرمانبردار انبیاء یودیوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ ان کے مشائخ اور علماء بھی (ایسے ہی کرتے چلے آئے) کیونکہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر ہوئے تھے اور اس تورات کے مصدق اور گواہ بھی۔ ”مائدہ آیت 46“ - یعنی ان نبیوں کے بعد انہیں کے آثار قدیم پر ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سامنے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے اور اسے سچی کتاب بتاتے تھے اور ہم نے انہیں الانجیل عنایت کی اس میں بھی ہدایت و روشنی ہے وہ بھی اپنے سامنے کی کتاب تورات کو سچی کتاب بتاتی ہے اور خدا ترسوں کو راہ بتاتی ہے اور نصیحت دیتی ہے۔ (المائدہ 48) (صفحہ 36، 37)

”یعنی (اے محمد) ہم نے تم پر بھی سچی کتاب اتاری ہے وہ بھی اپنے سامنے موجود الکتاب کو سچا بتانے والی اور تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے اور جو کچھ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے اسی کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو اور حکم و احکام صادر کرو اور جو کچھ تمہارے پاس سچائی ہے اس سے منہ موڑ کر لوگوں کی من مانی خواہشوں کو نہ اپناؤ ہم نے تم سب کے لئے ایک شریعت و راہ اور دستور و طریقہ مقرر کر دیا ہے اگر خدا کو منظور ہوتا تو وہ سب کو ایک ہی امت و گروہ کی شکل میں قائم رکھتا لیکن چونکہ اس نے تم کو اپنی تنزیلات دے رکھی ہیں اس لئے اللہ تم کو ان کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، چنانچہ بھلائی کے کاموں کے لئے مسابقت کرو (یعنی یہ کہ سب سے پہلے کون دوڑ کر انہیں کر ڈالے) اللہ ہی کی طرف آخر کار تم سب کو لوٹنا ہے وہی تم کو ان ساری باتوں کی خبر دے گا جن کو تم نے باعث اختلاف بنا

رکھا ہے" (صفحہ 37، 38)

"یعنی (اے محمد) کہہ دو کہ اے کتاب والو جب تک تم تورات و انجیل اور تمام تنزیلات ایسے کو قائم نہ کرو تم کسی بھی بنیاد و اصل پر نہیں ہو
" (المائدہ 68) (صفحہ 39)

"سورۃ نساء آیت 136 - "یعنی اے ایمان لانے والو" ایمان رکھ کر ضروری ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس سے پیشتر نازل ہو چکی ہے۔ اب جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے اور جو نہ مانے وہ راہ سے بھٹک کر بہت دور جا پڑا ہے" (صفحہ 39)

چنانچہ آیات بلا سے یہ نتائج اخذ ہوئے ☆ قرآن شریف نے تورات و انجیل کے احکامات کو قائم و رائج کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی ہے۔ کسی قسم کی تحریف و تبدیلی سے بچے رہنے اور دونوں کتابوں کی صحت و سلامتی و اصلیت کا یہ ضمنی اعتراف ہے۔ تیسرے یہ کہ سارے ایمان کے مدعیوں کو جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، یہ حکم ہے کہ قرآن اور الکتاب تورات و انجیل سب پر ایمان رکھیں جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ☆ (صفحہ 40)

"سورۃ انعام آیت 91 - ☆ یہ سارے کے سارے وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی ہے، (اے محمد) تم بھی ان کی ہدایت و راہ کی پیروی کرو ☆ (صفحہ 40)

"سورۃ القصص آیت 49 - ☆ یعنی (اے محمد) کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کے پاس سے ان دو کتابوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی کوئی اور کتاب لا دو تو میں اسکی اتباع کرنے لگوں گا ☆ (صفحہ 41)

"سورۃ النحل آیت 43 - ☆ یعنی اور ہم (خدا) نے تم سے پہلے بھی ایسے مرد بھیجے تھے (اے محمد) جنکی طرف ہم نے وحی کی تھی اگر تم نہیں

جانتے تو ذکر والوں یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو ☆ (صفحہ 42)

(تفسیر جلالین میں لکھا ہے ”اہل ذکر علماء توریت و انجیل ہیں اگر تم نہیں جانتے تو نہ جانو وہ تو جانتے ہیں کہ تم کو اتنی زیادہ ان کی تصدیق کرنی ہے جتنا ایماندار لوگ محمد کی تصدیق کرتے ہیں) (صفحہ 42)

”ایک ناگزیر سوال - اب اس منزل پر پہنچ کر کیا ہم کتاب مقدس کے صحائف کی تحریف کے مدعیوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کون سی علمی اور تاریخی دلیل ہے جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ کس زمانے میں اور کس وقت واقع ہوئی۔ اگر جواب یہ دیتے ہیں کہ تحریف کا وقوع قبل مسیح ہوا تھا تو ہم کہیں گے کہ کتب مقدس کی صحت تو جناب مسیح تصدیق فرما چکے ہیں۔۔۔۔۔ (صفحہ 44)

ہمیں بھی ایسا (تحریف) ماننے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کب (یہ زبردستی تھوپی ہوئی تحریف) واقع ہوئی قبل قرآن یا بعد قرآن؟۔۔۔ اگر وہ یہ کہیں کہ قبل قرآن تحریف واقع ہوئی تھی تو یہ کہنا ان کو ایک ایسی مشکل اور منحصر میں ڈال دے گا جس سے ان کا نکلنا دو بھر ہو جائے گا کیوں کہ حضرت محمد کو خود قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مشکوکات سے خلاصی پانے کے لئے انہیں قارئین کتاب مقدس سے مدد لینی چاہئے۔۔۔ (دیکھئے سورۃ یونس آیت 94)

☆ یعنی اے محمد اگر کبھی تم کو کوئی شک و شبہ لاحق ہو تو تم اپنے پہلے نازل شدہ الکتاب (بائبل) کے پڑھنے والوں سے پوچھ لیا کرو۔

☆ اللہ ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس لئے یہ اس کے شایان شان نہیں کہ حضرت محمد کو ازالہ شکوک کے لئے کسی محرف اور تبدیل شدہ کتاب کے قاری اور تلاوت کرنے والوں کی طرف رجوع ہونے کا مشورہ دے۔“ (صفحہ 49)

تورات و انجیل کی صحت و حقانیت پر بات کرنے سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو

جان لینا چاہئے کہ انبیاء و رسل ہوں یا ان میں سے بعض پر نازل الہامی کتاب! اگر کوئی سپریم اتھارٹی ہے تو وہ اس کائنات اور اپنے ارضی خلیفہ (آدم اور اولاد آدم) تخلیق کنندہ ہے، یعنی چہار سو حاکمیت صرف اللہ، احسن الخالقین کی ہے، پالیسی ہے، کہ کائنات اور اسکے اندر ہر ذی روح کے آغاز سے انجام کو آخری لمحے تک اسی کے حکمت بھرے فیصلوں سے ممکن ہے۔

دھرتی پر بھیجے گئے انسان اول، حضرت آدمؑ اور ان کی ذریت قدم قدم کی محتاج ہے اور یقیناً "محتاج رہے گی۔ راہنمائی کے حقیقی تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب انسان، جس کی راہنمائی مطلوب ہے، کی فطرت، جبلتوں، سماجی و معاشی و سیاسی، اخلاقی اور عقیدہ کی اقدار کی گہرائی و گیرائی سے کسی کو مکمل نصیب ہو اور اس پر صرف خالق ہی قادر ہو سکتا ہے کہ وہ ان ابدی تقاضوں سے ہے۔

خالق نے پوری انسانیت کے لئے ایک ضابطہ حیات تشکیل دیا، ازل تک کے لئے، وہ اسلام ہے، (یعنی اس کا نام اسلام ہے)۔ ہر دور کے انسان اسلام کو پہنچانے کیلئے انہی انسانوں میں سے بندے منتخب کئے جاتے رہے اور ذریعے، ان نفوس قدسیہ کے ذریعے، اپنے بندوں تک اسلام کو عملاً پہنچایا گیا۔ فرشتوں سے اس لئے نہ لیا گیا کہ فرشتے ان تمام فطری تقاضوں اور جبلتوں کے جو حضرت انسان کا مقدر ہیں۔ انسان اپنے خالق سے گلا کر سکتا تھا کہ ہم فرشتوں کا عمل کیسے کر سکتے تھے اس لئے پاکیزہ پسندیدہ بندوں کو ہی اس کام کے لئے ہمیشہ منتخب کیا اور ان چنے گئے مصلحین - انبیاء و رسل تک بارگاہ رب العزت سے اسلام، جبریل کے ذریعے پہنچتا رہا۔

مذکورہ وضاحت یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت آدمؑ سے نبی کے الزماں ﷺ تک تمام انبیاء و رسل داعیان اسلام تھے محض ادوار کی تخصیص کے لئے یا تحریف کے سبب لوگ دین ابراہیمی یا دین عیسوی اور دین موسوی کے نام سے اسے موسوم کرتے ہیں کہ ان کے پیروان نے اسے اسلام کے بجائے من من کی تحریفات سے اس نوبت تک پہنچا دیا تھا۔ ہر آنے والے نبی نے اپنے سے پہلے انبیاء

تب کی تائید کی کہ وہ الہامی، منزل من اللہ تھیں مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ
کتب کی تائید تھی، عقل و شعور کا ماتم کرنے کے مترادف ہے۔

جیسا کہ آغاز میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے
انبیاء و رسل کو حکیمانہ تقاضوں کے ساتھ کتابوں سے نوازا ہے پہلی کتابوں کی مٹی
کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی۔ انبیاء و رسل کے اپنے اپنے علاقے
اپنی اپنی امتیں تھیں مثلاً "ایک ہی دور میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کے
ان فاصلے کا زیادہ بعد بھی نہ تھا مگر وہ اپنی اپنی امت کے راہنما تھے۔ حضرت موسیٰؑ
سردائین میں تھے تو حضرت موسیٰؑ کو حضرت ہارونؑ کی معیت میں فرعون مصر
پاس جانے کی ہدایت ہوئی۔ کسی نبی کو، سرور دو عالم ﷺ کی طرح پوری
یت کی اصلاح کے لئے مقرر نہ فرمایا گیا تھا، نہ ہی کسی پہلی کتاب کو مکمل و اکمل کا
فلیٹ ملا اور نہ ہی قیامت تک کتاب کی صحت و حقانیت کی حفاظت کی گارنٹی ملی۔

پہلے آنے والے اپنے بعد آنے والوں سے متعلق بشارت دیں اور آنے والے
حقانیت کی گواہی دیں، اسکی واضح نشانیاں بتا کر امت کو ہر لمحے سے نجات دلا دیں تو
ندامتی اپنے نبی، اپنے محسن، کے احسان سے فیضیاب ہونے کا ثبوت، اسکی بات کو
جامہ پہنا کر فراہم کرتا ہے۔ اور وہ امتی ہونے کا دعوایدار عقل و شعور سے عاری
بھا جاتا ہے جو مکمل ہٹ دھری سے اپنے نبی کے فرمان کو جھٹلائے۔ نئے آنے والے
تسلیم کرنا ہی اپنے نبی کی حقیقی تعبداری قرار پاتی ہے۔ تورات و انجیل میں تحریف
کے مسلمہ شواہد کے باوجود کئی مقامات پر حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر گواہی موجود
ہے۔ عقل سلیم رکھنے والے انہی بشارتوں کے سبب تاریکی سے نور کی طرف پلٹے ہیں
اور عقل و شعور سے عاری محسّسے رہنے کی ضد پر قائم ہیں (دیکھئے یوحنا)

"اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار
بجٹے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر
سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ
تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے" (16:17:14)

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں“ (30:14)

”لیکن جب وہ مددگار آئے گا جسکو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا“ (26:15)

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ نے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لئے مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا“ (15-12:16) (یہ ہیں انجیل یوحنا سے چند گواہیاں۔ آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے لئے۔

حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی زبان، جو اہل فلسطین کی زبان تھی آرامی اور لہجہ dialect سریانی تھا۔ لامحالہ تعلیمات مسیح علیہ السلام بھی اسی زبان میں ہوں گی مگر یہ بھی مصدقہ امر ہے کہ چاروں انجیلوں کے مرتبین وہ یونانی تھے جنہوں نے مسیحیت قبول کی اور جن کی مادری زبان یونانی تھی لہذا اصل تعلیمات کو سریانی میں ڈھالا گیا اور یہ بھی کہ انجیل میں سے کوئی بھی انجیل 70 عیسوی سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے اور انجیل یوحنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صدی بعد ایشیائے کوچک کے شہر انس میں لکھی گئی۔ انجیل کے مرتبین میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری یا شاگرد نہ تھا ماسوائے برنباں کے، آج کے عیسائی جس کا نہ نام سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ان کی مرتب کردہ انجیل کو، جو شاگرد ہوئے اور خود سماعت کلام کے حوالے سے معتبر ہونے کا ہر حق رکھتی ہے، تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔ ایک شخص نے خود سن کر لکھا ان کی زندگی میں قدم قدم ساتھ رہا ہر واقعے کا عینی شہد رہا وہ معتبر قرار پائے گا یا وہ جنہوں نے کم و بیش صدی بعد ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کیں۔

ہم یہاں ان کی محنت و اخلاص کی نفی نہیں کر رہے۔

توریت و انجیل - صحت و حقانیت:

ہم اپنی بات کا آغاز تورات و بائبل کے حوالہ سے 'اردو انسائیکلو پیڈیا - میاٹ سے کرتے ہیں پھر مصنف کے اٹھائے گئے نکات پر بات کریں گے:

”انجیل - یونانی لفظ معنی خوشخبری - کتب سلوی (توریت) زبور“

انجیل (قرآن) میں سے ایک صحیفہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اس کتاب مقدسہ کے اصلی اور ابتدائی نسخے ناپید ہیں۔ اگر ہوتے بھی تب بھی بعد نزول قرآن پاک اس کو منسوخ تصور کیا جاتا۔ اہل اسلام اسے بھی الہامی کتاب مانتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا ہے۔ انجیلیں موجودہ صورت میں چار ہیں انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا۔ ان میں سے پہلے تین کو انجیل خلاصہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں واقعات ایک ہی سلسلے کے خلاصہ جات دیئے گئے ہیں۔ برخلاف یوحنا کی انجیل کے کہ اس میں دوسری قسم کے واقعات کا بیان ہے۔ یہ انجیل صدقہ کہلاتی ہیں۔

عیسائیوں کی چرچ ہسٹری کی رو سے اور کئی انجیلیں بھی ہیں لیکن کلیسا ان کو مقدس نہیں مانتا۔ ان میں سے ایک انجیل برناباں کہی جاتی ہے جس میں نبی آخر الزماں ﷺ کا نام فار قلیط دیا گیا ہے اور جس کا ترجمہ محمد ہے۔ ان انجیلوں میں وقتاً فوقتاً تحریف ہوتی رہی ہے کیونکہ کئی جگہ سے آیتیں اڑادی گئی ہیں اور کئی فقرات کے معنی بدل کر ان کے معنی تبدیل کر دیئے گئے ہیں۔ اس قسم کی تحریفات کی وجوہ جواز یہ بیان کی جاتی ہیں کہ نئے اور زیادہ صدقہ نسخے دستیاب ہونے کے باعث موجودہ نسخوں کی تطبیق اور تصحیح لازمی ہے“ (صفحہ 135:134)

مذکورہ اقتباس ”اردو انسائیکلو پیڈیا“ فیروز سنز لاہور، تیسرا ایڈیشن، طباعت دوم 1987ء سے لیا گیا ہے اب ایک دوسرا اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

”ایٹلی ڈو کمینا۔ بائبل کے عمد نامہ جدید کی وہ کتب یا صحائف

جن کو اوائل میں مختلف فرقوں کے سرکردہ پادری مقدس نہیں مانتے تھے گو بعد میں ان کو تقدس کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صحائف عبرانی زبان میں نہیں ملتے تھے بلکہ ابتداً یونانی زبان میں تحریر کئے گئے تھے۔ ان کی تعداد بہت تھی لیکن جو صحائف مقدس تسلیم کئے گئے وہ مندرجہ ذیل ہیں:- پولوس کا مراسلہ عبرانیوں کے نام ’مقدس جہز کا مراسلہ‘ مقدس پطرس کا دوسرا مراسلہ، یوحنا کا دوسرا اور تیسرا مراسلہ، مقدس جوہی کا مراسلہ اور یوحنا کا مکاشفہ یہ تمام صحائف اب انجیل کا جزو ہیں“ (ارو اناسایکو پیڈیا۔ فیروز سنز 87ء طبع دوم صفحہ 178)

”بائبل - یونانی لفظ معنی کتب، عیسائیوں کی مقدس کتاب جس میں عمد نامہ قدیم (عتیق) کی 39 کتب، عمد نامہ جدید کی 27 کتب اور اسفار محرفہ کی 14 متنازعہ فیہ کتب شامل ہیں۔ یہود صرف عمد نامہ قدیم کو بائبل کہتے ہیں.....“ (صفحہ 191)


”توراہ - تورت وہ آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ نص قرآنی یہ ہے کہ یہودیوں نے اس میں حسب ضرورت ترمیم کر لی ہے یہی وجہ ہے کہ گو اس میں وہی قصص اور احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن شریف میں ہیں لیکن عقائد اور مسائل میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور وہ تمام باتیں جو اسلام کو سچا مذہب ثابت کرتی ہیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں۔ اس لئے جب حضور ﷺ سے توراہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کتابوں کو نہ سچ کہو نہ غلط بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ آنحضرت کے زمانے میں یہودی تورت کے مضامین کو اچھی طرح سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ان کو مطعون کیا گیا ہے کہ وہ بعض باتیں ظاہر کرتے ہیں اور بعض چھپا لیتے ہیں۔ موخر الذکر باتوں میں

حضور کے سچے پیغمبر ہونے کی بھی شہادت ہے۔ یہودیوں سے یہ بھی گیا تھا کہ
 سچے ہو تو توراہ لاؤ اور سب کے سامنے سناؤ" (اردو انسائیکلو پیڈیا۔ فیروز سنز
 ایڈیشن سوم، طبع دوم 87ء صفحہ 332)

"انجیل۔ بائبل:

"Thus it was not till the middle of the second century that the word came to signify a book and even after that till the end of the 2nd. Century it continued to bear its original meaning as well."
 (Encyclopedia Biblica, Page - 1889).

(چنانچہ دوسری صدی کے وسط تک اس لفظ نے کتب کے معنی اختیار کر
 لئے اور اس کے بعد "دوسری صدی کے اختتام تک اپنے انہی اصل معنوں
 (انجیل۔ بائبل) میں استعمال ہوتا رہا) یعنی مسیح کے 150 سال بعد یہ نام طے
 ا۔ (انسائیکلو پیڈیا۔ بلسکا صفحہ 1889)



سرمدار
 سے
 ملنے والے
 مخطوطات
 عجائب
 میں

”بائبل - تدوین توراہ:

”یہ امر متحقق ہے کہ اسفار موسیٰ کی تدوین 45 - 444ء قبل مسیح میں کی تھی“

(Chronological Index to the Bible.)

”یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عزرا نے تمام عہد عتیق کو محض حافظہ کی بنیاد پر از سر نو تحریر کیا کیونکہ ان کتابوں کے تمام نسخے تغافل شعاری کی وجہ سے معدوم ہو چکے تھے۔“ (کٹو۔ انسائیکلو پیڈیا آف بیکل لٹریچر) اسی عزرا کے حافظے پر ایک معاصر کی رائے دیکھئے :-

”تواریخ باب 4، آیت 7 کے تحت: اس جگہ غلطی سے عزرا نے بیٹے کی جگہ پوتا لکھ دیا تھا۔ ایسے اختلافات میں تطبیق بے فائدہ ہے“
(ریورنڈ آدم کلارک کی تفسیر مطبوعہ 1891ء صفحہ 1681)

”تمام مسیحی علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تورت 15 سو برس قبل مسیح لکھی گئی۔ پہلے وہ ایک جلد میں مدون ہوئی لیکن مسیحی علما کے نزدیک جب بہتر 72 علماء (کونسل) نے 284 قبل مسیح تورت کو عبرانی سے یونانی میں منتقل کیا تو اس کتاب کو پانچ مختلف کتابوں میں تقسیم کر دیا 1۔ پیدائش، 2۔ خروج، 3۔ احبار، 4۔ گنتی، 5۔ استسنا۔ باب اور آیات کی تفصیل 1240ء عیسوی میں کارڈینل ہوگو نے کی“ (احوال کتاب مقدسہ حصہ اول باب 48، صفحہ 117، مطبوعہ لندن)

(یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ تورات پر تباہی و بربادی کے 7 دور آئے جن کی تفصیل متعلقہ کتب میں ہے۔)

bi-ble \ 'bi-bel \ n [ME, fr. OF, fr. ML blia, fr. Gk pl. of bibilion book, dim. of byblos papyrus, book, fr. Byblos, ancient Phoenician city from which papyrus was exported! 1 cup a : the sacred scriptures of Christians comprising the Old Testament and the New Testament b : the sacred scriptures of some other religion (as Judaisiam) 2 obs: book 3 cup : a copy or an edition of the Bible 4 : a publication that is preeminent esp. in authoritativeness <the fisherman's ~ > 5 : something suggesting a book: as a : a small holystone b: OMASUM

THE BOOKS OF THE OLD TESTAMENT

ROMAN CATHOLIC CANON	PROTESTANT CANON	ROMAN CATHOLIC CANON	PROTESTANT CANON
Genesis	Genesis	Wisdom	
Exodus	Exodus	Ecclesiasticus	
Leviticus	Leviticus	Isaiah	Isaiah
Numbers	Numbers	Jeremiah	Jeremiah
Deuteronomy	Deuteronomy	Lamentations	Lamentations
Joshua	Joshua	Baruch	
Judges	Judge.	Ezekiel	Ezekiel
Ruth	Ruth	Daniel	Daniel
1&2King	1&2Samuel	Osee	Hosea
1&4King	1&2Kings	Joel	Joel
1&2Paralipomenon		1&2Chronicles	Anos Anos
1Hudras	REzra	Abdias	Obadiah
2Esdras	Nehemiah	Jonas	Jonah
Tobias		Micheas	Micah
Oudith		Nahum	
Esther	Esther	Habacuc	Habakkuk
Job	Job	Sophonias	Zephaniah
Psalms	Psalms	Aggeus	Haggai
Proverbs	Proverbs	Zacharias	Zechariah
Ecclesiastes	Ecclesiastes	Malachias	Malachi
Canticle Of Canticles	Song Of Solomon	1&2Machabees	

JEWISH SCRIPTURE

Law	1&2Kings	Nahum	Song Of Songs
Genesis	Isaiah	Habakkuk	Ruth
Exodus	Jeremiah	Zephaniah	Lamentations
Leviticus	Ezekiel	Haggai	Ecclesiastes
Numbers	Hosea	Zechariah	Esther
Deuteronomy	Joel	Malachi	Daniel
Prophets	Anos	Hagiographa	Ezra
Joshua	Obadiah	Psalms	Nehemiah
Judges	Jonah	Proverbs	1&2Chronicle
1&2Samuel	Micah	Job	

PROTESTANT APOCRYPHA

1&2Esdras	Wisdom Of Solomon	Baruch	Susanna
Tobit	Ecclesiasticus	Pror-Of Azariah	Bel And The Dragon
Judith	Or The Wisdom Of Jesus Son Of Sirach	And The Song Of The Three Holy Children	The Fryer Of Manasses
Additions To Esther			1&2Machabee

یلمت اور اس کی اصطلاحات مذہبی حلقوں میں ہمیشہ بہت متنازعہ فیہ پائی جاتی ہیں اور یہ یہود و نصاریٰ کی پوری تاریخ کی حقیقت ہے۔)

"To be sure, many parts of the Bible do not rank very highly as literature; their style is ordinary and their language repetitive" (As Above Page 570)

(ادب کے معیار پر بائبل کے بہت سے اجزا پورے نہیں اترتے، انداز عامیانه اور بات بار بار کہنے کا ہے) (مذکورہ، صفحہ 570، پیرہ 3)

"The books were composed over a period of many centuries (how many is a matter of debate) in three languages- Hebrew, Aramaic and Greek Their authors include the sheeperds and the kings, men of considerable learning and men of hug."2

(ان کتابوں کی تدوین کئی صدیوں میں ہوئی (کتنی صدیاں) اس پر گفتگو ہو سکتی ہے) اور تین زبانوں عبرانی، سریانی اور یونانی میں یہ مدون ہوئی۔ اس کے تدوین کنندہ چرواہے بھی تھے اور بادشاہ بھی، اعلیٰ صلاحیتوں والے تعلیم یافتہ بھی اور اپنے اپنے خول میں بند رہنے والے متعصب بھی)

(Encyclopedia Bretanica Bible - Page 570, column 2 outline.)

"When a Protestant examines a Roman Catholic version of the Bible, he notices the presence of certain books that do not appear in his own Bible. Why should this be so, he may ask, and how did those books get into the Bible In addition when almost any reader examines a new translation of the Bible he discovers that some well known passages are missing from it."

(ایک پروٹیسٹنٹ جب رومن کیتھولک عقیدہ کی بائبل دیکھتا ہے تو وہ اس میں کچھ اضافی باب پاتا ہے۔ جو اس کی اپنی بائبل میں نہیں۔ وہ پوچھ سکتا

ہے کہ ایسا کیوں ہے اور یہ باب اس کتاب مقدس کا حصہ کیسے بن گئے؟۔
مزید براں جب کوئی قاری بائبل کا نیا ترجمہ دیکھتا ہے تو اس میں چند معروف
پیرے غائب ہیں)

(Encyclopædia Britannica Bible'- Canon
and Text- Page 575).

توریت و انجیل کی صحت و حقانیت کے مصنف (اگر کوئی معقول شخص ہے تو) کی
کے لئے انہی کے دانشوروں کی مصدقہ تحریروں سے تحریف ثابت ہو چکی ہے تاہم
عملی مثالیں اور پیش کئے دیتے ہیں۔ تاکہ مسلمان قاری کا الجھاؤ بھی باقی نہ رہے اگر
قرآن کے بیان کے بعد تحریف کا ثبوت مانگنا مومن کے ایمان سے فروتر ہے
تضادات

”☆ آدم کو کہا گیا کہ جس دن تو نیک و بد کے درخت کا پھل
کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ (پیدائش 17:2)

☆ آدم پھل کھانے کے بعد 930 برس جیتا رہا۔ (پیدائش 5:5)

”☆ تو تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ایہو اور بنی اسرائیل

کے 70 بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اسکے
پاؤں کے نیچے نیلم کا پتھر کا چبوترہ تھا۔ (خروج، 9-10:24)

☆ اور یہ بھی کہا تو مینا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ
کر زندہ نہیں رہے گا۔ (خروج، 20:33)

2- ☆ عہد عتیق کے تین ادوار (حضرت آدم سے موسیٰ تک فصل اول) واقع
میں کروڑوں سالوں کا درمیانی فرق ہے۔ یہ دعویٰ بائبل کے علم سے ناواقفیت
جہل مرکب کا شاہکار ہے کہ عہد عتیق کے پہلے باب، پیدائش میں تخلیق آدم
طوفان نوح تک عمروں کے بیان سے مدت کا تعین واضح ہے مثلاً

حضرت آدم کی پیدائش تک وقت	عمر (سال)	نام
930	930	آدم
1042	912	سیت
1140	905	انوس
1235	910	تینان
1290	895	محلل ایل
1422	962	یارو
987	365	حنوک
1656	969	مھو سلخ
1651	777	لمک
2006	950	نوح
2156	600	سم
2096	438	ار کسد
2122	433	سلخ
2187	464	عبر
1996	239	فلج
2026	239	رعو
2049	230	سروج
1997	148	غور
2083	205	تارح
2123	175	ابراہیم

”ابراہیم علیہ سے عیسیٰ علیہ تک محتاط ترین اندازوں کے مطابق 18 صدیوں کا فاصلہ ہے اگرچہ بائبل یہ اعداد و شمار پیش نہیں کرتی۔ 1975ء میں مسیحی کتب کے حساب سے جو محتاط تخمینے کی حیثیت سے زیادہ وزنی نہیں، تخلیق انسان کی مدت 5736 سال بنتی ہے“

(The Bible, The Qur'an and Science
Maurice Bucaille, The date of the world's
creation and the date of the man's
appearance on Earth p-29)"

اسلن کی تخلیق، تو ہزاروں سال سے آگے نہیں بڑھتی مگر، صحت و حقانیت کی
انتہا کہ اوم سے مومن تک ۵۰ لاکھ کروڑوں سال تک پہنچا دیا گیا۔ ہم مسیحی برادری کی
بت نہیں کرتے، ہم ان مسلمان تاریخی حضرات سے مخاطب ہیں جن کو "اسلام کی
تاریخی" سے نکل کر "مسیحیت کی روشنی" تک لانے کے لئے دیانت کا یہ مظاہرہ ہے
ضمناً یہاں یہ ذکر بھی کر دیا جائے کہ جو ماہرین ترقی و تحقیق کے نام پر آج ہمیں یہ
بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر 50 ہزار سال یا 5 لاکھ سال وغیرہ قبل کی کھوپڑی ملی یا ڈھانچہ
ملا وہ علم کے نام پر جہالت پھیلانے والے ہیں۔ البتہ غیر انسانی اشیاء لاکھوں سال پرانی
ہو سکتی ہیں کہ تخلیق کائنات کی تاریخ پرانی ہے اور خود قرآن اس پر گواہ ہے۔ سورۃ
الدھر کا آغاز بہترین شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اهل اتی علی الانسان
حين من اللھر لم یکن شیئی مذکور۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ لامتناہی
مدت تک (اس کی پیدائش تک) وہ کچھ نہ تھا۔

3- نوح بھی سچائی اور راستبازی سے بھرپور تھے۔ اس پر عہد نامہ عتیق
کی حقانیت، کا شاہکار ملاحظہ فرمائیے بلکہ چند دوسرے پیغمبروں کی عصمت پر گواہی بھی
دیکھ لیجئے۔

"اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے انگور کا ایک باغ لگایا اور
اس نے مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا اور
کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو
باہر آکر خبر دی۔۔۔۔" (پیدائش (9: 20-22))

"(عذاب کے فرشتوں کی ہدایت کے بعد) اور لوط صغر سے نکل کر
پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں۔ کیونکہ اسے صغر
میں بستے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب

پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے اور ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی اور پلوٹھی اندر گئی اور اپنی باپ سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش اور آج بھی اس کو مے پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ کب لیٹی اور کب اٹھی سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنی باپ سے حاملہ ہوئیں“ (پیدائش 19: 30-36)

عصمت انبیاء کے حوالے سے ”حقانیت اور صحت“ سے بھرپور تورات کا اقتباس آپ پڑھ چکے ہیں اب تضاد بیانی سے متعلقہ بعض سوالات دیکھنے سے پہلے ایک اور اقتباس اسی حوالے سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہم اگر کوئی تبصرہ نہ بھی کریں تو ان دو تحریروں کو ملا کر پڑھنے والا خود ہی فیصلہ کرنے کے قابل ہو گا۔

”تب ان مردوں نے (عذاب کے فرشتوں نے) لوط سے کہا کیا یہاں تیرا کوئی اور ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکل لے کیونکہ ہم اس مقام کو نیست و نابود کریں گے“ (پیدائش 19: 12)

اس کھلے تضاد پر عقل دنگ ہے۔ بیٹیاں شادی شدہ ہیں، باپ پینیر ہے، شراب (مے) ہر شریعت میں حرام رہی ہے، باپ اور بیٹیاں معیار تقویٰ کی بنیاد پر عذاب سے محفوظ ہوئے ہیں، قریب ہی چند سو کلو میٹر کے فاصلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بستی ہے جس کا حضرت لوط علیہ السلام کو بھی علم ہے اور ان بالغ بیٹیوں کو بھی، شراب ایسا مشروب نہیں جو دھوکے سے پلایا جاسکے اس کی بو اور کڑواہٹ مسلہ ہے اور پھر وہ شراب پہاڑ کی غار میں آئی کہاں سے یا پینیر کے گھر میں

تھی جسے چلتے وقت ناچی خاندان نے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ کیا ان سوالات کے جوابات کوئی حقانیت کا داعی دے سکے گا؟

4- اللہ کی باتوں کو کبھی زوال نہیں۔ (شہادت الوحی)۔ مسلمان کے لئے تو یہ بات جزو ایمان ہے اس میں معمولی سی جھول بھی ایمان کو عارت کرنے کے لئے کلنی ہے اور قرآن اس پر بہت واضح دلیل لاتا ہے مگر جیسا کہ اوپر شواہد سے سامنے آ چکا ہے، ہر دور کے لوگوں نے اللہ کے لازوال کلمات کو زوال سے ہمکنار کرنے کی اپنی سی سعی کی ہے جنہیں اپنی بات کی "صحت و حقانیت" کا زعم ہے وہ صرف اس کا جواب دے دیں کہ کیا ان کا یہ فرمان سچا ہے کہ "نوح علیہ بھی سچائی اور راستبازی سے؛ رپور تھے" یا عہد نامہ عتیق کی مذکورہ پیش کردہ آیت 20: 22، باب 9 سچائی بیان کرتی ہے یا پھر مسرت لوط علیہ کے حوالہ سے عصمت انبیاء کو "مستحکم" کرنے والی عہد نامہ عتیق کے باب پیدائش کی آیات 30 تا 36، باب 19، درست ہیں جن نفوس قدسیہ کو خالق نے انسانیت کی راہنمائی کے لئے بچتا کہ وہ نمونہ بنیں، بائبل انہیں زانی شرابی کے روپ میں پیش کر کے اللہ کی باتوں کو لازوال، ثابت کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی باتیں بلاشبہ لازوال ہیں اٹل ہیں اور عصمت انبیاء پر دلیل بھی ہیں ملاحظہ فرمائیے اور خود "حقانیت اور صحت" کا معیار دیکھئے :-

"واذکر فی الکتب ابراہیم انہ کان صدیقاً نبیاً"

○ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا۔ (19: 41)

ووهبنالہ اسحق و یعقوب وکلا جعلنا نبیاً"

ووهبنالہم من رحمتنا و جعلنا لہم لسان صدق علیاً"

○ ہم نے اسے اسحاق علیہ اور یعقوب علیہ عطا کئے اور ہر ایک کو نبی کے

مرتبہ پر فائز کیا، ہم نے اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے لئے سچی ناموری

رکھی۔ (19: 49/50)

واذکر فی الكتاب موسیٰ انه کان مخلصاً وکان
رسولاً نبیاً ○ اس کتاب میں موسیٰ علیہ کا ذکر کرو بے شک رسول
تھا۔ (52:19)

ووهبنا له من رحمتنا احاء ہارون نبیاً ○ اور اپنی
رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر (دست راست عطا کیا) (19:53)

واذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد
وکان رسولاً نبیاً ○ اس کتاب میں اسماعیل علیہ کا ذکر کرو جو
وعدے کا سچا تھا۔ (54:19)

واذکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقاً نبیاً
○ اس کتاب میں ادریس علیہ کا ذکر کرو جو سچائی کا علمبردار تھا۔ (56:19)

اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ
ادم و ممن حملنا مع نوح و من ذریتہ ابراهیم و
اسرائیل و ممن ہدینا و اجتبینا لانا تتلی آیات
الرحمن خروا سجدوا یکیا ○ یہ ہیں انبیاء جن پر اللہ نے
احسان کیا اولاد آدم علیہ میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ
کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم علیہ اور یعقوب علیہ کی اولاد میں سے اور
جنہیں ہم نے چنا اور ہدایت بخشی۔ جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی
ہیں تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔

یہ ہیں اللہ کی لازوال باتیں قرآن جنکا محافظ ہے اور آج ساڑھے 14 صدیاں
لڈنے پر جس کے ایک حرف پر زوال نہیں آیا۔ الحمد للہ۔

5- اتصال تواتر

اتصال و تواتر کے حوالے سے "صحت و حقانیت" کے مصنف جو ویل
ہیں خود بائبل اس کا منہ چڑاتی ہے۔ اس کے اتصال و تواتر پر اس قدر چرچ کے
عہد نامہ عتیق ہو یا جدید ان کا سینہ و انداز ہے۔

"The time span covered by the main body of the Old testament is approximately 1000 years. According to most archaeologists and historians the Exodus took place some time after 1300 B.C and the return of Ezha shortly before 400 B.C. At the other end of the story of books of the Maccabees provide some additional dates for the period between Ezra and the new Testament. But Old Testament history deals largely with the nine or ten centuries beginning at the Exodus."

عہد نامہ عتیق کا معتد بہ حصہ کم و بیش ایک ہزار سال پر محیط ہے۔ ماہر
آثار قدیمہ اور تاریخ دان حضرات کے مطابق ہجرت (خروج) کا وقت 1300
ق م ہے اور عزرا کی واپسی تو 400 ق م سے کچھ پہلے ہے۔ دوسری جانب
یہود کے خطوط عہد نامہ جدید کے حوالے سے عزرا کی واپسی کے ضمن میں
کچھ اور مدت کا تعین کرتے ہیں۔ تاہم عہد نامہ عتیق (قدیم) خروج یا ہجرت
کو نویں یا دسویں صدی قبل مسیح تک محدود رکھتا ہے۔

Encyclopedia - Article 'Bible' - page - 571)

"تورات پر متعدد بار آسمانی آفتیں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے
کئی بار یہ کتاب گم ہوئی اور کئی بار لکھی گئی" (احوال کتاب مقدس
اول صفحہ 117 باب 48 مطبوعہ لندن)

"توریت پہلی گمشدگی اور بازیابی: ☆ اور سردار کلہن
نے ساخن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر سے تورات کی کتب ملی

اور خلیفہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا اور سافن نثی بلوشاہ کے پاس آیا اور بلوشاہ کو خبر دی کہ تیرے خلاموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور سافن نثی نے بلوشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے۔ اور سافن نے اسے بلوشاہ کے حضور پڑھا جب بلوشاہ نے تورات کی کتاب کی باتیں سنیں تو اپنے کپڑے پھاڑے ☆ (سلاطین دوم باب 22ء آیات 8 تا 12)

”توریت کی دوسری گمشدگی اور بازیابی : ☆ اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلیم کی فصیل ڈھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیئے اور اس کے سب قیمتی ظروف کو برباد کیا اور جو نگواری سے بچے اور وہ ان کو باہل لے گیا اور وہاں وہ اس کے (بخت نصر کے) اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے بستیوں کا آرام پالے کیونکہ جب تک وہ سنسن پڑا رہا تب تک یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا (کتاب گم رہی)“ (تواریخ دوم 36: 19 تا 21)

نمونہ ہم نے چند اقتباسات مسیحی کتب سے بلکہ خود تورات سے پیش کیئے ہیں۔ یہ اختصار کی مجبوری ہے ورنہ کتاب مقدس پر تاریخی شواہد کی روشنی میں جو بیبت آئی، اس پر کتاب مقدس کی اپنی شہادتیں موجود ہیں مثلاً ”تیسری تباہی 170 ل مسیح میں انطاکیہ کے بلوشاہ انیونیس کے ذریعے، چوتھی تباہی 70ء قبل مسیح میں نزاہ ٹیلس کے ذریعے پانچویں بربادی ٹیلس کے حملے کے 65 سال بعد یعنی 5 قبل مسیح میں قیصر ڈرین کے عہد میں، چھٹی تباہی 400ء میں رومیوں پر وحشی اقوام کے غلبہ کے وقت اور ساتویں بار 613ء عیسوی میں خسرو پرویز کے یروشلیم پر حملے کے وقت جب کم و بیش نوے ہزار عیسائیوں کے قتل عام کے ساتھ گرجے اور متبرک نشانات تک مٹا دیئے گئے۔ اس کی تفصیلات کے لئے جس کا جی چاہے مسیحی مصنفین کی کتب

اور الکتب کے مقالات معروف، مطبوعہ مرزا پور 1860ء کے صفحہ 20-19 دیکھ لے۔
6-7-قدم نئے

ارون کے قریب بحر مردار کے آس پاس قرآن کے غاروں سے 1945ء میں ملنے والے بعض مخطوطات سے بائبل کی صداقت ثابت کرنا انتہائی کم علمی ہے۔ ان مخطوطوں (Dead sea scrolls) نے جو کچھ دیا اسے ایک اخبار کی خبر میں دیکھ لیجئے کسی برادری کا سر جھکانے کے لئے تو یہی کلن ہیں۔

” (نیویارک - انٹرنیشنل ڈسک) عیسائیت کے بنیادی عقائد یہودیوں نے وضع کیے تھے۔ بحر مردار کی غاروں سے قدیم مخطوطے دریافت ہونے سے یہودیت اور عیسائیت کے موجودہ عقائد کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اسرائیل نے ساہا سل تک محققین کو ان مخطوطات کی ہوا نہ لگنے دی۔ لانگ بیچ میں کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ کے مذاہب کے پروفیسر رابرٹ آئزمن نے حل ہی میں ان مخطوطات کا دقیق مطالعہ کرنے کے بعد یہ انکشاف کر کے دنیا میں تھلکہ مچا دیا ہے کہ عیسائیوں کا حضرت یسوع مسیح کو صلیب دینے جانے کا عقیدہ دراصل ایک قدیم یہودی فرقے کی اختراع ہے۔“

"Attention was new focused upon essential difference between" the Scrolls and the New Testament."

(Dead Sea Scroll- page 13, Para-2, John M. Allegro)

عہد نامہ جدید اور مخطوطات کے مابین ناگزیر تضادات پر اب توجہ

مرکوز کی گئی۔ (بحر مردار کے مخطوطات از جان ایم الیگرو)

"On the other hand, the view of Jesus's mission and person as represented by the letters of St. Paul, the earliest of the New Testament records, and dating, supposedly, to within a decade or two of the Crucifixion, is completely different again. If we had only this correspondence to go on, we should know practically nothing about the

Tescher's public ministry, his sayings or details, including the date, of his shameful death."

(Dead Sea Scrolls - John M. Allegro, Page-14, Para-3).

(دوسری طرف سینٹ پال، کا یسوع کے مشن اور شخصیت پر اظہار خیال، عہد نامہ جدید کی ابتدائی تدوین کے عہد کا مفروضہ، کہ یہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دیئے جانے کے عشرہ دو عشرہ بعد ہوئی تھی، اب بالکل مختلف ثابت ہے۔ اگر ہم اس مفروضے کو درست مان لیں تو ہم عملاً "معلم و مربی (یسوع) کے متعلق اس کی شخصیت اور پیغام کے حوالے سے کچھ نہ جان سکیں گے خصوصاً اس کو دی جانے والی شرمناک موت کے مد و سل)

"The New Testament is still our main witness, and we can't afford to neglect the Gospel narratives, however lacking they may be in chronological consistency, geographical, topographical, sociological, political, philological or religious"

(Dead Sea Scrolls, Page-193).


(آج بھی ہمارے لئے عہد نامہ جدید معتبر شہادت ہے اور ہم اس کے مرتسبن کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے یہ کتنی بھی تاریخی عدم تسلسل کا شکار ہو، جغرافیائی، ارضیاتی، معاشرتی، سیاسی، علم السن اور مذہب کے معیار سے بعید ہو۔)

پھر اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہی وہ مسئلہ ہے (مخطوطات اور عہد نامہ جدید) جس سے اس کتاب میں بحث کی گئی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا بھر میں قرآن سے دستیاب ہونے والے مخطوطات سے گہری دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ عیسائی تصورات و عقائد اور اس کے نظریات و دعویٰ کے لئے اس نئی دریافت نے جو سنگین خطرہ پیدا کیا ہے اسی کی بنا پر عالم عیسائی، ان کے پادری اور مذہبی رہنماؤں کے اعصاب پر

مخطوطات مسلط ہو گئے ہیں۔ ایڈمنڈ ولسن کی کتاب ”بحر مردار کے مخطوطات“ کی مقبولیت کا محض یہی سبب نہیں کہ اس میں مصنف نے بڑی خوبی کے ساتھ ان مخطوطات کی پوری کہانی بیان کر دی ہے بلکہ یہ بات بھی ہے کہ مصنف نے اس میں واضح طور پر یہ حقیقت نمایاں کر دی ہے کہ ان مخطوطات نے عیسائی دنیا کے لئے گونا گوں الجھنیں اور پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں اور یہ کہ عیسائی دنیا کا عروج و فروغ محض تاریخی اتفاق کا ایک جزو اور نتیجہ ہے عیسائیت کے عقائد اور الہامی تعلیمات کا عروج و ترقی سے کوئی واسطہ نہیں ہے“ (مخطوطات اور عہد نامہ جدید - کرٹل سٹڈیا - مطبوعہ 57 صفحہ 21)

پرانے مخطوطات کے حوالے سے تورات و انجیل کی صحت و حقانیت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ علم و تحقیق کی بددیانتی کی انتہا یہ ہے کہ قاری کو اپنی بات یا درست کہے، تو اپنے جھوٹ کا یقین دلانے کے لئے، بعض ایسی کتابوں کے نام اور حوالے لکھ دیئے جاتے ہیں جن تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی اور وہ بیچارہ یہ باور کر لیتا ہے کہ جو کچھ اتنی بڑی یا نایاب کتابوں میں لکھا ہے یقیناً درست ہو گا اور گمراہی یہیں سے جنم لیتی ہے کہ گمراہ نے گمراہ کرنے کے لئے بیج ہی گمراہی کا لگایا ہے۔ ہم یہاں اپنے قاری کی معلومات کے لئے بحر مردار کے قرآن عاروں سے ملے مخطوطے کی نقل پیش کرتے ہیں جو دلچسپی سے خللی نہیں ہے:

From the Dead Sea Scrolls, a photograph of a fragment of a scroll, copyright Palestine Archaeological Museum, Jerusalem, reproduced by arrangement of PAM 218 of 25 (1965).



9 - تورات اور انجیل میں تحریف کب ہوئی: صحت و حقانیت کے مصنف نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو تحریف توراہ و بائبل میں بیان کی جاتی ہے وہ نزول قرآن سے قبل ہونا ثابت ہے یا نزول قرآن کے بعد اور اس سوال کے منہی یا مثبت جواب پر پھر نئے سوال تشکیل دے کر وہ مسلمان قاری کی گمراہی کا سامن پیدا کرتے ہیں۔ تحریف کی مزید تفصیلات ملاحظہ فرما کر خود ہی فیصلہ فرمائیے تحریف کب ہوئی اور کب نہیں ہوئی:

”انجیل کا مرتب کنندہ اپنے عقیدہ کے مطابق ترمیم کر سکتا ہے۔۔۔ یہ تحریف کی بہت ہی شاذ قسم ہے لیکن عیسائیت کے مسلمہ عقائد کے خلاف ایک شخص مارسیون نے بلاشبہ اس طریقہ کو اپنایا اور اس طرح عیسائیت کے قرن اول ہی میں انجیل کے مختلف متضاد نسخے پھیلنے شروع ہو گئے۔ چوتھی صدی عیسوی میں ایک عالم لوسیاں نے انجیل کے مختلف صحائف اور ان کے متضاد مضامین کا بڑی محنت سے تقابلی مطالعہ کیا اور مطالعہ کی بنیاد پر اس نے انجیل کا ایک نظر ثانی شدہ نسخہ تیار کیا اس مسودہ کو باز نظینی مسودہ بھی کہا جاتا ہے“

(The Origin and Transmission of New Testament L.D. Twettley BD, Page 44-45)

”ہمیں اس غلط فہمی میں جلا نہیں ہونا چاہئے کہ عہد نامہ جدید آج جس شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ وہی شکل ہے جس میں انجیل سب سے پہلے ترتیب دی گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ کچھ نامعلوم یا غیر معروف لوگوں کے چھوٹے موٹے نوشتے مفید طلب پا کر معروف و معلوم مصنفوں کی تصانیف میں شامل کر دیئے گئے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک حقیقت ہے کہ عہد نامہ جدید کا کوئی صحیفہ بھی اس حالت میں موجود نہیں ہے جس شکل میں اس کو اصل مصنف نے مرتب کیا تھا اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ عہد نامہ جدید کے ابتدائی حصوں کی پولس کے ہاتھوں تحریر و ترتیب کے عین وسائل بعد تک عہد نامہ جدید کو نہ تو کسی قطعی شکل اور

مکمل صورت میں کبھی پیش کیا گیا اور نہ ایک مکمل اور ناقابل تغیر کتاب کی حیثیت سے پھیلا نا ممکن ہو سکا“

(The Bible and its Common Reader-
Netty Ellen Chase 1858 pages 280-281).

”یوحنا نے جناب یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کی جو روداد بیان کی ہے وہ نمایاں طور پر کتب متفقہ سے مختلف ہے حتیٰ کہ یوحنا کا آغاز کلام بھی مرقس سے مختلف ہے (یہاں یہ بات واضح رہے کہ مرقس کی انجیل میں باب 16 آیت 8 کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اصل انجیل کا حصہ تسلیم نہیں کی جا سکتا) متی اور مرقس کے خاتمہ کلام کو نظر انداز کر کے مرقس کی بعض عبارات لوقا کی انجیل، رسولوں کے اعمال اور پولوس کے خطوط کی عبارات کا موازنہ و تقابل کیا جا سکتا ہے“

(The early Church and the New Testament - page 198.)

”ہم کچھ نہیں جانتے کہ مرقس کون تھا۔ یہ بات بعید از ممکن ہے کہ وہ برنباس کا چچا زاد بھائی ہو۔۔۔ پطرس نے جو واقعات بیان کئے ہیں انہیں بہت سے راویوں کی یادداشتوں کی چھلتی سے گزار کر قبول کیا گیا ہے۔۔۔ ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مرقس کی انجیل کا مصنف عیسائی تھا اور اس کی زبان چونکہ آرا می تھی اس بنا پر اندازہ ہوتا ہے وہ یہودی النسل تھا“

(The Rise of Christianity E.W. Barner - page 108 - 109)

”یہ بات تو یقینی ہے کہ چوتھی صدی عیسوی کے وسط میں انجیل کے لاطینی قلمی نسخوں کے متن میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے“

(Bible Encyclopedia vol: iv' page 4993)

”یونانی زبان بولنے والوں کا کلیسائی نظام کسی تعطل کے بغیر قائم چلا آ رہا تھا اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نمایاں اہمیت کے قلمی نسخوں میں جو ابھی تک محفوظ چلے آتے ہیں کچھ سنگین غلطیوں کی اصلاح بھی کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں مختلف صحائف اور ان کی روایات میں

اختلاف نمایاں ہونا عین ممکن تھا اسے اتفاقی اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ عہد نامہ جدید کے مختلف النوع مسودات کا بار بار جائزہ لیا ہی اس نیت سے جاتا رہا ہے کہ ان میں جہاں جہاں ضرورت اور مصلحت کا تقاضا ہو تبدیلی کر دی جائے۔“

(Bible Encyclopedia vol: iv ' page 4980)

تحریف کب اور کیوں کا جواب مسیحیت کی مسلمہ و مصدقہ کتب سے آپ کے منہ رکھ دیا گیا ہے۔ دلائل کو قبول یا رد کرنے کے لئے آپ قلب و ضمیر کی آواز پر عمل کریں گے تو صحت و حقانیت کی روداد کا بھرم بچ چورا ہے پھوٹا نظر آئے گا۔ ریف کا آغاز تو حضرت موسیٰ علیہ کی وفات کے تھوڑی دیر بعد ہی ہو گیا تھا اور یہی کچھ عہد نامہ جدید کے ساتھ حضرت مسیحی علیہ کی وفات کے بعد ہو گیا۔ اس ضمن میں کونسا ہوت ہے جو ہم نے گذشتہ اوراق میں آپ کے سامنے نہیں رکھا۔

تمام الہامی کتب اپنے سے پہلی کتب کی تائید و تصدیق کرتی رہی ہیں اور اسی طرح پہلے انبیاء و رسل کی بھی مگر اس تائید و تصدیق کے باوجود قابل اتباع ہمیشہ ہی آخری کتاب رہی۔ یہ تائید و تصدیق صرف اس امر کی ہوتی تھی کہ اپنے دور میں نبی اور اس پر نازل کتاب درست تھی اور نیا نبی نئی کتاب آتی ہی اس وقت تھی جب پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت معقول رو و بدل کا شکار ہو جاتی۔ تحریف سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ تمام کی تمام کتب بدل ڈالی جائے بلکہ عملی تحریف یہ ہے کہ ناپسند حصوں کی جگہ من پسند حصے ڈال دیئے جائیں یا معنی و مطالب اور تفسیر میں ہیر پھیر کر دیا جائے مثلاً اگر اسی چیز کو کسوٹی مان لیا جائے تو آپ انجیل متی کی ان آیات کی تشریح کیا کریں گے۔

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے“ (متی 5 - 18 - 17)

تورات کی معدوم آیت کو زندہ کرنے یا پورا کرنے کا نام انجیل ہے جو شریعت موسوی کا تسلسل ہے اور بعینہ اسی طرح قرآن، توریت و انجیل کی معدوم آیات اور مسخ شدہ شریعت موسوی کی تکمیل کے لئے حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ نزول قرآن سے قبل حضرت موسیٰ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ کی امتوں نے شریعت موسوی جو حشر کیا وہ تاریخ عالم کا حصہ ہے اس مسخ شدہ شریعت پر خود مسیحی دانشوروں کے اقوال مع حوالہ جات پیش کیئے جا چکے ہیں لہذا قانون فطرت کی رو سے اس نشاۃ ثانیہ انتظام ہونا ناگزیر تھا اور خالق کائنات نے اپنے آخری نبی ﷺ پر قرآن نازل فرما کر شریعت کو مکمل کر دیا اور بار بار کی تحریفات کا راستہ روکنے کیلئے اس کی ذمہ داری بھی خود قبول فرمائی۔ ساڑھے چودہ صدیوں کی تاریخ اس حفاظت پر گواہ ہے۔

مذکورہ توضیحات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ قرآن کریم میں تورات و انجیل کی تائید و تصدیق کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ قرآن نے حضرت آدم علیہ سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ تک بے شمار انبیاء کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور ان میں سے جن کو کتابوں سے نوازا ان کا بھی ذکر ہے تو کیا مسیحی احباب کی منطق کے مطابق ان کو بھی اسی طرح برحق مان کر بعد والوں کی نفی کر دی جائے مثلاً "جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ کے صحف اگر مسیحی کسوٹی پر درست ہیں تو تورات و انجیل کا مقام کیا ہے؟ اگر تورات کے بعد زبور ہے تو انجیل عہد نامہ جدید کی حیثیت کیا ہے؟"

بات اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت سادہ ہے کہ ہدایت کا منبع و مرکز ایک ہے جس کے لئے ہے وہ مخلوق ایک ہے اور ادوار کا فرق انحطاط کو جنم دیتا ہے کہ یہ خالق ہی کی پیدا کردہ فطرت کا تقاضا ہے (چونکہ کی ضرورت نہیں ماضی بعید کو چھوڑ دیجئے اپنے آباؤ اجداد کے دور میں سے جو شعور کے ساتھ آپ کو یاد ہے اسی کی بنیاد پر بتائیے کہ جو اخلاقی، سماجی، معاشرتی، دینی، تعلیمی اور معاشی اقدار چالیس پچاس سال قبل تھیں کیا وہ 30/35 سال قبل جوں کی توں تھیں اور جو تیس سال قبل تھیں کیا وہ پندرہ سال قبل اصل حالت میں تھیں یا جو پندرہ سال قبل تھیں آج جوں کی توں موجود ہیں؟ (بھلے آدمی کا جواب ہو گا کہ نہیں ہیں)

ہماری مثل کو صدیوں پر پھیلائے آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا۔ یہی ہے وہ سبب جس نے رب کائنات، خالق و مالک جہان کی فیز-بیلٹی (Feasibility) میں یاء و رسل کے بتدریج مبعوث ہونے اور معقول و عقول کے ساتھ تجدید شریعت کا نظام فرمایا اور ہر آنے والے نبی کے ذریعے انسانیت کو یہ اطلاع بھی بہم پہنچائی جاتی ہے کہ میرے بعد دوسرا آئے گا جو اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ تاآنکہ یہ شریعت نرسرت محمد پر نزول قرآن کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔ (آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لئے پسند فرمایا)۔ اور ساتھ ہی سرور دو عالم کو رحمۃ اللعالمین قرار دے کر نبوت کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ ماکان محمداً اباحد من رجالکم ولاکن رسولاً و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیئی علیماً۔ (محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ اور انبیاء و رسل کا تسلسل ختم کرنے والے آخری نبی ہیں)۔

”تورات و انجیل کی صحت و حقانیت“ کے مابین مصنف کی طرف سے تورات و انجیل کی قرآن سے تصدیق کے لئے سورۃ المائدہ کی آیات 44، 46 اور 48 کے ضمن میں مذکورہ وضاحت تسلی بخش ہونی چاہیے بشرطیکہ کوئی کھلے دل و دماغ سے اس کا مطالعہ کرے۔ لیکن اگر آیات کو سیاق و سباق کے دیکھیں تو یہ اہل کتاب کے مکرو و جل پر گواہ ہیں۔

”اے پیغمبران لوگوں کی روش تمہیں غم میں ڈالے جو کفر کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں ان لوگوں (اہل کتاب) میں سے جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے یہ جھوٹ کے رسیا اور دوسروں کی باتیں ماننے والے ہیں جو خود تمہارے پاس نہیں آتے۔ وہ کلام کو اس کا موقع محل معین ہونے کے باوجود اس کے محل سے ہٹا دیتے ہیں“ کہتے ہیں اگر تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تب تو قبول کر لینا اور اگر یہ نہ

ہو تو اس سے بچ کر رہنا اور جس کو اللہ فتنہ میں ڈالنا چاہیے تو تم اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ کے رسیا اور پکے حرام خور ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے معاملے کا فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو۔ اگر ان کو ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر تم فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ قانون عدل پر عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ تمہیں حکم کس طرح بتاتے ہیں جبکہ تورات ان کے پاس موجود ہے پھر حکم بنانے کے بعد برگشتہ ہو جاتے ہیں یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔“

”بے شک ہم ہی نے تورات اتاری جس میں ہدایت و روشنی ہے اسی کے مطابق خدا کے فرمانبردار انبیاء، ربانی علماء اور فقہا یہود فیصلے کرتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ کتاب الہی کے امین اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے کہ لوگوں سے نہ ڈریو اور میرے احکام کو دنیا کی متاع حقیر کے بدلے فروخت نہ کیجو اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں تو یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے اس میں ان پر فرض کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے سو جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جو اللہ کی لائی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں گے تو وہی لوگ ظالم شہریں گے اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا مصداق اس سے پیشتر سے موجود تورات کے اور ہم نے اس کو عطا کی انجیل ہدایت اور روشنی پر مشتمل مصداق اپنے سے پیشتر تورات کی اور ہدایت و نصیحت خدا ترسوں کے لئے واجب ہے کہ اہل انجیل بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں

تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔“

”اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ‘ صدق اس سے پیشتر سے موجود کتاب کی اور اس کے لئے کسوٹی بنا کر تو ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا اور اس حق (قرآن) سے ہٹ کر‘ جو تمہارے پاس آچکا ہے‘ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ شرایا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو بخشی (قرآن) تو بھلائیوں کے لئے ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے (قرآن) اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا وہ تمہیں اس چیز کی کسی بات سے پھسلا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے پس اگر وہ اعراض کریں (منہ موڑیں) تو سمجھ لو کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے اور بے شک ان لوگوں میں بیشتر نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طالب ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ (درست) ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو یقین کرنا چاہیں۔“ (المائدہ 41 تا 50 - ترجمہ تدر القرآن)

قرآن حکیم کی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے بلکہ من مرضی کے ساتھ ترجمہ درج کر کے ”تورات و انجیل کی صحت و حقانیت“ ثابت کرنے والا مبینہ سکندر جدید‘ ساہ لوح مسلمانوں کو جس طرح الجھا کر اپنے جل میں لانا چاہتا ہے‘ سورۃ المائدہ کی آیات 41 تا 50 کے تسلسل نے اس کے مکرو و جل کا تارپود بکھیر دیا ہے۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے معزز یہود کے ایک شادی شدہ جوڑے سے زنا سرزد ہوا۔ تورات میں اس کی سزا سنگساری ہے انہوں نے مدینہ کے یہود کی وسالمت سے معاملہ نبی اکرم تک بھیجا مگر اس تاکید کے ساتھ کہ وہ بھی سنگساری کا حکم دیں تو

نہ مانند کعب بن اشرف وغیرہ مقدمہ لائے تو نبی رحمت نے فرمایا کہ میرا فیصلہ مانو گے یا تورات کا انہوں نے آپ کا فیصلہ قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی تو آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور نے ابن صوریانا ہی یہودی کے علم پر سوال کیا تو یہود کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر اس سے بڑا تورات کا عالم کوئی نہیں۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ نبی اکرم نے اسے قسم دے کر تورات میں شادی شدہ زانی کی سزا پوچھی تو اس نے بر ملا سب کے سامنے سنگسار کرنا بتایا۔ حضور نے اس سے تورات میں تبدیلی کا سبب پوچھا تو ابن صوریانا نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ سزا صرف غریب کے لئے تھی امیر پر لاگو نہ ہو سکتی تھی لہذا ایک واقعہ نے اسے بدلنے پر مجبور کر دیا واقع یہ تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے سنگسار نہ کیا پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو ہمارے بادشاہ نے اسے سنگسار کرنا چاہا پس قوم اٹھ کھڑی ہوئی پھر سب کے لئے چالیس کوڑے میں اسے بدل دیا گیا۔

اس پس منظر میں یہود کا یہودیہ اور قرآن پاک کا فرمان پڑھ کر خود فیصلہ فرما لیجئے کہ کیا ان آیات سے وہی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ مصنف جس کے لئے مصر ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت 43 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فسلوا اهل ذکر ان کنتم لاتعلمون (اور ہم نے تم سے

پہلے بھی آدمیوں (بشر) کو ہی دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے تو اگر تم نہیں سمجھتے (کہ بشر رسول ہو سکتا ہے) تو اہل ذکر (اہل کتاب سے) پوچھ لو (کہ پہلے بھی بشر ہی رسول تھے) یہاں بھی بات سیاق و سباق کے مکر سے متعلق ہے بات ہو رہی ہے مشرکین کے اس اعتراض پر کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے جواباً وحی آتی ہے نبی رحمت کی زبان سے کہلویا جا رہا تھا کہ تورات و انجیل کا علم رکھنے والے ابھی موجود ہیں (مثلاً یہود میں سے ابن صوریانا اور نصاریٰ میں سے ورقہ بن نوفل طرز کے لوگ) ان سے پوچھ لو کہ پہلے انبیاء و رسل بھی بشر ہی تھے جنہیں ہم نے وحی اور کتب سے سرفراز فرمایا تھا اس میں یہود و نصاریٰ کی عظمت اور قرآنی تصدیق کہاں سے آئیگی۔

”تورات و انجیل کی صحت و حقانیت“ کے مصنف نے سورۃ مائد کی طرح سورۃ انعام کی آیت 91 سے بھی نہایت عیاری کے ساتھ غلط استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب رسالت ماب کو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہستیوں کی پیروی کا حکم دیا ہے یعنی تورات و انجیل میں جو ہدایت ہے اسکی پیروی کرو۔ مکمل رکوع کو نظر انداز کرے ایک آخری آیت اور وہ بھی نامکمل نقل کر کے مقصد براری کی گئی ہے یعنی اولئک الذین ہدی اللہ فبہدایم اقتدہ ہم آپ کے سامنے مکمل رکوع کا ترجمہ رکھتے ہیں اس مسلسل قرآنی عبارت کو کھلے دل و دماغ سے پڑھئے اور فیصلہ کیجئے کہ اس سے یہود و نصاریٰ کی پیروی کا حکم نکلتا ہے؟۔

”یہ تمہی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ دیتے ہیں حق نہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی تمہی اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ، یوسف علیہ، موسیٰ علیہ، و ہارون علیہ کو (ہدایت بخشی) اس طرح ہم نیکی کاروں کو انکی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ (اسی کی اولاد سے) زکریا علیہ، یحییٰ علیہ، عیسیٰ علیہ، اور الیاس علیہ کو (راہ یاب کیا) ہر ایک ان میں سے صلح تھا (اسی کے خاندان سے) اسماعیل علیہ، الیسع علیہ، اور یونس علیہ اور لوط علیہ کو (راستہ دکھایا)۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی نیز ان کے آہو اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے ہم نے بہتوں کو نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لئے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے راہنمائی کرتا ہے۔ (جو اخلاص سے راہنمائی کا حکم ہوتا ہے۔) والذین جاہلوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو گمراہے راستے کی ہدایت کے لئے سعی کرے اسے ہم ہدایت

سے نوازتے ہیں۔ ارشد) لیکن اگر کہیں ان لوگوں (انبیاء و رسل) نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا عارت ہو جاتا۔ (یہ) وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ (یہود، مشرکین و منافقین) اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو (پرواہ نہیں) ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے (مہاجرین مکہ و انصار مدینہ) جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ (انبیاء و رسل سابقہ) تھے انہی کے راستہ پر تم چلو (گمراہوں کے رویہ کو نظر انداز انہوں نے بھی کیا تھا تم بھی یہی کرو) اور کہہ دو کہ میں (اس تبلیغ و ہدایت کے) کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لئے۔ (انعام 83 تا 91۔ ترجمہ تفہیم القرآن)

ہم اس سے پہلے یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے نبی آخر الزماں تک ہر نبی خالق و مالک کائنات کا فرستادہ تھا اور جس ہدایت کے لئے اسے مبعوث فرمایا وہ بھی ایک ہی ہدایت ربانی تھی۔ نبی تو کوئی بھی منحرف نہ ہوا البتہ اس کی زندگی میں اس کی وفات کے بعد گمراہی کے دلدادہ لوگوں نے مصلحین کے بھیس میں اس ہدایت کو من مانے انداز میں بدل لیا مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سامری کا پھنڑا ہو یا سنگساری کے ظمن میں اوپر گزری تحریف کا قصہ جو یہود کی موجودگی میں ایک یہودی عالم نے نبی اکرم کو سنایا تھا۔ انبیاء و رسل نے اپنی زندگیوں میں ایسے گمراہوں کے مقابلے میں حق پیش کیا اور ہر نبی کی زندگی شاہد ہے کہ اس کے پورے دور نبوت میں کم یا زیادہ گمراہی کسی نہ کسی حال میں موجود رہی کہ یہ بھی منشا ایزدی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ تمیز ختم کر دیتا تو خیر کی عظمت کا احساس و ادراک ہی ختم ہو جاتا۔ دنیا آخرت کے لئے کھیتی کبھی نہ بنتی اسی لئے رسول اللہ کی موجودگی میں بھی یہ گمراہی یہود و نصاریٰ کی شکل میں موجود تھی جس کے بدلے نفوس قدسیہ کا گروہ بشکل مہاجرین و انصار، علم ہدایت کے ساتھ رشد و ہدایت کے غلبہ کیلئے عطا فرمایا گیا۔ اور حضرت محمد کو ہدایت فرمائی گئی کہ پہلے انبیاء کی طرح ان گمراہی پر ڈٹے لوگوں سے

اعراض کرتے ہوئے پہلے انبیاء و رسل کی راہ چلتے حق کے غلبہ کی سعی فرماتے رہے۔

ہم اگر مزید قرآنی آیات کا تجزیہ پیش کریں گے تو بات عیاری و مکاری سے غلط مطلب نکالنے پر ہی ختم ہوگی اس لئے کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں اپنی ہر صحت و حقانیت پر گواہ ہے کوئی تاویل کوئی توجیح کسی بڑی موٹی معروف تفسیر کا نام اس چاند کو مان نہیں سکتا۔ آج کے مسیحی "علما و فضلا" کی نسبت ماضی کے علما و فضلا کے پاس بہتر علم تھا اگر ساڑھے چودہ سو سال میں وہ دین حنیف میں تحریف ثابت نہ کر سکے تو آج کے دور میں علمی کنگلہ پن کے شکار مسیحی مصنفین اپنی جھوٹی خود ساختہ داستانوں سے کیا ثابت کریں گے۔

چلتے چلتے "تورات و انجیل کی صحت و حقانیت" کے صفحہ 60 پر ایک آیت (سورہ انعام آیت 92) وما قدر و اللہ حق قدرہ کا اتنا حصہ نقل کرنے کے بعد تفسیر طبری جلد 11، صفحہ 160 کے حوالہ سے مصنف یہود کا مکر ثابت کرتے ہیں کہ وہ تورات کے بعض صفحات چھپا لیتے تھے جو یقیناً قابلِ مذمت فعل ہے مگر پوچھا جاسکتا ہے کہ اس سے صحت و حقانیت کے حق میں ہے کیا؟

یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کے علما نے تورت انجیل کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو قرآن نازل ہوا تاکہ جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، قرآن اسے نہ صرف ظاہر کرے بلکہ عملاً "نانذ کرے" یہی کچھ نبی اکرم نے خود کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، یوں اسلام کا غلبہ مقدر ہوا جس میں یہود و نصاریٰ نے باوجود سازشوں کے سکھ کا سانس لیا جس پر تاریخ گواہ ہے۔ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ عیسائی حکمرانوں سے نجات اور مسلمان حکمرانوں کی آمد کے لئے عیسائیوں نے باقاعدہ دعائیں کیں۔

آخر میں ہم اپنے مسیحی احباب کی خدمت میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ اسلام آپ کو بزورِ مسیحیت چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا آپ کو اپنا

دین مبارک ہو۔ اکثریت کے ساتھ رہتے، تمام تر حقوق سے فیضیاب ہوتے ہوئے اس کے سچے دین پر ناروا حملے بند کر دیجئے کہ یہ ہر اخلاق و شرافت سے فرو تر رویہ ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہے اور رویے ہی رد عمل میں شدت پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں یسوع مسیح کی حکومت کا خواب سازشوں سے شرمندہ تعبیر نہ ہو گا حضرت یسوع مسیح تو ویسے بھی مکرو سازش کے خلاف تھے۔ مسلمان بے حس ضرور ہے مگر بے ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی چنگاری اس کا سرمایہ ہے۔

☆☆☆

اقلیت کے لئے حقوق و آزادی اور فرائض

حقوق و آزادی

- 1- اپنے مسلمہ عقائد پر بلا خوف و جھجک عمل کرنا۔
- اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ شہری حقوق و آزادی میں برابری۔
- مکمل قانونی تحفظات سے استفادہ۔
- تعلیم اور ملازمتوں میں برابر کا حق ماسوائے چند محدود ذمہ داریوں کے، جہاں صرف مسلمان ہونے کی شرط ہے۔

فرائض

- اکثریت کے مسلمہ عقائد اور پرسل لا کا احترام کرنا۔
- اکثریت کے دین، سماجی و معاشرتی اقدار کی حفاظت کرنا۔
- ملکی آئین و قانون میں مقررہ کردہ حدود، بسلسلہ آزادی و حقوق سے تجاوز نہ کرنا۔
- اپنے قول و فعل سے حب الوطنی کا عملی ثبوت فراہم کرنا۔

مساوات مرد و زن

- اعمال کا اجر مرد و زن کے لئے ایک جیسا ہے۔
- حصول تعلیم کے لئے مرد و زن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ فریقین کے لئے ہر طرح کی تعلیم و تربیت کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔
- حقوق شہریت کے لئے قانون کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ کسی کے لئے کوئی امتیاز نہیں ہے۔

برطانوی خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟

(لندن کے روزنامہ "ٹائمز" 9 نومبر 1993ء کی سروے رپورٹ)



"مغربی میڈیا کی معاندانہ روش کے باوجود اسلام مغربی دلوں کو فتح کر رہا ہے"

"یہ اور بھی ستم ظریفی کی بات ہے کہ اکثر برطانوی نو مسلم عورتیں ہیں حالانکہ مغرب میں یہ بہت پھیلا ہوا ہے کہ اسلام عورتوں سے گھٹیا سلوک کرتا ہے"

"مغرب کے لوگ خود اپنی سوشائٹی سے مایوس ہو رہے ہیں، جس میں بڑھتے ہوئے جرائم، خاندانوں کی تباہی، منشیات اور شراب نوشی کا دور دورہ ہے، بالآخر وہ اسلام کے دیئے ہوئے نظم و اور تحفظ کی تعریف کرتے ہیں"

"برطانیہ کی نو مسلم خواتین نے ہمیں بتایا کہ 'اسلام میں ہمارے لئے کشش کا سبب ہی یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت دونوں کے لئے الگ الگ دائرہ کار تجویز کرتا ہے، جو دونوں کی جسمانی حیاتیاتی ساخت کے عین مطابق ہے۔' ان کے نزدیک مغرب کی آزادی و حقوق نسواں کی تحریک عورت کے ساتھ بغاوت تھی یعنی عورتیں مردوں کی نقالی کریں اور یہ ایک ایسا عمل ہے جسے نسوانیت کی اپنی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔"

"کسی بھی ماڈرن مرد کو کھینچ کر دیکھئے، اندر سے ایک پرانا مرد برآمد ہوتا نظر آئے گا۔ مرد ایک جیسے رہیں گے۔ عورتیں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بدل رہی ہیں لیکن جو کچھ وہ حاصل چاہتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں۔ آزادی و حقوق نسواں کی تحریک مقاصد کے لئے جدوجہد کر رہی ہے ان میں سے اسقاط حمل اور ہم جنس پرستی کے سوا سب چیزیں پہلے ہی اسلام میں میسر ہیں۔"

"مغربی عورت اور مسلم عورت کا تقابلی مطالعہ کریں تو واضح فرق ملتا ہے اسلامی تعلیمات عورت کو زیادہ تقدس اور عظمت حاصل ہے جو مغرب میں عورت کو حاصل نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی نسواں کا اس کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا کہ عورت دوہرے بوجھ تلے دب گئی ہے۔"

مصنف کی دیگر تصانیف

1. شہری دفاع (منظور شدہ GHQ) منکر سول ڈیفنس منکر تعلیم پنجاب سندھ بلوچستان
2. خطوط (منظور شدہ منکر تعلیم)
3. عورت (حقوق و فرائض قرآن و حدیث میں)
4. علماء المسجاب
5. حضرت عمر رضی اللہ عنہ (قرآن و حدیث میں)
6. نام الام (رابطہ عالم اسلام کے لئے خصوصی مقالہ)
7. حاکم (تورات و انجیل کی حقانیت)
8. یونیورسل اسلامک ورلڈ آرڈر
9. علماء عظام اور حضرت علی
10. لہذا ہی ملی لہذا
11. سیلاب اور کشتی رانی
12. احکام وطن پیر یہود میں
13. 21 ویں صدی کا چیلنج اور لوہزم تعلیم و تربیت
14. لوہ فکر یہ (آزادی نسوں کی آڑ میں سماجی لوہروں کی خیانت)
15. خانہ دانی منصوبہ بندی اور تحریف قرآن (i)
16. خانہ دانی منصوبہ بندی اور نام نہاد علماء و دانشور (ii)
17. خانہ دانی منصوبہ بندی کے فتاویٰ کی حیثیت (iii)
18. خانہ دانی منصوبہ بندی کا کیا ہے؟ (iv)
19. سوچ (آپ کے لئے)
20. نماز (جسمانی اور روحانی صحت کی ضمانت)
21. اسلام شدید ترین مسائلوں کی زد میں

جنگ آخر
جنگ آخر

2023 Press - 2011 On


23	دو گزشتہ صلیبیں	آخری صلیبیں جنگ آخری
24	التالی اعصاب کی جو تہنگاری اور حرام سے علاج	آخری صلیبیں جنگ آخری
25	جنگ ایک جو تہنگاری جنگ	آخری صلیبیں جنگ آخری
26	کامیابی و کامرانی کا سریت سارا	آخری صلیبیں جنگ آخری
27	خالق کے مخلوق کے لئے سو درحرام کیوں کیا	آخری صلیبیں جنگ آخری
28	جنگ اور دوزخ و شرف و عزت پر کسے پہنچے ہیں	آخری صلیبیں جنگ آخری
29	کلیب اور حدود پر	آخری صلیبیں جنگ آخری
30	اللہ (تعالیم تیر)	آخری صلیبیں جنگ آخری
31	اللہ (حر اسات حکیم محمد سعید شہید)	آخری صلیبیں جنگ آخری
32	خطوط پر تمام اور اختیارات و جرائم میں قرآن و حدیث کے لکھے کی شرعی حیثیت	آخری صلیبیں جنگ آخری
33	آخری صلیبیں جنگ	آخری صلیبیں جنگ آخری
1	قرآن حکیم کی حکایت جنگ	آخری صلیبیں جنگ آخری
2	دو تھی کا سفر صلیبیں جنگ	آخری صلیبیں جنگ آخری
3	دو تھی کا سفر (عبداللطیف اللہوی)	آخری صلیبیں جنگ آخری
4	حضرت محمد ﷺ سے مخلوق انجیل کی پیشین گوئیاں (الحمیدیہ)	آخری صلیبیں جنگ آخری
1	السلام اللہ و اللہ و اللہ	آخری صلیبیں جنگ آخری
2	السلام اللہ و اللہ و اللہ	آخری صلیبیں جنگ آخری
3	بیم اور طلب حدائق نقاضے	آخری صلیبیں جنگ آخری
4	تفصیلات کیوں لکھے ہیں	آخری صلیبیں جنگ آخری



اشو دگرہ حشر و ہونگا پھر کھی ☆ ووڈوانہ چال قیامت کی چل گیا
(علامہ اقبال)

آخری صلیبی جنگ

(حصہ دوم)



از
عبدالرشید ارشد

لنور پریسٹ
فون: 0454-720401 (رجسٹرڈ)
جوہر پریس بلڈنگ جوہر آباد